



# اللہ والوں کی باتیں



مؤلف: امام المؤمنین احمد بن عبد اللہ اصغر ہانی شافعی وفات ۴۳۰ھ



پیشکش  
مکتبہ المدینہ (مدرسہ اسلامیہ)  
شیخہ زہرا سٹریٹ

تابعین کے اقوال و احوال اور زہد و تقویٰ کا بیان

# حِلِّیَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ

(جلد: 7)

ترجمہ بنام

## اللہ والوں کی باتیں

مؤلف

امام أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَصْفَهَانِي شَافِعِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي (وفات ۴۳۰ھ)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ

(شعبہ تراجم کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

وَعَلَى الْإِسْلَامِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

نام کتاب : حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (جلد: 7)

ترجمہ بنام : اللہ والوں کی باتیں

مُصَنِّف : امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَلِی (وفات: ۴۳۰ھ)

مُتَرَجِّم : ترمذی علی (شعبہ تراجم کتب)

پہلی بار : جمادی الآخرہ ۱۴۳۹ھ، مارچ 2018ء تعداد: 5000 (پانچ ہزار)

ناشر : مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پرانی ہنری منڈی باب المدینہ کراچی

### تصدیق نامہ

حوالہ نمبر: ۲۱۳

تاریخ: ۵ جمادی الآخری ۱۴۳۸ھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰمِيْنَ

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب ”حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (جلد: 7)“ کے ترجمہ بنام ”اللہ والوں کی باتیں“

(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) پر مجلس تفتیش کتب و رسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے

عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ کر لیا ہے، البتہ

کچھ رنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تفتیش کتب و رسائل (دعوتِ اسلامی)

05 - 03 - 2017

WWW.dawateislami.net, E.mail: ilmia@ dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

<https://t.me/faizanealahazrat>



[illegible]

## اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
377	سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات	2	کتاب پڑھنے کی نیتیں
394	حضرت سیدنا یحییٰ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ	3	الْبَدِئَةُ الْعَلَمِيَّةُ كَالْعُرْفِ (از امیر المصنف مدظلہ)
401	سیدنا یحییٰ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات	4	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
405	حضرت سیدنا علی و حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہما	6	حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقوی
410	سیدنا علی و سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہما کی مرویات	104	سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری اقوال
414	حضرت سیدنا داؤد بن نصیر طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	118	سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات
447	سیدنا داؤد بن نصیر طائی رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات	189	حضرت سیدنا شعب بن قحاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
453	حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ	197	احادیث گھڑنے والوں پر مقدمات
492	تصوف کی تعریفات	206	سیدنا شعب بن قحاح رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات
493	مُتَبَعِينَ کے لئے فہرست	251	حضرت سیدنا مشعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
500	تفصیلی فہرست	263	نصیحت آموز اشعار
518	ماخذ و مراجع	269	سیدنا مشعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات
523	الْبَدِئَةُ الْعَلَمِيَّةُ کی مطبوعہ کتب	321	حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ



اللہ، رسول اور اہلبیت کی محبت میں ترتیب

حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیب حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَجِبُوا اللَّهَ لِمَا يَجِدُكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ وَاَجِبُوا لِحُبِّ اللَّهِ وَاَجِبُوا أَهْلَ بَيْتِهِ لِحُبِّ بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ہمیں اپنی نعمتیں ملامت نہ اور محبت الہی کے لئے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لئے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

(ترمذی، ۴۳۴/۵، حدیث: ۳۸۱۴۔ مستدرک حاکم، ۱۳۱/۲، حدیث: ۴۷۷۰)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”صحبت اولیا کی برکات“ کے 16 حروف کی نسبت سے کتاب پڑھنے کی ”16 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: نِیۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرًا مِنْ عَمَلِہٖ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(معجم کبیر، ۱۸۵/۶، حدیث: ۵۹۴۳)

دو مدنی پھول: (۱) بغیر انہیں نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی انہیں نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و صلوٰۃ اور تَعُوْذُ تَسْبِیْہ سے آغاز کروں گا۔ (۱) مفتوح پر نو پر دی ہوئی دو غریبی عبادت پڑھ لینے سے اس پر عمل ہو جائے گا۔ (۲) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۳) حَقِّی الْوَسْمُ اِس کا باؤ ڈھو اور قبلہ رو مطالعہ کروں گا۔ (۴) قرآنی آیات اور احادیثِ مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ (۶) جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسمِ مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، (۷) جہاں جہاں کسی ”صحابی“ کا نام آئے گا وہاں رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور (۸) جہاں جہاں کسی ”بزرگ“ کا نام آئے گا وہاں رَحِمَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۹) رضائے الہی کے لئے علم حاصل کروں گا۔ (۱۰) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے فاتحہ پڑھ کر اس کے مُؤَلِّف کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۱۱) اپنے ذاتی نسخے پر بِعْدَ الضَّرُوْرَتِ خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (۱۲) اپنے ذاتی نسخے کے ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۳) اولیا کی صفات کو اپنالوں گا۔ (۱۴) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۵) اس حدیثِ پاک ”تَتَّهَادُوْا تَخَالُوْا“ ایک دوسرے کو حقد و آپس میں محبت بڑھے گی۔ (موطأ امام مالک، ۴۰۷/۲، حدیث: ۱۷۳۱) پر عمل کی نیت سے (ایک یا سب تو نفع) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دے کر اور اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا۔ (۱۶) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی افراط صرف زبانی جتنا خاص مفید نہیں ہوتا)۔



## الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی رحمۃ اللہ علیہ  
 الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَمْلِیْحُ قُرْآنِ وَسُنَّتِہِ کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک  
 ”دعوت اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصَمَّم  
 رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے  
 ایک مجلس ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ بھی ہے جو دعوت اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام عَلَیْہِمُ اِنَّہُ السَّلَامُ پر مشتمل ہے، جس  
 نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کُتُبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبہ تراجم کُتُب (۳) شعبہ درسی کُتُب  
 (۴) شعبہ اصلاحی کُتُب (۵) شعبہ تفتیش کُتُب (۶) شعبہ تخریج کُتُب

”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع  
 رسالت، مجددِ دین و ملت، حامی سنت، حامی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعشِ خیر و برکت، حضرت علامہ  
 مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی گراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں  
 کے مطابق حَتّٰی النُّوْشَم سہل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور  
 اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کُتُب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں  
 اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ تَعَالٰی جَعَلَ ”دعوت اسلامی“ کی تمام مجالس بَشَوِل ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی  
 عطا فرمائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں  
 زیرِ گنبدِ خضر اشہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔



اٰمِیْن بِجَاوِزِ النَّیْبِ اَلَا وِیْلٌ لِّلّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

- ۱... تادمِ تحریر (جمادی الاخریٰ ۱۴۳۹ھ) شعبہ مزید قائم ہو چکے ہیں: (۷) فیضانِ قرآن (۸) فیضانِ حدیث (۹) فیضانِ صحابہ  
 والہ بیت (۱۰) فیضانِ صحابیات وصال (۱۱) شعبہ امیر اہلسنت مدظلہ (۱۲) فیضانِ مدنی مذاکرہ (۱۳) فیضانِ اولیاء و علماء (۱۴) بیانات  
 و دعوتِ اسلامی (۱۵) درسائے دعوتِ اسلامی (۱۶) عربی تراجم۔ (مجلس المدینۃ العلمیہ)



## پہلے اسے پڑھ لیجئے!

بلاشبہ اسلام ہی دینِ فطرت، مذہبِ حق اور تمام بنی نوع انسان کا اصل رہبر و راہِ نمائے جبکہ مخصوص نظرو فکر اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے باطل پر ہونے کے باوجود اپنی رائے کی ڈرستی اور مذہبی و فکری برتری کا مختلف طریقوں سے اظہار کرنا باطل پرستوں کا شیوہ ہے جنہوں نے مادی ترقی کے اس دور میں جدید ذرائع ابلاغ سے مسلمانوں پر فکری یلغار کر کے کھوٹے کو کھرا اور کھرے کو کھوٹا بنا کر بُرائی کو اچھائی کے لبادے میں فروخت کیا نتیجتاً حق شناسی سے کورے، اپنی تباہی و بربادی سے بے پروا مسلمان ان کے دامِ فریب میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ان کی فکری غلامی کے طوق کو گلے کا ہار اور نقالی کو باعثِ افتخار سمجھنے لگے، ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب، داناتے غیوب سُبْحٰنَ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: ”تم قَدْ مَقَرَّمْتُمْ اَکْھُوکُمْ کی جیروی کر دو گے حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے۔“ عرض کی گئی: یا رَسُوْلَ اللہ (صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ! کیا اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ فرمایا: ”تو اور کون۔“ (۱)

یہود و نصاریٰ سے مشابہت مسلمانانِ عالم کی اپنے شاندار و با عظمت ماضی سے بے خبری اور احساسِ کمتری کی عکاسی کرتی ہے، یوں تو دشمنانِ اسلام عالمی سطح پر شخصی آزادی، حقوقِ نسواں اور انسانی حقوق وغیرہ کے خوش کن نعروں کی آڑ میں اپنی فکری برتری مسلط کرنے میں بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ اہل حق کی غلط روش نے باطل کو پہنچنے کا موقع دیا ہے، ایک وہ وقت تھا جب دنیا مسلمان کے کردار کے گن گاتی، ہر جگہ ہیبتِ مسلم کا سکہ بیٹھا ہوتا اور چار سو اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے۔ مگر افسوس! آج مسلمان کے کردار سے دنیا بدظن ہے، آج کا مسلمان خود کو مغلوب و کمتر سمجھ کر اغیار سے مرعوب ہو گیا، اس زُبُوں حالی میں پیش پیش جہاں کفار کی سازشیں ہیں وہیں مسلمانوں کا اپنے ان بزرگوں کی سیرت و کردار سے بے اعتنائی برتنا بھی ہے جو عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت اور خوف و خشیت کا پیکر، خلقِ خدا کی خیر خواہی و حقوق کی ادائیگی، ہر ایک کی ملامت سے بے خوفی، غیرتِ ایمانی، اچھائی کا حکم دینے، بُرائی سے منع کرنے، دین کی خاطر ہر قربانی دینے اور جرأت و بہادری کے سچے جذبوں سے سرشار تھے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنا زیور

بننا کر دنیا کے سامنے اسلام کی حسین صورت پیش کی، جن کے کارناموں نے سارے عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے نادر و نایاب اقوال کے موتی اور اعلیٰ سیرت و کردار کے نمونے آج بھی مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وہ مقام دلا سکتے ہیں جس کے لیے وہ اغیار کی روشن خیالیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے فکری اضطراب کا قرا اور قلبی الجھنوں کا سلجھاؤ سلف صالحین کی سیرت و کردار میں پنہاں ہے اور مسلم ائمہ کی رہنمائی کے لیے اسلاف ائمت کی روشن سیرتوں کو یکجا کر کے آنے والی نسل پر احسان کرنے والوں میں ایک نام حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی علیہ رحمۃ اللہ لکھی کا بھی ہے جنہوں نے اسلاف کی پاکیزہ سیرتوں اور کارناموں پر مشتمل مشہور زمانہ نادر و نایاب کتاب ”جلدۃ الأذنیاء و طبقات الأصفیاء“ لکھ کر مسلم ائمہ پر احسان کیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّہ کے شعبہ تراجم کتب (عربی سے اردو) سے اس کتاب کی ابتدائی چھ جلدیں ”اللہ والوں کی باتیں“ کے نام سے زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ اس وقت کتاب کی ساتویں جلد کا ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جلد 9 ہزرگوں بالخصوص اپنے زمانے میں علم حدیث کے ان شہسواروں کے عجیب و غریب انفقوں تذکروں پر مشتمل ہے جنہوں نے خدمت حدیث کی خاطر دنیاوی آسائشوں کو ٹھکرا کر انتہائی دیدہ دلیری سے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اس پر ترجمہ، تقابل، نظر ثانی، پروف ریڈنگ اور تخریق وغیرہ کے کام میں شعبہ کے تمام ہی اسلامی بھائی شریک رہے بالخصوص تین اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوشش فرمائی: (۱)۔ ابو اصف محمد آصف اقبال عطاری مدنی (۲)۔ محمد امجد خان تولی عطاری مدنی (۳)۔ محمد خرم عطاری مدنی علیہم السلام۔ اس کتاب کی شرعی تفتیش دارالافتاء اہلسنت کے متخصّص اسلامی بھائی محمد کفیل عطاری مدنی علیہم السلام نے فرمائی ہے۔

اللہ عزّوجلّ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لئے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ عظام اور علمائے کرام کی خدمتوں میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لئے عظمیٰ انعامات پر عمل کرنے کی توفیق اور عظمیٰ قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیۃ کو دن بچھوسیں اور رات چھبوسیں ترقی عطا فرمائے!

اصیبت بچاء النبیّ الأوصیّین صلّی اللہ تعالیٰ علیہم و آلہم وسلّم

شعبہ تراجم کتب (مجلس المدینۃ العلمیۃ)

## بقیہ: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی

### تقویٰ میں امام:

﴿9300﴾... حضرت سیدنا ابو عری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے درع و تقویٰ کی جو بعض چیزیں اختیار کر رکھی تھیں ان سے ان کے متعلق عرض کی گئی کہ ان میں آپ کا امام کون ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی۔

﴿9301﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی جیسا کوئی دیکھا نہ انہیں کسی کی مانند سمجھتا ہوں، آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کے پاس دنیا آئی مگر آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔

﴿9302﴾... حضرت سیدنا مرث بن یحییٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو ایک کپڑا تنے میں دیا تو آپ نے مجھے وہ کپڑا واپس کر دیا، میں نے ان سے کہا: ابو عبد اللہ! میں آپ سے حدیث شریف کی سماعت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے یہ واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں کہ تم ان میں سے نہیں ہو لیکن تمہارا بھائی تو مجھ سے حدیث کی سماعت کرتا ہے اس لئے ذرا تا ہوں کہ دیگر طلباء کے مقابلے میں تمہارے بھائی کے لئے میرا دل زیادہ نرم نہ ہو جائے۔“

### گھر آئی دولت واپس کر دی:

﴿9303﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے بھائی حضرت سیدنا مبارک بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس درہم سے بھری ایک یا دو تھیلیاں لے کر آیا، اس کے والد آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کے دوست تھے اور آپ ان کے پاس بہت جایا کرتے تھے، الغرض آنے والے نے عرض کی: ابو عبد اللہ! کیا آپ کے دل میں میرے والد کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے والد پر رحم فرمائے! وہ تو ایسے ایسے تھے۔ پس آپ نے اس کے والد کی تعریف کی، اس نے عرض کی: ابو عبد اللہ! آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ مال میرے پاس کیسے آیا ہے، میں

چاہتا ہوں کہ آپ ان دراہم کو لے لیجئے اور اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے وہ درہم لے لیے اور جب وہ شخص اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا تو آپ نے وہ تھیلی مجھے دیتے ہوئے فرمایا: مبارک! یہ اسے دے دو اور اس شخص سے فرمایا: اے میرے دوست کے بیٹے! میں چاہتا ہوں کہ یہ مال تم لے لو۔ اس نے عرض کی: ابو عبد اللہ! کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا: نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تم لے لو۔ آپ نے اسے کئی مرتبہ کہا تو وہ اسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں خود کور وک نہ سکا اور اپنے بھائی حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے کہا: تم پر افسوس ہے! یہ تمہارا دل ہے یا پتھر؟ غور کیجئے کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، کیا اپنے بھائیوں پر ترس نہیں آتا اور کیا ہمارے اور اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا؟ اس کے علاوہ میں نے انہیں اور بھی کچھ کہا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اللہ!!! اے مبارک! مطلب یہ کہ تم اس مال کو مزے سے کھاؤ اور اس کی باز پرس مجھ سے ہو۔

﴿9304﴾... حضرت محمد بن یوسف فریبانی قُبَسِیْہُ زُہْدُ الشَّامِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: اگر تم دیکھو کہ میں اپنی آج والی حالت پر قائم نہیں ہوں تو سمجھ لو کہ مجھے کسی کئے کی سزا ملی ہے۔

## 10 ہزار درہم کا انعام:

﴿9305﴾... حضرت سیدنا ابو احمد زہیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی ذکر کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ منادی یہ ندا دے رہا تھا کہ ”جو اپنے ساتھ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو لے کر آئے گا اسے 10 ہزار درہم دیئے جائیں گے۔“

﴿9306﴾... حضرت سیدنا علی بن جعفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ہارون رشید کے منادی کو یہ اعلان کرتے سنا: جو ہمیں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے بارے میں اطلاع دے گا اسے ایک ہزار درہم دیئے جائیں گے۔

## سفیان ثوری عَلَیْہِ الرِّضْوَانُہ اور یحییٰ گورنر:

﴿9307﴾... حضرت سیدنا ابن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی

فرماتے ہیں کہ مجھے خلیفہ مہدی کے زمانے میں دربار شاہی میں طلب کیا گیا تو میں بھاگ کر یمن آگیا اور کبھی کسی محلے میں جاتا تو کبھی کسی محلے میں اور ان کی مسجدوں میں پناہ لیتا، ایک مرتبہ کسی محلے میں چوری ہو گئی تو محلے والوں نے مجھ پر الزام لگا دیا اور مجھے معن بن زائدہ کے پاس لے گئے، اسے میری گرفتاری کے احکامات مل چکے تھے، کسی نے اس سے کہا کہ اس شخص نے ہمارے ہاں چوری کی ہے۔ معن بن زائدہ نے کہا: تم نے ان کا سامان کیوں چرایا ہے؟ میں نے کہا: میں نے کچھ نہیں چرایا۔ پھر مغن بن زائدہ نے اُن لوگوں سے کہا: تم لوگ ہٹ جاؤ اور مجھے ان سے کچھ پوچھنے دو۔ پھر اس نے میرے قریب آکر پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا: عبد اللہ بن عبد الرحمن۔ اس نے کہا: اے عبد اللہ بن عبد الرحمن! میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اپنا اصل نسب بیان کرو۔ میں نے کہا: میں سفیان بن سعید بن مسروق ہوں۔ اس نے کہا: ثوری؟ میں نے کہا: ہاں، ثوری۔ اس نے کہا: کیا تم خلیفہ کو مطلوب ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے کچھ دیر اپنا سر جھکائے رکھا پھر کہا: جو چاہو کرو اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ خدا کی قسم! اگر تم میرے پاؤں کے نیچے بھی چھپے ہو گے تو میں پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔ ﴿9308﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے بیان کیا کہ میں نے کان لگا کر چپکے سے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کو یہ کہتے سنا: اے اللہ عزوجل! میرے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھ، اے اللہ عزوجل! میرے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھ۔

### یاد آخرت کا انوکھا طریقہ:

﴿9309﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا پیچھا کرتا رہتا تھا، وہ ہمیشہ دیکھتا کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اپنے گریبان سے ایک رقعہ نکال کر اُسے دیکھتے ہیں، پس وہ جانا چاہتا تھا کہ اس رقعے میں کیا ہے، ایک مرتبہ وہ رقعہ اس کے ہاتھ لگ گیا، جب دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا: ”اے سفیان! اللہ عزوجل کے حضور کھڑے ہونے کو یاد رکھو۔“

﴿9310﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے کبھی اپنے نفس کے علاج سے زیادہ دشوار علاج کسی شے کا نہیں کیا، کبھی وہ میرے خلاف ہوتا ہے اور کبھی موافق۔

## بادشاہ اور علما کے لئے نصیحت:

﴿9311﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: کچھ اہل علم اللہ والے ہیں اور کچھ شیطان والے اور دو قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں اور وہ بادشاہ اور علما ہیں۔

﴿9312﴾... حضرت سیدنا احمد رُئِیْزِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ایک بھائی نے آپ کو خط لکھا کہ مجھے مختصر لفظوں میں نصیحت کیجئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے انہیں لکھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے اور آپ کو ہر آفت و برائی سے محفوظ رکھے، اے میرے بھائی! دنیا کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی خوشی ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی، لہذا اپنے لئے عمل کرو تا کہ نجات حاصل ہو اور سستی نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔

## نئی کوہدانی سے بیچ دیا:

﴿9313﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی یہ شعر مثال کے طور پر پیش فرمایا کرتے تھے:

بَاعُوا جَدِيدًا جَدِيدًا جَدِيدًا بِأَقْبَا أَبَدًا  
يَدَارِسِي خَلْقِي يَا بَنَس مَا أَتَجَرُّوَا

**ترجمہ:** انہوں نے نئی خوبصورت اور ہمیشہ باقی رہنے والی (آخرت) کو پرانی اور مٹنے والی (دنیا) کے بدلے بیچ دیا، ان کی تجارت کتنی بُری ہے۔

## دنیا کی ناپائیداری پر اشعار:

﴿9314﴾... حضرت سیدنا محمد بن بشر عَنَدِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو آنسوؤں میں بغور نگہی کے یہ اشعار پڑھتے سنا:

مَاذَا تَكُونُ بَعْدَ الْيَوْمِ مَحَرَّقِي؟ تَرَكُوا مَنَازِلَهُمْ وَبَعْدَ الْيَوْمِ

أَهْلُ الْعَوَزَاتِ وَالشَّيْبِ وَالْبَارِقِ وَالْقَصْرِ ذِي الشَّرَفَاتِ مِنْ يَسْتَدَادِ

كَانُوا بِأَنْفُسِهِمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْهِمْ مَاءَ الْفَرَاتِ يَخْرُ مِنْ أَطْوَادِ

حَزَبَتِ النَّبَاتِ عَلَى رُسُومِهِمْ دَيَّارِهِمْ فَكَانَتْ كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ  
فَإِذَا النَّعِيمُ وَكُلُّ مَا يُنْهَى بِهِ يَوْمًا يَصِيدُ إِلَى يَمْنَى وَتَقَادٍ

**ترجمہ:** (۱)... آلِ حرق اپنے گھر چھوڑ گئے اور ایاد گزر گئے اس کے بعد اب تمہیں کس چیز کی امید ہے؟ (۲)... خورنق، سدیر، بارق اور سنداد کے مقام پر کنگروں والے محلات کے کھین۔ (۳)... انقرہ کے ان رہنے والوں تک فرات کا پانی پہاڑوں سے گرتا ہوا پہنچتا تھا (۴)... اور اب ان کے گھروں کے نشانات پر ہوا کی چل رہی ہیں گویا وہ ایک خاص مدت کے لئے یہاں تھے۔ (۵)... پس نعمتیں اور غفلت کا ہر سامان ایک دن اچانک خاتمے اور فنا کی طرف لوٹ جائے گا۔

## شر کیا ہے؟

﴿9315﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن مُسْتَشْبِلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی سے عرض کی گئی: کون سی چیز شر ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ معاف فرمائے، وہ علماء ہیں جب بگڑ جائیں۔

## سب سے بڑے عالم:

﴿9316﴾... حضرت سیدنا احمد بن یونس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ معن بن زائدہ کے سامنے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی کا ذکر ہوا تو اس نے کہا: وہ ہمارے درمیان سب سے بڑے عالم ہیں۔

## جسم کا حصہ بننے کی تمنا:

﴿9317﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ادريس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے کوفہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی کے سوا ایسا کوئی نہ دیکھا جس کی کھال کا حصہ بتنا مجھے پسند ہو۔

﴿9318﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی نے فرمایا: اگر مجھے پکڑے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں میں رہائش اختیار کرتا جو مجھے جانتے نہ ہوں۔

## دلی سکون پانے کی جگہ:

﴿9319﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی نے فرمایا: ”میں مکہ و مدینہ میں غریب، بے سہارا اور عبادت گزار لوگوں کے درمیان رہ کر دلی سکون پاتا ہوں۔“

حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ التکمیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو فرماتے سنا: میری ملاقات حضرت سیدنا ابو حسیب بدوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ہوئی، انہوں نے مجھ سے فرمایا: ”سفیان! اللہ عزوجل کا تمہیں کسی شے سے محروم رکھنا بھی عطا ہے اور وہ کسی بخل یا شے کے نہ ہونے کے سبب تمہیں محروم نہیں رکھتا بلکہ تمہاری جانچ اور امتحان کے لئے ایسا کرتا ہے۔“ پھر فرمایا: ”سفیان! اپنی ذات کو پیش نظر رکھنے میں انسیت اور بھلا دینے میں غفلت ہے۔“

## دونوں جہاں میں انعام:

﴿9320﴾... حضرت سیدنا قاسم بن عثمان دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبادت گزار شخص حضرت ایمان بن معاویہ اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: کیا آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکبر کو دیکھا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا: میں نے تو ان سے بھی بڑی شخصیت کی زیارت کی ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اپنے بھائی سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے یہ بات سنی ہے کہ ”اللہ عزوجل کی یہ شان نہیں کہ دنیا میں بندے پر انعام فرمائے اور آخرت میں اسے رسوا کرے اور نعمت عطا کرنے والے پر یہ حق ہے کہ وہ جسے نعمت دے پوری دے۔“

﴿9321﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: اللہ عزوجل بندے پر اس حاجت میں ضرور انعام فرماتا ہے جس میں وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کثرت سے گزر گزرتا ہے۔

﴿9322﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: پوشیدہ رہنے میں عافیت ہے۔

## نا شکری باعثِ ہلاکت ہے:

﴿9323﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ الثقلین نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: جلد ہم انھیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انھیں خبر نہ ہوگی۔ (پ: ۹، الاعراف: ۱۸۲)

کی تفسیر میں فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی نعمتیں تمام کریں گے اور شکر کی توفیق نہیں دیں گے۔



کم کھانے کا فائدہ:

﴿9324﴾... حضرت سیدنا عثمان بن زائدہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم ٹھیک رہے اور تمہاری فیند کم ہو تو کھانا کم کر دو۔

آپ عَلَیْہِ الرِّضْوۃ کی خوراک:

﴿9325﴾... حضرت سیدنا عمرو بن خُرَیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مکہ مکرمہ میں نصف دائق (درہم کے بارہویں حصے) کا گوشت خریدتے ہوئے دیکھا۔

حضرت سیدنا امام اُصَمٰی عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ صبح اور شام ایک ایک روٹی کھایا کرتے تھے، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آجاتا تو نصف روٹی اُسے دے دیا کرتے تھے اور اگر اس کے بعد کوئی اور سائل آتا تو فرماتے: اَللّٰهُ یُسَعِّکُمْ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں کشادگی عطا فرمائے۔

﴿9326﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: لقمہ چباتے وقت اغنیا کے مقابلے میں صبر سے کام لو کیونکہ جب لقمہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس کی نرمی و سخی کا پتا نہیں چلتا۔

زہد سے بھرپور نصیحت:

﴿9327﴾... حضرت سیدنا ابو مہلّول سعید بن صدوق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قبرستان لے گئے، ہم عام گزر گاہ سے ہٹ کر ایک طرف کو ہوئے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روتے ہوئے مجھ سے فرمانے لگے: اے ابو مہلّول! اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہے کہ اپنی زندگی میں کسی سے میل جول نہ رکھو تو ایسا ہی کرو، اپنے سامان ضرورت کی درستی کی فکر میں لگے رہو، حکمرانوں کے پاس جانے سے بچو، تمہیں ان سے جو حاجت ہو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانگو، تمہیں پیش آنے والی ہر بات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ لازم پکڑو، تمام لوگوں سے بے نیاز رہو اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھو جس کی بارگاہ میں حاجتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا کی قسم! میں آج کوفہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس سے میں نے 10 درہم قرض کی فریاد کی ہو اور اُس نے مجھے قرض دے کر لکھ لیا ہو، پھر لوگوں سے آتے جاتے کہا ہو کہ

میرے پاس سفیان آئے، انہوں نے مجھ سے قرض مانگا اور میں نے انہیں قرض دیا۔

﴿9328﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے فرمایا: کوفہ میں ایسا کوئی نہیں جس سے مجھے 10 درہم قرض ملنے کی امید ہو لیکن اگر کوئی مجھے قرض دے بھی دے گا تو وہ مجھے بدنام کر دے گا۔

﴿9329﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم خُصَّاف رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے مجھ سے فرمایا: لوگوں سے اور مجھ سے محتاط رہو، اگر میں ایک انار کے معاملے میں کسی کی مخالفت کروں یوں کہ وہ اسے ترش بتائے اور میں اسے میٹھا کہوں یا وہ اسے میٹھا بتائے اور میں اسے ترش کہوں تو مجھے خوف ہے کہ وہ میرا خون جلائے گا۔

### دنیاوی دوستی کا نقصان:

﴿9330﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے فرمایا: کسی کو بھی دوست بنا لو پھر اُسے ناراض کر دو اور پھر کسی کو اُس کے پاس بھیج کر اپنے بارے میں اُس کی رائے معلوم کر کے دیکھ لو (کہ وہ تمہاری کیسی مخالفت کرتا ہے)۔

﴿9331﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رُوَق رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی سے مشورہ طلب کیا: آپ کے خیال میں مجھے کہاں قیام کرنا چاہئے؟ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حَرَّ ظُہْرَان (یعنی وادی قاطرہ) میں جہاں تمہیں کوئی نہ پہچانے۔

خلف بن ابراہیم ہَرْزَانِی قَدِیْسِیہُ الشَّوْکَانِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے فرمایا: جان پہچان کم رکھو تمہاری غیبت کم ہوگی۔

﴿9332﴾... حسن بن رشید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے مجھ سے فرمایا: جو تم سے واقف نہ ہو اسے اپنے بارے میں نہ بتانا اور جو تمہیں جانتا ہو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرنا۔

### تعلقات کم رکھنے والا فائدے میں ہے:

﴿9333﴾... مُؤَمَّل بن اسماعیل کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی نے ایک شخص سے

فرمایا: تمہیں جان پہچان والوں سے تکلیف پہنچتی ہے یا انجانے لوگوں سے؟ اس نے کہا: جان پہچان والوں سے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ایسوں سے جو چیز کم ملتی ہے وہ خیر ہے۔

﴿9334﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے کہا: میں تو لوگوں کو ”سفیان ثوری“ کہتے دیکھتا ہوں جبکہ آپ رات کو سوتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: خاموش! اس معاملے کی اصل تقویٰ ہے۔

**یقین کیا ہے؟**

﴿9335﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: یقین یہ ہے کہ تم کسی بھی مصیبت میں اپنے مولیٰ پر بدگمانی نہ کرو۔

**ایک ولیہ کی گفتگو:**

﴿9336﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: میں حضرت بنتِ ام حسان اَسَدِیَّہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی پیشانی پر بکری کے گھٹنے جیسا سجدے کا نشان تھا، آپ کے سر پر اوڑھنی نہیں تھی، میں نے ان سے کہا: آپ حضرت عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس کیوں نہیں گئیں کہ انہیں ایک زکوٰۃ دے دیتیں تو شاید وہ آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے جس سے آپ کی یہ حالت کچھ بدل جاتی جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ سن کر انہوں نے ایک بڑا پیالہ منگوا یا اور اسے اپنے سر پر رکھ لیا پھر کہنے لگیں: سفیان! میرے دل میں آپ کے لئے بڑا احترام تھا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وہ احترام میرے دل سے نکال دیا، اے سفیان! آپ مجھے اُس سے دنیا لگنے کا کہہ رہے ہیں جو اس کا مالک نہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم! مجھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھی دنیا کا سوال کرنے میں حیا آتی ہے حالانکہ وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: جب رات ہو گئی تو وہ اپنے ایک خاص کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا اور یہ ندا کرنے لگیں: ”اے میرے محبوب! ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلا گیا اور اے میرے محبوب! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جنہم ہی وہ قید خانہ ہے جس میں تو اپنے نافرمان کو قید کرے گا اور آگ ہی وہ عذاب ہے جس میں تو اُسے مبتلا کرے گا۔“

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ پھر میں تین دن بعد ان کے پاس آیا تو ان کے چہرے پر بھوک کے آثار موجود تھے، میں نے ان سے کہا: اے بنت اُمّ حسان! آپ کو حضرت سیدنا مامونؑ و حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِمَا السَّلَام سے زیادہ عطا نہیں فرمایا گیا، یہ نفوسِ قدسیہ جب گاؤں والوں کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بھی کھانا طلب فرمایا تھا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا نے فرمایا: سَفِیانُ! اَلْحَسَنُ لِلّٰہِ کہو۔ میں نے اَلْحَسَنُ لِلّٰہِ کہا تو انہوں نے فرمایا: کیا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے شکر کا اعتراف کرتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا: شکر کی معرفت کا شکر بھی تم پر لازم ہو گیا اور ان دو شکروں کی معرفت کی وجہ سے ایک تیسرا شکر لازم ہو جائے گا اور شکر کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ میں نے کہا: بخدا! میں کم علم ہوں اور میری زبان خطا کا رہے، میں اس کے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا جب بھی میں اس کی کسی نعمت کا اعتراف کروں گا تو مجھ پر نعمت کی معرفت کا شکر لازم ہو گا اور ان دو شکروں کی معرفت کے سبب ایک اور شکر لازم آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نماز گیا اور جانے ہی والا تھا کہ انہوں نے فرمایا: سفیان! انسان کے جاہل ہونے کو اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر ناز کرے اور اس کے عالم ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھے۔ جان لو کہ دل ہلاکت سے ہرگز نہیں بچ سکتے حتیٰ کہ تمام غم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر ایک ہو جائیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: ”خدا کی قسم! اُس وقت مجھے اپنی ذات بہت چھوٹی محسوس ہوئی۔“

﴿9337﴾... حضرت سیدنا ابو حذیفہ عَجَلُی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْزَلِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ“ کی تفسیر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: بندہ کہتا ہے: (اے اللہ!) جس کو بھی نیکی کی توفیق ملی تو نے ہی عطا فرمائی اور جو گناہ سے بچاؤ تو نے ہی بچایا۔

## مالِ حرام کی نحوست:

﴿9338﴾... حضرت سیدنا علف بن تیمم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَلْکَرِیْم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن عمرو رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی عبادت گاہ میں آئے اور ان سے پوچھا: ابو عبد اللہ! کیا آپ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ“ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ”اَلْحَسَنُ لِلّٰہِ“ اور ”اللّٰہُ اَكْبَرُ“ کہنے سے بھی دس نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: ہمیں یہ روایت اسی طرح پہنچی ہے۔ انہوں نے پوچھا: آپ اس

شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ناحق 30 درہم حاصل کئے اور کہا: میں بیٹھ کر ”سُبْحَنَ اللّٰہ“، ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ اور ”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ پڑھتا رہوں گا حتیٰ کہ اس گناہ کے برابر نیکیاں کر لوں گا؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے فرمایا: وہ پہلے ان درہم کو لوٹائے کیونکہ انہیں لوٹائے بغیر اس کا ذکر قبول نہیں کیا جائے گا۔

﴿9339﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے فرمایا: دنیا کو دنیا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ”حَدِیثَہُ یعنی گھٹیا“ ہے اور مال کو مال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔

﴿9340﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے فرمایا: پہلے کے لوگوں میں ایسے بھی تھے کہ اگر انہیں حلال کی بھی دعوت دی جاتی تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ ہمیں اس سے اپنی جانوں پر خوف ہے۔

### سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ الرِّحْمَہ کی نصیحتیں:

﴿9341﴾... حضرت سیدنا ابو حماد مبارک رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کا بیان ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا علی بن حسن رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے بھائی! عمل کے لئے علم حاصل کرو، علم سے مقابلہ کرنے، نا سمجھوں پر رعب جھاڑنے، مالداروں کا مال کھانے اور غریبوں سے خدمت لینے کے لئے علم حاصل نہ کرو کہ تمہارے لئے فائدہ مند وہی علم ہے جس پر تم نے عمل کیا اور نقصان وہ ہے جو تم نے ضائع کر دیا۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ (یعنی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) ہمیں یہ بات پہنچی ہے: جو بھلائی کا طالب ہوتا ہے وہ ہمارے زمانے میں اجنبی ہو کر رہ جاتا ہے، تم گھبراؤ نہیں بلکہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی راہ پر گامزن رہو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ، حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام اور نیک مؤمنین تمہارے مددگار ہوں گے۔ دوسروں کے عیوب کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنے عیوب کو یاد رکھو اور تمہاری زندگی کا وہ حصہ جو فکرِ آخرت سے خالی گزرا اس پر غم کرو، تم نے اپنی بیٹیہ پر جو گناہوں کا بوجھ لا دیا ہوا ہے اس پر آنسو بہاؤ شاید تمہیں ان سے چھٹکارا مل جائے۔ نیکی اور نیکیوں سے نہ اکتاؤ اور نہ ہی ان سے دوری اختیار کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے دوسروں سے بہتر ہیں اور جاہلوں اور ان کی برائی سے بیزار رہو اور ان سے دوری برتو کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہرگز نجات نہ پاسکے گا مگر جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ بچائے۔ اگر تم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نیکیوں والے اعمال بجالاؤ اور دنیا سے جو کچھ ملے اسی پر اکتفا کرو، اسے نہ بھولو جو تمہیں نہیں بھولتا اور اس سے غافل نہ ہو جسے تم پر مقرر کیا گیا

ہے، وہ تمہاری ہر بات کو شمار کرتا اور تمہارے عمل لکھ لیتا ہے، ظاہر و پوشیدہ ہر حالت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھو کیونکہ وہ تم پر نگہبان ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اس سے حیا کرو کہ وہ تمہاری شر رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے نفس کی محتاجی اور اس کے کم مرتبے کو پیچھا نہ کرو کیونکہ تم ادنیٰ اور اپنے رب کے محتاج ہو، اپنے نفس پر آنسو بہاؤ اور اس پر رحم کرو کیونکہ اگر تم اس پر رحم نہیں کرو گے تو اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اپنے نفس کو دھوکا نہ دو اور نہ ہی اسے زسوائی پر پیش کرو اور اس سے اپنا حصہ لو کیونکہ تمہارے پاس آج کا دن ہے کل کا نہیں اور دنیا میں ایسے رہو گویا تم مر چکے ہو اور غافل و جاہل لوگوں کی طرح غافل نہ بنو اور اپنے نفس پر کثرت سے آنسو بہاؤ، اگر تم کچھ ارہوئے تو ہنسنے کی کوئی صورت نہ پاؤ گے مجھے یہ بات پہنچائی گئی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں کچھ لوگوں کو ہنسنے اور نہ رونے کے سبب عار دلاتے ہوئے فرمایا:

أَفْسِنَ هَذَا الْعَدِيثَ تَعَجُّبُونَ ﴿١﴾ وَصَحَّحُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٢﴾ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ﴿٣﴾ (پ: ۱۶، النجم: ۱۱ تا ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھیل میں پڑے ہو۔

اور قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَيَخْرُجُونَ لَكَ ذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُونًا ﴿١﴾ (پ: ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۰۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔

ہمیں پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی یہ حدیث پہنچی ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے پس جو راضی رہا اس کے لئے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لئے ناراضی ہے۔“<sup>(۱)</sup> اور ہمیں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی یہ حدیث بھی پہنچی ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتنی ہی نعمتیں ایک ساکن (یعنی خنہری ہوئی) ارگ میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

﴿۹۳۴۲﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: رونے کے ۱۰ حصے ہیں جس میں سے نو غنیمت اللہ کے لئے اور ایک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے رونا سال میں ایک بار بھی ہو تو وہ کثیر ہے۔

﴿۹۳۴۳﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں

①...ترمذی، کتاب الزہد، باب الصبر علی البلاء، ۱۷۸/۲، حدیث: ۲۴۰۴

②...الزہد لابی داؤد، باب من خیر اشیاء الدرداء، ص ۲۱۶، حدیث: ۲۵۰

(احوال میں خرابی کے پیش نظر) کسی عاقل و دانشور کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔

﴿9344﴾... سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: عورتوں کی رائیں پسند کرنے والا فلاح نہیں پاتا۔

## علم و عمل ساتھ ساتھ:

﴿9345﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کسی نے سوال کیا: اے ابو عبد اللہ! آپ کو طلب علم زیادہ محبوب ہے یا عمل؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے فرمایا: علم عمل کے لئے ہی حاصل کیا جاتا ہے تو عمل کی وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑ دینا علم حاصل کرنے کی وجہ سے عمل ترک کرو۔

## عمل پر اترانے کا وبال:

﴿9346﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: ایک عابد کا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوا

تو عابد نے راہب سے پوچھا: تمہاری عبادت کا جوش کیسا ہے؟ راہب نے کہا: جنت و دوزخ کو حق جاننے والے کو چاہیے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے۔ عابد نے کہا: میں اتنا روؤں گا کہ میرے آنسوؤں سے گھاس اُگ آئے گی۔ راہب نے کہا: ہنسنے اور پُر سکون زندگی گزارنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو روتا ہے اور اپنے عمل پر ناز کرتا ہے کیونکہ اترانے والے کی نماز اس کے سر سے تہاؤز نہیں کرتی۔

## سلبِ ایمان کا خوف:

﴿9347﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا وصال میرے پاس ہوا جب آپ کو موت کی شدت محسوس ہوئی تو آپ رونے لگے، ایک شخص نے کہا: ابو عبد اللہ! کیا آپ کو اپنے گناہ زیادہ نظر آرہے ہیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں، مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔

﴿9348﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا

سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو فرماتے سنا: ”اگر میری جان میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اسے آزاد کر دیتا۔“  
اور ایک موقع پر یہ بھی فرماتے سنا: ”دنیا میں کسی جان کا نکلنا مجھے اپنی جان نکلنے سے زیادہ محبوب نہیں۔“  
**کارآمد نصیحتیں:**

﴿9349﴾... حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابو عثمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الزُّحَلْن کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: تمہیں چاہئے کہ ضروریات زندگی کے لئے درمیانی راہ اختیار کرو اور سرکش لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو، کھانے، پہننے، لباس اور سواری سے وہ چیزیں اختیار کرو جو گھنایا ہوں نیز ممتی، امانت دار اور خوف خدا رکھنے والوں سے مشورہ لیا کرو۔

﴿9350﴾... حضرت سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الزُّحَلْن نے فرمایا: جس نے کسی ظالم سے گھوڑا، مال یا ہتھیار لیا اور اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں جہاد کیا تو ہر قدم اٹھاتے اور رکھتے وقت اس پر لعنت برستی ہے حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ جائے۔

﴿9351﴾... حضرت سیدنا فضل بن مُہنَّبِل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھ سے فرمایا: سلامتی کس چیز میں ہے؟ میں نے کہا: اس میں کہ تمہیں کوئی نہ جانے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ایسا ممکن نہیں البتہ سلامتی اس میں ہے کہ تمہیں اپنی شہرت محبوب نہ ہو۔

## دیانت داری:

﴿9352﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بصرہ آئے، خلیفہ وقت کو آپ کی تلاش تھی۔ اس لئے آپ نے ایک باغ میں جا کر اس باغ کی حفاظت کی شرط پر پناہ حاصل کی، وہاں پیداوار سے عشر وصول کرنے والا آیا اور اس نے آپ سے پوچھا: اے ضعیف الغمرا! آپ کون ہیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں کو فہ کار ہنے والا ہوں۔ اس نے کہا: یہ بتائیے کہ بصرہ کی کھجوریں زیادہ میٹھی ہوتی ہیں یا کو فہ کی؟ آپ نے فرمایا: بصرہ کی کھجوریں میں نے نہیں چکھیں البتہ کو فہ میں سابریہ قبیلہ کی کھجوریں میٹھی ہیں۔ اس نے کہا: کوئی بوڑھا تم سے بڑا جھوٹا نہ ہو گا، درندے اور نیک و بد لوگ تو جب چاہتے ہیں کھجور کھا لیتے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اسے چکھا بھی نہیں؟ پھر وہ گورنر کے



پاس چلا گیا اور اسے حیران کرنے کے لئے یہ بات بتائی تو اس نے کہا: تیری ماں تجھے روئے! اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو وہ سفیان ثوری ہیں، ان کی طرف جا اور خلیفہ مہدی کا قرب حاصل کرنے کے لئے انہیں پکڑ لے۔ یہ سن کر وہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پکڑنے کے لئے واپس لوٹا لیکن وہ آپ کو نہیں پاسکا۔

﴿9353﴾... حضرت سیّدنا شجاع بن ولید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی کے ساتھ جایا کرتا تھا، آتے جاتے کہیں بھی ان کی زبان نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔

﴿9354﴾... حضرت سیّدنا یحییٰ بن عبد الملک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے ذات خداوندی کے معاملے میں حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی سے زیادہ متثیر ہونے والا چہرہ کسی کا نہ دیکھا۔

﴿9355﴾... حضرت سیّدنا قنذیر بن نضر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی کا حلقہ دیکھا تو وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ حلقے میں سے کسی نے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: ابو عبد اللہ! یہ ابن نضر بن سّیار ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: میں نے تمہارے والد نضر کو دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی: کہاں دیکھا؟ فرمایا: خراسان میں دیکھا تھا، ایک شخص کے پاس میری کوئی چیز تھی لہذا میں نے قوم حنابلین کے پاس مزدوری کی یہاں تک کہ میں نے اپنا حق پالیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: اگر اشراقیہ کو دنیا میں زہد اختیار کرنا اس لئے مناسب نہیں لگتا کہ یہ ان کا مرتبہ کم کر دے گا اور کم مرتبہ لوگوں کو ان پر فضیلت والا بنادے گا تب تو زہد اختیار کرنا ان پر لازم ہے۔

﴿9356﴾... حضرت سیّدنا محمد بن یزید بن خنّس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی سے کہا: ابو عبد اللہ! آپ کیسے ہیں؟ فرمایا: تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسا ہوں، خدا کی قسم! میں پریشان ہوں، (پھر دعا کی:) اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس اُتت کے لئے ہدایت کا معاملہ پنہنتہ فرما جس میں وہ تیرے ولی کی عزت کرے اور تیرے دشمن کی تذلیل کرے، اس میں بھلائی کا حکم کیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ پھر حضرت سیّدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے آہ سرد بھرتے ہوئے فرمایا: ہم نے کتنے ہی مومن بندوں کو دینی غصہ کے سبب مرتے دیکھا ہے۔

## امیر مکہ کو تنبیہ:

﴿9357﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن الحسین رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ میں (حج کے موقع پر) حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا اسحاق بن قاسم اور حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ کے ساتھ تھا، نماز مغرب کے بعد ہمارے پاس امیر مکہ عبد الصمد بن علی آئے، اس وقت حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی وضو فرما رہے تھے میں ان پر پانی ڈال رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ وضو کر رہے تھے، فرمانے لگے: مجھے اس طرح وضو کرنا نہ دیکھو کہ ایسا دوسو سو کی کاٹ کے لئے کرتا ہوں۔ اسی دوران عبد الصمد نے آکر آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: عبد الصمد بن علی۔ آپ نے فرمایا: تم کیسے شخص ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جب تکبیر کہا کرو تو (بذریعہ مکتب) لوگوں تک آواز پہنچانے کا بھی انتظام کرو۔

## خوف خدا کا عالم:

﴿9358﴾... حضرت سیدنا علی بن عثام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کوفہ میں پیار ہو گئے تو ان کا قارورہ (یعنی پیشاب) کوفہ کے طبیب کے پاس بھیجا گیا، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا: تمہاری خرابی! یہ کس کا قارورہ ہے؟ لانے والے نے کہا: کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم اس میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا: میں ایسے شخص کا قارورہ دیکھ رہا ہوں کہ خوف نے اس کا جگر اور غم نے اس کا معدہ جلادیا ہے۔

﴿9359﴾... حضرت یحییٰ بن یحیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی ذکر کرتے ہیں کہ جبل بنو فزارہ کے پاس میری ملاقات حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا: جانتے ہو۔ میں تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں پنساریوں (یعنی دوا فروشوں) کے مکان سے انہیں نیند میں نشہ لانے والے دانے بیجنے سے منع کر کے آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں ایسی چیز دیکھوں جس کے بارے میں حکم کرنا اور اس سے روکنا مجھ پر واجب ہو اور میں نہ کروں (تو شدت غم کی وجہ سے) میرے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔

﴿9360﴾... حضرت سیدنا علی بن عبید رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی نے فرمایا: میں دعوت میں جاتا ہوں، مجھے نبیز پسند نہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے نبیز پی لیتا ہوں۔

﴿9361﴾... قاری یحییٰ بن خفص کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے قرآن مجید کی اس آیت طیبہ:

لَا تُلَہِیْہُمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللہِ

ترجمہ کنز الایمان: جنھیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد (سے)۔

(پ: ۱۸، القور: ۳)

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کرتے تھے لیکن فرض نمازوں کی جماعت ترک نہیں کرتے۔

## دائر الخلافہ میں عبادت کی مثال:

﴿9362﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: بغداد میں عبادت کرنے والا بیت الخلاء میں عبادت کرنے والے کی طرح ہے (کہ دائر الخلافہ اور انتہائی حسین ہونے کی وجہ سے وہاں عبادت میں یکسوئی حاصل نہ ہوگی)۔

﴿9363﴾... حضرت سیّدنا بخاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی پہلی صف میں کسی بچے کو دیکھتے تو اس سے فرماتے: کیا تم بالغ ہو؟ اگر وہ کہتا: نہیں۔ تو فرماتے: پچھلی صف میں چلے جاؤ۔

## قاضی وقت کے قاصد کو جواب نہ دیا:

﴿9364﴾... حضرت سیّدنا حسین بن احمد سجادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت سیّدنا شریک بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس کسی شخص کے بارے میں معلومات کے لئے بھیجا، جب حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھے اور میری بیست کو دیکھا کہ پیشانی پر سجدے کا بڑا نشان ہے (تو فرمایا: اگر تمہارا یہ نشان شریک کے لئے ہے تو تمہارا حصہ یہ ہے کہ میں تم سے کلام نہ کروں اور اگر یہ نشان اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے تو تمہارا حصہ یہ ہے کہ تم شریک ہی سے کلام کرو۔ یہ کہہ کر آپ اندر چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔

﴿9365﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: دونوں محافظ فرشتے نکلیں اور برائیوں کی بوا اس وقت پاتے ہیں جب دل پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔

﴿9366﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جب سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو ملائکہ اپنے صحیفے لپیٹ لیں گے اور قلم رکھ دیں گے۔

## شیطان کی کمر توڑنے والا عمل:

﴿9367﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: شیطان کی کمر توڑنے کے لئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں اور ثواب میں اضافہ کرنے والے کلاموں میں اَلْحَمْدُ لِلَّہِ جیسا کوئی کلام نہیں۔

﴿9368﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے سوال کیا کہ دنیا میں زہد کیا ہے؟ فرمایا: مرتبہ کا گھٹ جانا۔

## گمان کی دو قسمیں:

﴿9369﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ جس میں گناہ ہے اور دوسرا وہ جس میں گناہ نہیں، گناہ والا تو یہ ہے کہ زبان پر آجائے اور جو زبان پر نہ آئے اس میں گناہ نہیں۔

﴿9370﴾... حضرت سیدنا یوسف بن أسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے پاس تھا کہ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے انتقال کی خبر آئی، تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ”اَلْحَمْدُ لِلَّہِ“ کہا اور فرمایا: وہ اسلام کی کڑیوں کو توڑ رہا تھا۔<sup>(۱)</sup>

①... یہ روایت درست نہیں اس روایت میں دو راویوں پر کلام ہے ایک راوی ”ابو صالح محبوب بن موسیٰ فرہ“ ہیں جن کے بارے میں امام ابو داؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: یہ حدیث میں ثقہ ہیں لیکن کتاب دیکھئے بغیر جو واقعات بیان کریں ان کی طرف شکات نہ کیا جائے۔ (تہذیب التہذیب، ۸/۲۱۲) دوسرے راوی ”ہاشم بن مرشد“ ہیں جن کے بارے میں امام الحرمین والتحدیل ابن حبان رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”یہ شخص یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔“ (میزان الاعتدال، ۴/۳۶۶) حق تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ امام اعظم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مدد تھے اور ان کے علمی مقام و مرتبہ کے قائل تھے چنانچہ امام قاضی ابوعبید اللہ حسین بن علی صمدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ متوفی ۴۳۶ھ اپنی کتاب ”اَحْبَابُ اَزْوَاجِ حَقِيقَةٍ وَ اَصْحَابِہِ“ میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی عمر بن سعید کا وصال ہوا تو ہم تعزیت کے لئے امام سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی مجلس تعزیت کرنے والوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی وقت حضرت امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی ایک جماعت کے ہمراہ تعزیت کے لئے تشریف لائے۔ جس وقت حضرت سفیان

## ناہینا حافظ صاحب کو نصیحت:

﴿9371﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مُصعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی مجلس میں ایک ناہینا حاضر ہوا کرتا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ ایک آبادی میں جا کر لوگوں کو تراویح پڑھاتا اور لوگ اسے کپڑوں اور مال سے نوازتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: قیامت کے دن اہل قرآن کو ان کی قراءت کا اجر و ثواب دیا جائے گا اور اس طرح کے شخص سے کہا جائے گا کہ ”تو اپنا اجر دنیا ہی میں لے چکا۔“ یہ سن کر اس ناہینا نے عرض کی: ابو عبد اللہ! آپ میرے لئے یہ فرما رہے ہیں حالانکہ میں آپ کا ہم نشین ہوں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ ”یہ تمہارا ہم نشین تھا تم نے اسے نصیحت کیوں نہ کی؟“

﴿9372﴾... حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے سوال کیا: آپ کپڑا رنگنے والے اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک درہم کمائے اور اس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت تو کر لے لیکن نماز باجماعت ادا نہ کر سکے اور اگر چار دانق (درہم کا

..... ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے انہیں دیکھا تو مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان سے معاف نہ کیا، اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے چل جانے کے بعد جب میں نے ان کے اس فعل پر اعتراض کیا تو فرمایا: تم کیوں اعتراض کرتے ہو اس شخص (یعنی درہم ابو حنیفہ) کا ایک علمی مقام ہے اگر میں ان کے علم کے لئے کھڑا نہ ہوتا تو ان کی عمر کا خیال کر کے کھڑا ہو جاتا اور اگر عمر کا خیال نہ کرتا تو ان کی فقہ کے لئے کھڑا ہو جاتا اور اگر فقہ کا خیال نہ کرتا تو ان کے تقویٰ پر بیڑ گاری کے لئے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں ان کے اس جواب سے لا جواب ہو کر رہ گیا۔ (اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ ص ۸۰) امام ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ کہا: امام ابو حنیفہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے پاس سے۔ فرمایا: تم روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ کے پاس سے آئے ہو۔ امام ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے سر ہاتے امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی کتاب البر بن و یحییٰ سنی تو کسی نے کہا: کیا آپ ان کی کتابیں دیکھتے ہیں؟ فرمایا: کاش میرے پاس ان کی سب کتابیں ہوتیں جنہیں میں دیکھا کرتا۔ امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھ سے زیادہ امام صاحب کے قریب سفیان ثوری ہیں۔ ایک دن امام سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت ابن مبارک سے امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وہ ایسے علم پر سوار ہیں جو نیزے کی نوک سے زیادہ تیز ہے اور بخیر زادہ علم کو بہت حاصل کرنے والے، محارم سے دور رہنے والے اور اپنے شہر والوں کا بہت اتباع کرنے والے ہیں سوائے صحیح حدیث کے دوسری قسم کی حدیث لینا حلال نہیں جانتے، حدیث کے ناخن و مسنون کو خوب پہچانتے اور ثقات سے احادیث لیتے ہیں۔ (المحیرات الحسن، الفصل الثالث عشر، ص ۳۵، ملقطاً)

ایک تہائی حصہ) کمائے تو باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے لیکن اس میں اپنی اور اہل و عیال کی کفالت نہیں کر پاتا، اس کے لئے ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک درہم کمائے اور اکیلا نماز پڑھے <sup>(۱)</sup>۔

﴿9373﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں ایک شخص سے ملوں جو مجھے ناپسند ہو اور وہ مجھ سے میرا حال پوچھے تو میرا دل اس کے لئے نرم ہو جاتا ہے تو ان کے لئے میں کیسے نرم دل نہ ہوؤں گا جن کے ساتھ میں نے کھایا اور ان کے بچھونوں پر آرام کیا ہو۔

## گناہ کی نحوست:

﴿9374﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک مرتبہ فرمایا: میں ایک گناہ کے سبب پانچ مہینے رات کے قیام سے محروم رہا۔

## فکرِ آخرت میں ترپنا:

﴿9375﴾... حضرت سیدنا ابو زید رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دیکھا، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو ترپنے لگے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، کچھ جشیوں نے آپ زمرم نکالا اور اسے لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ پر ڈالاجی کہ آپ کو افاقہ ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت سیدنا ابو سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کیا تو

①... احناف کے نزدیک یہ یعنی اہل و عیال کی کفالت مطلقاً ترک جماعت کے لئے عذر نہیں، کچھ اور اعدا رہیں جن کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت ہے۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت، جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 583“ پر صَدْرُ الشَّیْخِ، بِذِی الطَّائِفِہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: (۱)... مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو (۲)... اپانچ (۳)... جس کا پاؤں کٹ گیا ہو (۴)... جس پر فاجح گرا ہو (۵)... اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے (۶)... اندھا مارچہ اندھے کے لئے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے (۷)... سخت بارش اور (۸)... شدید کچڑ کا حائل ہو (۹)... سخت سردی (۱۰)... سخت تاریکی (۱۱)... آمدھی (۱۲)... مال یا کھانے کے تلف (ضائع) ہونے کا اندیشہ (۱۳)... قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے (۱۴)... ظالم کا خوف (۱۵)... پانخانہ (۱۶)... چیشاب (۱۷)... ریاچ کی حاجت شدید ہے (۱۸)... کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہو (۱۹)... قائلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے (۲۰)... مریض کی تیار داری کہ جماعت کے لئے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لئے عذر ہیں۔ (درمختار، کتاب الصلاۃ، باب الامامة) ۳۴۹/۲

انہوں نے فرمایا: انہیں آسمان کی طرف دیکھنے نے نہیں بلکہ فکر آخرت نے تڑپایا ہے۔

## نماز میں رونا:

﴿9376﴾... حضرت سیدنا مزاحم بن زُفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ذَکَرُکَرْتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے ہمیں نمازِ مغرب پڑھائی، جب آپ قراءت کرتے ہوئے:

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ﴿۱﴾ (پ: الفاتحہ: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔

تک پہنچے تو رونے لگے حتیٰ کہ قراءت رک گئی پھر آپ نے ابتدا سے سورہ فاتحہ کا اعادہ کیا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9377﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: اگر یقین دل میں ایسا قرار پزلے جیسا ہونا

چاہئے تو دل جنت کے شوق کی وجہ سے خوش ہو جائے گا یا جہنم کے خوف سے غمگین۔

## دین کی سلامتی والی جگہ:

﴿9378﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جب تمہیں کسی ستے علاقے کا علم ہو تو وہاں

چلے جاؤ کیونکہ وہ تمہارے دین کے لئے زیادہ سلامتی والا اور تمہارے لئے تہمت کو زیادہ کم کرنے والا ہے۔

﴿9379﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہے: جب گھر میں گندم

موجود ہو تو عبادت میں مشغول رہو اور اگر نہ ہو تو اس کی طلب کرو۔

﴿9380﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جب تم عبادت کا ارادہ کرو تو گندم جمع کر لو۔

﴿9381﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری

عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے سوال کیا: ابو عبد اللہ! عبادت کہاں عمدہ ہوتی ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

جہاں روٹیوں کا بڑا تھیلا ایک درہم کا ملتا ہو تاکہ کوئی کسی دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے نہ دیکھے۔

①... فرض کی پچھلی (آخری) رکعتوں میں (سورہ فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سب واجب نہیں اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ

حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا تو سجدہ سب واجب ہے۔ (بہار شریعت، حصہ چہدہم، ۱/۱۷۱) جبکہ بھول کر اعادہ کیا ہو اور اگر قصد اعادہ کیا

تو نماز واجب الا اعادہ ہوگی۔ (دارالافتاء ہند)

## بیدار رہنے کا طریقہ:

﴿9382﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جو چاہے کھالو لیکن پینا کچھ نہیں کیونکہ جب تک تم کچھ پیو گے نہیں تمہیں نیند نہیں آئے گی۔

## موت کی آرزو:

﴿9383﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی جب غمگین ہوئے تو حضرت سیدنا مؤنب بن وَرْوَہُہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس جا کر کہنے لگے: ابا امیہ! کیا تم نے کسی کو موت کی تمنا کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا: میں تو مر جانا چاہتا ہوں۔

﴿9384﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: ہمارے قبیلے بنو ثور کا ایک شخص صبح کے وقت یہ صدا لگاتا تھا: اے اللہ! نیک مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے، زمانہ سخت ہو گیا، اے اللہ! مجھے زلت و رسوائی کے بغیر جلد موت عطا فرما۔

## نیکیوں کی مجلس:

﴿9385﴾... حضرت سیدنا ابن زُحْم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کَا یَا ن ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا مالک بن مغول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِمَا اَپْسِیں میں گفتگو فرما رہے تھے، دوران گفتگو ان دونوں پر رقت طاری ہو گئی، حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مجھے موت آجائے۔ حضرت سیدنا مالک بن مغول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے فرمایا: لیکن میں یہ نہیں چاہتا، موت کے فرشتے دیکھنے سے ڈرو، موت کے فرشتے دیکھنے سے ڈرو۔ پھر رونا شروع ہو گئے اور اپنے پاؤں زمین سے رگڑنے لگے۔

﴿9386﴾... مؤئل بن اسماعیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے علاوہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا کوئی عالم نہیں دیکھا۔

## علم و تقویٰ والے نہ رہے:

﴿9387﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی



رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: جو تمہارے ساتھ نہیں وہ تمہارا مخالف ہے۔ اور یہ بھی فرمایا: میں جس کی خواہش کے آڑے آتا ہوں وہ مجھ پر بھڑک جاتا ہے، علم و تقویٰ والے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔

﴿9388﴾... حضرت سیدنا ابو احمد زبیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کے ایک بھائی نے انہیں خط لکھا کہ ”مجھے اچھی اور مختصر نصیحت کیجئے۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انہیں لکھا: ”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے اور آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، میرے بھائی! دنیا کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی خوشی ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی، لہذا اپنے لئے عمل کرو تاکہ نجات حاصل ہو اور سستی نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَالسَّلَامُ

### قرآن مجید سے لگاؤ:

﴿9389﴾... حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي روزانہ قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھتے تھے جس دن نظر نہ ڈال پاتے تو قرآن مجید کو لے کر سینے پر رکھ لیا کرتے تھے۔

### آل محمد کون؟

﴿9390﴾... عبد الحمید بن عبد الرحمن حِمْزَانِی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي سے سوال کیا: آل محمد کون ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اُمتِ محمدیہ۔

﴿9391﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: پوشیدہ رہنے میں عافیت ہے۔

﴿9392﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: اگر مجھے کسی بال بچوں والے شخص کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کافر ہو گیا تو میں اسے لعید نہیں سمجھوں گا۔

﴿9393﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: صاحب بصیرت شخص کی نگاہ میں دنیا کا اکثر حصہ بدترین ہے۔

### مقروض گوشت نہ کھائے:

﴿9394﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّحْمَنِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا: کیا مقروض شخص گوشت کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔

﴿9395﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جس بھی شخص کو دنیا سے کچھ دیا گیا اس سے یہ کہا گیا کہ ”اسے لے اور اس کے برابر غم بھی لے۔“

## خوف خدا کی پہچان:

﴿9396﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن خَافِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص سے فرمایا: کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ایسے ہی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم بے وقوف ہو اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ایسے ڈرتے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو اس کے فرائض کو ادا کرتے۔

﴿9397﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اپنا کچھ خوف کم فرمادے۔

﴿9398﴾... حضرت سیدنا فضیلہ بن سعید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نہ ہوتے تو پرہیزگاری کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔

## دنیا اور آخرت سے حصہ:

﴿9399﴾... حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے بکرنامی ایک عبادت گزار سے فرمایا: اے بکر! دنیا سے اپنے جسم کے لئے اور آخرت سے اپنے دل کے لئے حصہ لو۔ حضرت سیدنا ابونضر بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”تمہارے جسم کے لئے دنیاوی حصہ“ سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں تمہارے لئے ضروری ہو اور ”تمہارے دل کے لئے اخروی حصہ“ سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو فکرِ آخرت میں مشغول رکھو۔

## دین کی سلامتی کا نسخہ:

﴿9400﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: زہد اختیار کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کے راز تم پر

ظاہر فرمادے گا، پرہیز گاری اختیار کروا اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے حساب میں نرمی فرمائے گا، مشکوک کام چھوڑ کر وہ کام کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں اور شک کو یقین سے زائل کرو اس سے تمہارا دین سلامت رہے گا۔

﴿9401﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر تم آخرت میں رغبت کی وجہ سے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس اندیشے سے چھوڑ دو کہ یہ بے کار زمین اور بیمار اونٹوں کا اضطبل ہے جس میں تم جیسے لوگوں کی کثرت ہے۔

﴿9402﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر تم دنیا کی قدر جاننا چاہو تو دنیا دار کو دیکھو۔  
 ﴿9403﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: تمہارے لئے دنیا کی خیر وہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں تمہاری آزمائش نہ ہو اگر کسی چیز کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے تو تمہارے لئے اس کی خیر وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔

### خوف کی کیفیت:

﴿9404-5﴾... حضرت سیدنا ابواسامہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جو بھی حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دیکھتا اسے ایسا لگتا گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کشتی میں ہیں اور آپ کو ڈوبنے کا خوف ہے۔ آپ کثرت سے یہ ورد کیا کرتے تھے: ”يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ لِيْ اے اللہ! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔“  
 ﴿9406﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: ہمارے زمانے کے علما حریص ہیں ان میں تقویٰ نہیں ہے۔

﴿9407﴾... حضرت سیدنا محمد بن رافع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عبد الرزاق بن ہمام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کسی نے پوچھا: کیا حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی میں کوئی معصیت والی بات تھی؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس کا علم نہیں البتہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ سند بیان کی ”مَنْصُودٌ عَنْ اَبِيْ اَیْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللہِ“ پھر (بطور فخر) فرمایا: غلام! اس سند سے کوئی حدیث بیان کرو۔

### آپ عَلَیْہِ الرَحْمَةُ کی پسندیدہ منہ:

﴿9408﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق بن ہمام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے: ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان

ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اپنے مُصَاحِجِیْن کو ایک سند یوں سنائی: ”حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ“ اس کے بعد فرمایا: یہ سند مُجَدِّثِیْن کے لئے باعث شرف ہے۔

﴿9409﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: قراءت زہد کے ساتھ ہی درست ہے، زندوں پر انہی باتوں کی وجہ سے رشک کرو جن کی وجہ سے فردوں پر رشک کرتے ہو، لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق محبت کرو، وہ فرمانبرداری کریں تو ان کے ساتھ نرمی و عاجزی کرو اور گناہ کریں تو ان پر سختی کرو۔

### پتھر کا بچھونا:

﴿9410﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ مسجد حرام میں تھا، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کنکریوں کا ڈھیر بنا کر اس سے ٹیک لگائی پھر فرمایا: اے ابراہیم! یہ بادشاہوں کے تختوں سے بہتر ہے۔

﴿9411﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں نے ایک درہم بھی کبھی عمارت بنانے میں خرچ نہیں کیا۔

﴿9412﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جب بھی دنیا سے ہمارے پاس کچھ آیا تو ہم نے یہی چاہا کہ اس پر راضی کوئی شخص مل جائے تو یہ اسے دے دیں۔

﴿9413﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جب کوئی شخص مجھے پانی کا گھونٹ پلاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ میری پسلی چورہ چورہ کر دیتا ہے (کہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا)۔

﴿9414﴾... حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: انسان کے دین کی حفاظت اس کی قبر ہی کرتی ہے۔

### دو کھانوں کو یکجا کرنا:

﴿9415﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عبد اللہ بن اسود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَر کا بیان ہے کہ ہم حضرت سیدنا

سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس ان کے گھر میں موجود تھے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک ہنڈیا لائے جس میں گوشت اور شورباتھا پھر اسے ایک رکابی میں انڈیا اور اس پر گھی ڈالا۔ میں نے عرض کی: ابو عبد اللہ! کیا دو مختلف چیزوں کا جمع کرنا مکروہ نہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تنگ دست کے حق میں ناپسندیدہ ہے۔

## بھائی کو نصیحت آموز مکتوب:

﴿9416-17﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا مبارک بن سعید رضی اللہ عنہ انجینڈ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی کو خط لکھ کر اپنی بیٹائی زائل ہونے کی شکایت کی تو آپ دُخْتُہ اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواباً یہ لکھا: اما بعد! اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہو اور ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری حالت سے موت کی یاد آجائے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے یہ جواب لکھا: بھائی! میں تمہارا خط سمجھ گیا اس میں تم نے اپنے رب تعالیٰ سے شکایت کا تذکرہ کیا ہے، موت کو یاد رکھو کہ اس سے بیٹائی زائل ہونے کی مصیبت تم پر آسان ہو جائے گی۔ وَالسَّلَام

## اڑدھے کے منہ میں ہاتھ:

﴿9418﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی نے فرمایا: تمہارا اڑدھے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا اس بات سے بہتر ہے کہ تم اس نعمت والے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ جو اپنا فخر ختم کر چکا ہے۔

﴿9419﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک دُخْتُہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی نے مکہ میں کچھ عباسی امرا کو دیکھا تو فرمایا: جن گناہوں کے سبب یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں یقیناً وہ کبیرہ گناہ ہیں۔

## تحریر ملامت کا سبب ہے:

﴿9420﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی نے فرمایا: کتاب ملامت تک پہنچائی ہے۔ حضرت سیدنا حافظ ابو نعیم دُخْتُہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میری کتاب میں یہی الفاظ ہیں۔ البتہ میں نے کسی سے یوں بھی سنا ہے کہ ”کتاب تمہائی سے ملا دیتی ہے۔“

﴿9421﴾... حضرت سیدنا وکیع رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ البیہ سے مروی ہے کہ ہم عید کے دن حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی کے ہمراہ نکلے، آپ دُخْتُہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آج کے دن ہمارا پہلا کام لگاؤں بھگانا ہے۔

## دنیا سے مومن کے نکلنے کی مثال:

﴿9422﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دُخْتُہ اللہ القوی نے فرمایا: میں دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنے

والے مومن کی مثال اس بچے سے دیتا ہوں جو رجمہاد کی گھٹن سے نکل کر دنیا کی راحت پاتا ہے۔

﴿9423﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے مجھ سے فرمایا: شہرت سے بچو، میں جس بزرگ کے بھی پاس گیا اس نے مجھے شہرت سے روکا اور کسی نے یہ مشورہ دیا: تمہیں اپنے سے زیادہ مشہور کو تلاش کرنا چاہیے۔

**لیکجا پھٹ گیا:**

﴿9424﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے بھانجے حضرت سیدنا علی بن حمزہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا قارورہ (یعنی پیشاب) لے کر گیا، وہ راہب اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، میں نے اسے قارورہ دکھایا تو وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا: یہ مسلمان کا قارورہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا: کیوں نہیں، خدا کی قسم! یہ بڑے ہی پکے مسلمان کا قارورہ ہے۔ اس نے کہا: میں بھی تمہارے ساتھ اس کے پاس چلتا ہوں۔ میں نے آکر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی: وہ خود یہاں آگیا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اسے اندر لے آؤ۔ میں اسے اندر لے آیا، اس نے آپ کے پیٹ کو چھوا اور نبض دیکھی پھر وہ وہاں سے نکل گیا، میں نے اس سے پوچھا: تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا: میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ان جیسا ہو گا، یہ وہ شخص ہے جس کا کلیجہ غم سے پھٹ چکا ہے۔

**فکرِ آخرت:**

﴿9425﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: شدید فکرِ آخرت کے سبب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے پیشاب میں خون آتا تھا۔

﴿9426﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھ کو مکر مند رہنے کی وجہ سے میرے پیشاب میں خون آتا ہے۔

**مختلف نصیحتوں کا گلِ دستہ:**

﴿9427﴾... حضرت سیدنا ابو حماد مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے حضرت سیدنا علیؑ حسن سلوکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے بھائی! خواہش پرستوں کے خواہشات میں بدست رہنے اور نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہونے کی وجہ سے ان پر رشک نہ کرنا کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں قدم ڈمگنا جائیں گے، جسموں پر لرزہ طاری ہو جائے گا، رنگ متغیر ہو جائیں گے، طویل عرصے کھڑا رہنا پڑے گا، حساب سخت ہو گا اور دل پھٹ کر حلق میں آجائیں گے تو کیسی ندامت ہو گی جب ان شہوتوں کی وجہ سے انہیں مصیبت پہنچے گی، اپنا مال ان کاموں میں خرچ کر دو جو تمہارے لئے فائدہ مند ہوں ان کاموں میں خرچ نہ کرنا جو تمہارے لئے نقصان کا باعث ہوں کیونکہ جس نے اپنا مال آگے بھیجا اور اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق ادا کیا تو اس کا مال اس کے لئے مفید اور افضل ترین ہے اور جس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا اور اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق ادا نہ کیا تو بروز قیامت وہ مال اس کے لئے وبال ہو گا، حلال کماؤ اور حلال کمانے والے کے ساتھ بیٹھو، جس کی کمائی حلال ہو اس کا کھانا کھاؤ اور حلال کمانے والے سے ہی مشورہ طلب کرو کیونکہ تقویٰ دین کی اصل اور آخرت کے معاملے کی کامیابی ہے۔

اے میرے بھائی! جان لیجئے کہ حرام سے وہی بچتا ہے جو اپنے گوشت اور خون پر رحم کرنے والا ہے کیونکہ تمہارا دین تمہارا گوشت اور خون ہے لہذا حرام سے بچتے رہو اور حرام کمانے والے کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کو حرام کا راستہ دکھاؤ نہ کسی کو حرام کا اشارہ دو کہ وہ اُسے حاصل کر لے اور نہ ہی کسی کو حرام کا وارث بناؤ اور ہر نیک و بد کو اس سے بچنے کی نصیحت کرو۔ الغرض اگر تم نے ان افعال میں سے کچھ بھی کیا تو تم حرام کے حصول میں مددگار ٹھہر گے اور مدد کرنے والا حصہ دار ہوتا ہے۔

تم ظلم کرنے، ظالم کے مددگار بننے، اس کی صحبت اختیار کرنے، اس کی وکالت کرنے یا اس کی خوشنودی کے لئے مسکرانے یا اس سے کوئی چیز حاصل کرنے سے بچتے رہنا بصورت دیگر تم اس کے مددگار ہو گے اور مدد کرنے والا بھی شریک ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار لوگوں کی مخالفت ہرگز نہ کرنا، خطاکاروں سے دوستی نہ کرنا، گناہ گاروں کے ساتھ مت بیٹھنا، ہر حرام سے اور حرام کام کرنے والوں سے بچتے رہنا اور خواہش پرستوں سے دور رہنا کیونکہ خواہشات کی ابتداء اور انتہا دونوں باطل ہیں۔

ہر گناہ کی توبہ ہے جبکہ گناہ ترک کر دینا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے اور بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ گناہ گاروں

کو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، توبہ کرنے والوں کے لئے رحیم ہے، حلم والا محبت والا ہے اور اس کی ڈھیل دیکھ کر گناہوں پر دلیر نہ ہونا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کے لئے بھی کسی گناہ، حرام کھانے اور ظلم سے راضی نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ الْأَعْيَالِ وَأَعْبَلُواْ صَالِحًا  
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۸، المؤمن: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے پیغمبر و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

پھر ایمان والوں سے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ  
مَا كَسَبْتُمْ ﴿۳﴾ (البقرہ: ۲۶۷)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو۔

پھر اس بات کا مطلق حکم دیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِنْ ثَمَرِ مَا حَلَّلْنَا  
لَكُمْ عَنْهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲﴾ (البقرہ: ۱۶۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اے میرے بھائی! غور کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام، مؤمنین اور مشرکین کسی کے لئے بھی حرام کھانے پر راضی نہیں، گناہ صغیرہ کو ہلکانہ جانتا، بلکہ تم یہ دیکھ لو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو؟ اس ربِّ عظیم کی نافرمانی کر رہے ہو جو صغیرہ گناہ پر پکڑ فرماتا ہے اور کبیرہ سے درگزر فرماتا ہے۔ سب سے بڑا عقلمند وہ ہے جو کسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہو جائے اس طرح کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نے ہمیشہ اسے یاد رکھا پھر ہمیشہ اس گناہ کی وجہ سے اپنی جان پر خوف محسوس کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اور سب سے بڑا احق وہ ہے جو کسی نیکی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے یوں کہ نیکی کرنے کے بعد اس نے اسے ہمیشہ یاد رکھا اور ہمیشہ اس کا چرچا کرتا رہا اور اس کے ثواب کی امید رکھی مگر اپنے گناہوں کو ہلکا جانا حتیٰ کہ دنیا سے چلا گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔

اے میرے بھائی! عقل مندی اختیار کرو اور تم اپنی لغزشوں اور سابقہ کوتاہیوں سے خوفزدہ رہو، تم نہیں



جانتے کہ تمہارا رب عَزَّوَجَلَّ اس بارے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اور تم اس سے بھی بے خبر ہو کہ آئندہ زندگی میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بے شک حضرت سیدنا ابراہیم خَلِیلُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنی جان پر خوف کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی:

وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۖ (پ: ۱۳، ابراہیم: ۳۵)  
ترجمہ کنز الایمان: اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔

حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ عرض کی:  
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِي بِالْصَّالِحِينَ (پ: ۱۳، یوسف: ۱۰۱)  
ترجمہ کنز الایمان: مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قُرب خاص کے لائق ہیں۔

حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے یوں عرض کی:  
رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَئِنْ اُكُوْنُ ظَٰهِرًا  
لِّلْجَٰنِّ مِثْنًا (پ: ۲۰، القصص: ۱۷)  
ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔

اور حضرت سیدنا شعیب عَلَیْہِ السَّلَام نے یوں عرض کی:  
مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نُّعُوْذَ بِهَا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ  
رَبُّنَا ۖ (پ: ۹، الاعراف: ۸۹)  
ترجمہ کنز الایمان: ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے گمراہی کہ اللہ چاہے جو تمہارا رب ہے۔

یہ نفوس قدسیہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے انبیاء عَلَیْہِ السَّلَام ہیں جو اپنی جانوں پر خوفزدہ رہے اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

## بیت المقدس اور عسقلان کا سفر:

﴿9428﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیِّ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیِّ بیت المقدس آئے اور تین دن قیام فرمایا، بابِ رحمت اور حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کی مَنَازِلِ صَلَوة کی مَحَراب کے پاس نماز ادا کی اور عسقلان میں 40 روز قیام فرمایا، عسقلان سے مدینہ منورہ جاتے وقت میں بھی ان کے ہمراہ تھا، آپ راستے میں اپنے خرچے کے پیسے نکالتے تو ان کے ساتھ ہم بھی پیسے نکالتے پھر آپ

رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وہ پیسے ایک شخص کو دے دیتے تھے تاکہ وہ ہم پر خرچ کرے اور جب ہم اپنا دسترخوان لگاتے تو جس کی جو طلب ہوتی آپ اُسے وہ عطا فرماتے حتیٰ کہ کچھ نہ بچتا تھا، پس ہم میں سے بعض افراد جب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو اپنی روٹی اٹھاتے اور ایک طرف جا کر کھانے لگتے۔

﴿9429﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: ہماری رائے میں انسان کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غار میں رہے۔

### خفیہ تدبیر:

﴿9430﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: لوگ ہمارے نزدیک مومن مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کیا ہیں؟

﴿9431﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: لوگ نکاح، طلاق اور دیگر احکام کے معاملے میں ہمارے نزدیک مومن ہیں لیکن عند اللہ وہ کیا ہیں یہ ہم نہیں جانتے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔

### بد مذہبی سے نفرت:

﴿9432﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن یونس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کسی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی سے پوچھا: ایک شخص تقدیر کا منکر ہے، کیا میں اُس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اے امام نہ بناؤ۔ اس نے کہا: گاؤں میں بس وہی امام ہے اس کے سوا اور کوئی امام نہیں ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے با آواز بلند فرمایا: اے امام نہیں بناؤ، نہیں بناؤ۔

﴿9433﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی (کیونکہ بدعتی اسے اچھا سمجھتا ہے)۔

﴿9434﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: اہلبیت کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔

﴿9435﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: جس نے کسی بد مذہب کی بات توجہ سے سنی وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل گیا۔

﴿9436﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ارشاد فرماتے ہیں: جب کسی مرے ہوئے شخص کا تذکرہ ہو تو (اس کے بارے میں) عام لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہ دو بلکہ علم و عقل والے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دو۔

**بد مذہبی کے بہترین معالج:**

﴿9437﴾... حضرت سیدنا عمرو بن حسان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (بد عقیدگی کے) بڑے اچھے معالج تھے، جب بصرہ جاتے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہْمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے فضائل بیان کرتے اور جب کوفہ جاتے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے فضائل بیان کرتے۔

﴿9438﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھ سے فرمایا: جب تم "شام" میں ہو تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہْمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے مناقب بیان کیا کرو اور جب کوفہ میں ہو تو حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے مناقب بیان کیا کرو۔

**بغض صحابہ سے پاک سینہ:**

﴿9439﴾... حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عاصم بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے سامنے لوگوں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا ذکر کیا اور ان کی خوبیاں بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے 15 خوبیاں شمار کیں تو حضرت سیدنا عاصم بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم بیان کر چکے؟ اب سنو! میں ان کی ایک ایسی فضیلت کو جانتا ہوں جو ان تمام خوبیوں سے افضل ہے اور وہ حضرات صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم اَجْمَعِیْنَ کے لئے ان کے سینے کا بغض سے پاک ہونا ہے۔

**دین و عقل میں کمزور شخص:**

﴿9440﴾... حضرت سیدنا حمزہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کہا: میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہْمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے افضل سمجھتا لیکن جو محبت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہْمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے اپنے دل میں پاتا ہوں وہ ان دو حضرات کے لئے نہیں پاتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: تم دین

و عقل میں کمزور شخص ہو۔

﴿9441﴾... حضرت سیدنا عبد الوہاب حلی علیہ رحمۃ اللہ البیان کرتے ہیں کہ میں نے بیٹ اللہ کے طواف کے دوران حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی ان دونوں سے نہیں کرتا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ایسا شخص بیمار ہے اسے دوا کی حاجت ہے۔

﴿9442﴾... کثیر حج کرنے والے بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن خفیزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ سے پوچھا: کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جس کا عقیدہ ہو کہ ایمان فقط اقوالاً باللسان کا نام ہے عمل کا نہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی عزت ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9443﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے فرمایا: محبت علی میں حد سے تجاوز کرنے والوں نے ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فضائل بیان کرنے سے روک دیا ہے۔

### صحابہ کو عیب لگانے والا:

﴿9444﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے فرمایا: جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دی اس نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو عیب لگایا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس وجہ سے اس کا کوئی عمل مقبول نہ ہو۔

①... آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان فرقہ مزیحیہ کے بارے میں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ فرقہ مزیحیہ والے عمل کو مرتبے کے اعتبار سے نیت اور عقیدے سے مؤخر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیت اور عقیدہ کافی ہے اگرچہ عمل نہ ہو نیز وہ عمل کو شرط قرار دینے بغیر لوگوں کو اجر و ثواب کی امید دلاتے ہیں جبکہ ان کے برعکس اہلسنت و جماعت عمل کو اس لحاظ سے مؤخر قرار دیتے ہیں کہ عمل کو حقیقت ایمان میں داخل نہیں مانتے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے لئے عمل کے بغیر رحمت اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ مومن (ناہ کبیرہ گناہ کبیرہ) کے باوجود ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گناہ بخش دے گا۔ (ماخوذ از تحصیل الترفی فی معرفۃ الفقہ و التصوف (مزجم بیام: تعارف فقہ و تصوف)، ص ۴۷۲)

حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے دو گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مزیحیہ اور قدرتیہ۔ (ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء فی القدریۃ، ۵۹/۲، حدیث: ۲۱۵۶)

﴿9445﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمْرُو اللہ تَعَالٰی وَجْہَ الْکَرِیْم کو حضرت سیدنا ابوبکر و عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا پر فضیلت دی اس نے ان دونوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم اَجْمَعِیْنَ کو عیب لگایا۔

﴿9446﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَمْرُو اللہ تَعَالٰی وَجْہَ الْکَرِیْم کو حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ پر فضیلت دی اس نے مہاجرین و انصار کو عیب لگایا۔

### انفرادی و اجتماعی معاملات:

﴿9447﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: ہم اجتماعی معاملات میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قول پر عمل کریں گے اور انفرادی معاملات میں ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے قول پر عمل کریں گے۔

### جہمیہ اور قدریہ کافر ہیں:

﴿9448﴾... حضرت سیدنا عمار بن عبد الجبار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو فرماتے سنا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جہمیہ و قدریہ کافر ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی: آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: میری رائے وہی ہے جو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ہے۔

### بد مذہب کے پیچھے نماز کی ممانعت:

﴿9449﴾... حضرت سیدنا بشر بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقُّود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے سوال کیا: میرے دروازے کے سامنے مسجد ہے جس کا امام بد مذہب ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اس نے کہا: کبھی رات میں بارش بھی ہوتی ہے اور میں بوڑھا آدمی ہوں؟ فرمایا: تب بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔

## تین چیزوں سے دور رہو:

﴿9450﴾... حضرت سیّدنا احمد بن یونس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی سے کسی نے نصیحت کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا: خواہشات، جھگڑے اور حاکم سے دور رہنا۔

﴿9451﴾... حضرت سیّدنا مبارک بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّجِد اپنی بھائی حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: اے ابو عبد اللہ! لوگ ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس سے فرمایا: جب تم صبح بازار جاؤ تو کسی معمولی مال بردار کو دیکھنا اور اس سے اس بارے میں پوچھنا وہ تمہیں اس بارے میں جو بتائے وہی اسلام ہے۔

## بتوں کا پجاری اور سعادت مندی:

﴿9452﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی نے فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو پسند نہ کرے تو اُس سے ناراض ہو جاتا ہے اور کسی کو پسند کرے تو اُس سے راضی ہو جاتا ہے اور ایک شخص بتوں کی پوجا کرتا ہے حالانکہ وہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سعادت مند ہو تا ہے (یعنی وہ موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے)۔

﴿9453﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی نے فرمایا: جب ہم کوئی سختی والی بات سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور جب نرمی والی بات سنتے ہیں تو اہل قبلہ کے لئے اس کی امید کرتے ہیں، مردوں پر کوئی حکم لگاتے ہیں نہ زندوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور ہمیں جس بات کا علم نہیں ہوتا اسے اُس کے جاننے والے علما کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو کم تر جانتے ہیں۔

﴿9454﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی نے فرمایا: ہر گمراہی مُزْن ہوتی ہے اپنا عقیدہ اس پر ظاہر نہ کرنا جو اسے ناپسند کرتا ہے۔

﴿9455﴾... حضرت سیّدنا شہاب بن خراش حوْشِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوْبِی بَیَان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوٰی سے پوچھا: کیا آپ مومن ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔<sup>(۱)</sup>

۱... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب ”کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ 578“ پر شیخ طریقت، امین المہنت، بابی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری...ؒ

میں نے کہا: ایسے نہ کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے نہ سنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (نوح علیہ السلام کا قول بیان) فرمایا:

وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱﴾ إِنَّ جَسَابَهُمْ

إِلَّا عَلَى سَبَبٍ لَوْ شَاءَ مُرْدُونَ ﴿۲﴾ وَمَا أَتَا بِطَارِدٍ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾ (پ: ۱۹، الشعر: ۱۱۳ تا ۱۱۴)

میں نے کہا: میری اور آپ کی مثال طیب اور دوساز کی سی ہے، میں طیب ہوں جبکہ آپ دوساز ہیں۔

## فرقہ مرجیہ اور سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمۃ:

﴿9456﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فرقہ مرجیہ تین باتوں میں ہمارے مخالف ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ (۱)... ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں: ایمان قول کا نام ہے عمل کا نہیں۔ (۲)... ہم کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ (۳)... جبکہ وہ کہتے ہیں: ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ (۴)... ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ

..... رضوی ضیائی، کتاب بیگانہ نفعیہ لکھتے ہیں کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا: "میں مومن ہوں اِنْ شَاءَ اللہ" اگر اپنے ایمان میں شک کی وجہ سے اس طرح کہا تو کفر ہے اور اگر اس وجہ سے کہہ کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو گا یا کفر پر تو کفر نہیں۔ (فتاویٰ ہندیہ، کتاب السیر، باب الباب الفاسح فی احکام المرتدین، ۲/ ۳۵۷)

(حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کلمہ (اِنْ شَاءَ اللہ) سے مقصود ہر حال میں یا اولیٰ اور ہر معاملہ مشیت خداوندی کے سپرد کرنا ہے جیسے رب کریم ﷺ نے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ سے فرمایا: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنْیْ فَاعِلٌ ذَلِكْ عَلَیَّ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللہُ ﴿۱﴾ الکہف: ۲۳، ترجمہ کنز الایمان: اور ہر گز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ (احیاء العلوم، ۱/ ۱۶۸)

①... اس پر حاشیہ روایت نمبر: 9442 کے تحت گزر چکا ہے۔

②... فقہ اعظم ہند شارح بخاری حضرت سیدنا شریف الحق امجدی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں: ایمان کے سلسلے میں کثیر اختلافات ہیں۔ ان میں بنیادی اختلاف دو ہیں: اعمال و اقوال ایمان کے جز ہیں یا نہیں؟ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد و بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد و تواتر و اقوال کو ایمان کا جز مانتے ہیں اور امام اعظم اور جمہور حکامین و محدثین محدثین اعمال و اقوال کو ایمان کا جز نہیں مانتے۔ اسی کی فرع ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ فریق اول کے نزدیک اعمال و اقوال کی زیادتی سے ایمان بڑھتا ہے اور کمی سے گھٹتا ہے۔ اور فریق ثانی کے نزدیک ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ صحیح اور راجح یہی ہے کہ اعمال و اقوال ایمان کے جز نہیں اور ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ (نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، ۱/ ۲۹۱)

خیال رہے کہ دین یا ایمان کی مقدار میں زیادتی کوئی نہیں ہوتی یعنی کوئی کوئی اضافہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔

کے اقرار کے سبب مومن ہیں (حقیقت حال اللہ ﷻ ہی جانتا ہے)۔ جبکہ وہ کہتے ہیں: ہم عند اللہ مومن ہیں۔<sup>(۱)</sup>  
 ﴿9457﴾... حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا: قرآن مجید سے دور فرق کمر جیہ سے زیادہ کوئی نہیں۔

﴿9458﴾... مؤئل بن اسماعیل کا بیان ہے: عبدالعزیز بن ابورؤاد کا انتقال ہوا میں ان کے جنازے میں موجود تھا، جب جنازے کو (حرم کے ایک دروازے) باب صفا کے پاس رکھا، لوگوں نے صفیں بنالیں، اتنے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا: سفیان ثوری آگئے، سفیان ثوری آگئے۔ حتیٰ کہ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے جانے لگے اور لوگ آپ کو دیکھتے رہے آپ جنازہ چھوڑ کر آگے نکل گئے اور نماز جنازہ نہ پڑھی کیونکہ عبدالعزیز بن ابورؤاد پر مہرجی ہونے کا الزام تھا۔

﴿9459﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ نے فرمایا: سامان اٹھانے والوں، گھر میں رہنے والی عورتوں اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں والا عقیدہ رکھنا تم پر لازم ہے یعنی اقرار اور عمل کا مجموعہ ایمان ہے۔

## قرآن کو مخلوق ماننا کفر ہے:

﴿9460﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ نے فرمایا: ”جس نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ (یعنی قرآن کریم) کو مخلوق سمجھا اس نے اللہ ﷻ کے ساتھ کفر کیا۔

## تعریف کے باوجود بُرا انسان:

﴿9461﴾... یحییٰ بن منتوکل کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ نے فرمایا: جس کے تمام پڑوسی اس کی تعریف کرتے ہوں وہ بُرا انسان ہے۔ لوگوں نے پوچھا: وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: وہ انہیں گناہوں میں مبتلا دیکھ کر ان پر غیرت نہیں کھاتا اور ان سے مسکرا کر ملتا ہے۔

## تلاوت قرآن اور زندہ:

﴿9462﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ نے فرمایا: قراءت زندہ کے ساتھ ہی درست ہے، زندہ

... پورے مومن ہوتے ہیں ہاں کیفیت میں فرق ہوتا ہے بعض مومن بعض کامل مومن یعنی کامل ترمومن۔

(مرآۃ المناجیح، ۸/ ۳۷۳)

①... اس مقام کی تفصیل و وضاحت کے لئے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم مترجم، جلد 1، صفحہ 384 تا 394 کا مطالعہ فرمائیے۔



لوگوں کی انہی باتوں میں رشک کرو جن کے سبب مردوں پر رشک کرتے ہو، لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق محبت کرو، وہ فرمانبرداری کریں تو ان کے ساتھ نرمی و عاجزی کرو اور گناہ کریں تو ان پر سختی کرو۔

﴿9463﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: تلاوت قرآن میں حسن و خوبی اس وقت آتی ہے جب اس میں زہد بھی شامل ہو جائے۔

﴿9464﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو تو یہ فضل ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے بُرا ہو تو یہ ظلم ہے۔

﴿9465﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب بندہ چھپ کر کوئی عمل کرے تو شیطان اسے بہکا تا رہتا ہے حتیٰ کہ غالب آجاتا ہے اور اس کا وہ عمل علانیہ کیا جانے والا لکھ دیا جاتا ہے پھر شیطان اسے بہکا تا رہتا ہے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے تو اب وہ عمل علانیہ سے منکر رہا میں لکھ دیا جاتا ہے۔

﴿9466﴾... حضرت سیدنا محمد بن عثمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَنَان اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا بن قدامہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس آئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ انہیں دیکھتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، کسی نے آپ سے پوچھا: ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: قاضی شریک (رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) مال تقسیم کرنے پر مامور ہوئے تو انہوں نے اسے وکیل بنا دیا۔ پھر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ان سے فرمایا: شریک کو اپنی میل و گندگی کے لئے میرے سوا کوئی اور نہیں ملا؟ صحابہ کی افضلیت کے بارے میں موقت:

﴿9467﴾... حضرت سیدنا زید بن حُباب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعَاب فرماتے ہیں: پہلے اپنے کو فی اصحاب کی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی رائے بھی یہی تھی کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے افضل کہتے تھے پھر جب آپ بصرہ گئے تو اس عقیدے سے رجوع کر کے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم پر فضیلت دینے لگے لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

پر فضیلت دینے لگے۔<sup>(۱)</sup>

## حق مولانا علیؒ کو رحمۃ اللہ و جنۃ النکیم کے ساتھ ہے:

﴿9468﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جنۃ النکیم نے جس سے بھی جنگ کی آپ اس سے زیادہ حق پر تھے۔

﴿9469﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: جس نے یہ کہا کہ ”حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جنۃ النکیم حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ حق دار تھے“ تو اس نے حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم السلام کو غلط قرار دیا اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا بھی ہے یا نہیں۔

﴿9470﴾... حضرت سیدنا حفص بن غیاث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پوچھا: ابو عبد اللہ! لوگ مہدی کے خلاف بہت باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر وہ تمہارے دروازے سے گزرے تو تم اس سے کچھ

①... ”شرح عقائد نسفیہ“ میں ہے کہ (حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد) حضرت سیدنا عثمان و ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدنا شارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کیا تھا، جب ان کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا، پھر جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ عز و جل کے بندوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جنۃ النکیم ہیں اور ہم نے اپنے اسلاف کو اسی عقیدے پر پایا اور ظاہر ہے کہ اگر اس پر کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ یہ حکم ہرگز نہ لگاتے۔ (شرح عقائد نسفیہ، ص ۳۱۹)

جہاں تک حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی کا معاملہ ہے تو ان کا رجوع ثابت ہے جیسا کہ امام ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب ”المنشی من وینہاچ الإعتدال“ میں رقم طراز ہیں: کوئی علما کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جنۃ النکیم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا تھا، حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی کا بھی ایک قول یہی تھا۔ مگر منقول ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا، جب حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا: ”جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جنۃ النکیم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی اس نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم السلام کو عیب لگایا۔“ (المنشی من وینہاچ الاعتدال، ص ۸۱)

نہ کہنا سہی کہ لوگ اس پر متفق ہو جائیں۔

## تمام صحابہ سے یکساں محبت کرو:

﴿9471﴾... حضرت سیدنا رواد بن جراح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: تم آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کیسی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: شدید۔ پوچھا: حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لئے کیسی محبت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: شدید۔ پوچھا: حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لئے کیسی محبت رکھتے ہو؟ انہوں نے اس کے جواب میں کھینچ کر شدت کے ساتھ کہا: شدید۔ اس پر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اے عطاء! یہ شدت تمہیں داغ دار کرنا چاہتی ہے۔

﴿9472﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جو نبی نہ پیے<sup>(۱)</sup>، بکری کے بچے کا گوشت نہ کھائے اور موزوں پر مسح نہ کرے تو اپنے دین کی خاطر اس شخص کو برا جانو۔

﴿9473﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: حضرت سیدنا علی و حضرت سیدنا عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

①... نبی یعنی کھجور یا مسنے کو پانی میں بھگوایا جائے وہ پانی نشہ پیدا ہونے سے پہلے پیاجائے یہ جائز ہے احادیث سے اس کا جو ازنا ثابت ہے۔ (بہار شریعت ۲/۶۷۳) اور فتاویٰ قاضی خان میں ہے: نبیذ اس مشروب کو کہتے ہیں جس میں کھجوریں ڈالی جائیں تو پانی میٹھا ہو جائے (مگر اعضا کو) سست کرنے والا اور نشہ آور نہ ہو، نشہ آور ہو تو اس کا پینا حرام ہے۔ (فتاویٰ عابدیہ ۱/۹۱) حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق جو نبیذ پینے کی روایات ہیں وہ اس پر محمول ہیں کہ آپ پہلے نبیذ پیا کرتے تھے مگر بعد میں چینا چھوڑ دی یا یہ مراد ہے کہ آپ ایسی نبیذ پیا کرتے تھے جو نشہ آور نہ ہو جیسا کہ درج ذیل روایات سے واضح ہے: حضرت سیدنا امام مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مجھ سے اس شرط کے ساتھ جدا ہوئے کہ وہ اب نبیذ نہیں پئیں گے۔ (مسند امام احمد ۴/۶۰۷، حدیث: ۱۰۷۳۹) ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حضرت سیدنا قتادہ بن یوسف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس آکر دو اور نبیذ پیا کرتے تھے یہی جب آپ آخری مرتبہ آئے اور نبیذ پینے کی گئی تو آپ نے اسے پینے سے انکار کر دیا۔ (مسند ابن جعد ۱/۲۸۱، حدیث: ۱۸۷۸)

اور دوسری صورت کے متعلق بھی آپ سے ایک روایت منقول ہے، چنانچہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نبیذ کی کئیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اگر وہ نشہ دینے والی ہو تو نہ پیو۔ (حلیۃ الاولیاء ۴/۳۳، رقم: ۹۴۷۵)

اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت معزز لوگوں کے دلوں میں ہی جمع ہوتی ہے۔

## ائمہ پانچ ہیں:

﴿9474﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ (۳)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

﴿9475﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

## سنت کی موافقت:

﴿9476﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

﴿9477﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

﴿9478﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

لو اور چاہو تو اتار دو۔

﴿9479﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

ثوری نے اونچی آواز میں فرمایا: جو ”اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ یعنی اگر اللہ عزوجل چاہے تو میں مومن ہوں“ کہنے کو

ناپسند جانے وہ میرے نزدیک مرجی ہے۔<sup>(۱)</sup>

①... عقائد کے باب میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ مرجیہ ”اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ“ کہنے کو ناپسند جانتے ہیں کیونکہ حضرت سیدنا

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲)... حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۴)... حضرت سیدنا مولیٰ علی اور (۵)... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔

وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بندہ ایمان لے آیا تو اسے شک کئے بغیر ”اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ یعنی اگر اللہ عزوجل چاہے تو میں مومن ہوں“ کہنے کو اس لئے نامناسب خیال

کرتے ہیں کہ اس سے ایمان پر شک کا وہم ہوتا ہے جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 381

﴿9480﴾... اِصْطَفٰہُ قَلْعَہٗ کے رہائشی حضرت سیدنا غیاث بن واقد علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْوٰحِدِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دو، مرجی نہ ہو جانا اور یاد رکھو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ہے اور قدری نہ ہو جانا اور فرمایا: مرجیہ نے (اعمال کو غیر ضروری قرار دے کر) اس دین کو ساری چیزوں سے بھی زیادہ باریک (اجتنائی کمزور) کر دیا ہے۔

﴿9481﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: نماز اور زکوٰۃ ایمان سے ہیں اور ایمان بڑھتا ہے ﴿لوگ ہمارے نزدیک مومن مسلمان ہیں﴾ (خاتمے کا حال تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی جانے) لیکن ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السَّلَام تم سے افضل ایمان والے ہیں۔

﴿9482﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی علیہ نے فرمایا: ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی سے کہا: کیا آپ قدری ہیں؟ آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی علیہ نے فرمایا: اگر میں قدری ہوں تو بہت بُرا شخص ہوں اور اگر نہیں ہوں تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب ثور بن یزید (قدری) نکد آیا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی اس کا ہاتھ پکڑ کر دکان میں لے گئے اور اس سے گفتگو کرنے لگے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی نے اُن کا لباس پہنے ایک شخص سے کہا: تمہارا یہ لباس بدعت ہے۔ تو اس نے کہا: تمہارا ثور بن یزید کا ہاتھ پکڑ کر دکان میں لے جانا بھی بدعت ہے۔

﴿9483﴾... حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی علیہ بَیَان کرتے ہیں: حضرت سیدنا ایوب رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی علیہ نے میرے ذریعے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کو یہ کہلوا یا کہ ”عمر بن عبید کی صحبت اختیار نہ کرو۔“ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی سے یہ کہا تو انہوں نے فرمایا: ”میں اس کے

..... صفحات پر مشتمل کتاب ”شرح عقائد نسفیہ“ کے صفحہ 289 پر ہے: ”اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللہُ لَعِنِ اللہُ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو میں مومن ہوں“ کہنا مناسب نہیں کیونکہ اگر یہ شک کی وجہ سے کہا تو قطعی طور پر کفر ہے لیکن اگر ادب اور معاملات کو مشیت خداوندی کے سپرد کرنے یا موجودہ زمانہ حال والی حالت میں شک کے بغیر عاقبت و انجام کے بارے میں شک کرنے یا ذِکْرُ اللہ سے برکت حاصل کرنے یا تزکیہ نفس سے براءت کا اظہار اور اپنے حال پر حیرانی کی وجہ سے کہا تو نہ کہنا بہتر ہے اسی لئے نامناسب کہا ہے ناچاز نہ کہنا کیونکہ اگر یہ شک کی وجہ سے نہ کہا ہو تو عدم جواز کی کوئی صورت نہیں اور یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بزرگان دین حتیٰ کہ صحابہ کرام و تابعین نے بھی یہ الفاظ کہے ہیں۔

①... اس مقام کی تفصیل و وضاحت کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم مترجم، جلد 1، صفحہ 384-394 کا مطالعہ فرمائیے۔

پاس ایسی باتیں پاتا ہوں جو اوروں کے پاس نہیں پاتا۔“ جب میں نے حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَوَیَہ بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: ”انہیں باتوں کی وجہ سے میں ان پر خوفزدہ ہوں۔“

﴿9484﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے قول و فعل کی درستی عطا فرماتا ہے اور اُسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

﴿9485﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: جس نے کسی بد مذہب کی بات توجہ سے سنی اور اسے اس کا مذہب ہونا معلوم تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکال کر نفس کے سپرد کر دیا گیا۔

**بدعت سے بچانے کا نسخہ:**

﴿9486﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: جو بدعت والی بات سنے وہ اپنے ساتھیوں کو نہ بتائے یوں وہ بدعت کو ان کے دلوں میں ڈال نہیں سکے گا۔

﴿9487﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَزَّمَا اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے جس سے حجت کی اس پر غالب آئے۔

**ایمان اور اسلام ایک ہیں:**

﴿9488﴾... ایوب بن سوید سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں پھر یہ آیت تلاوت کی:

فَاُخْرِجْنَا مِنْهَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۲﴾ (پہلے ۲، الذریت: ۳۵، ۳۶) نکال لیے تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔

﴿9489﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: یوسف! جب تمہیں مشرق میں کسی صاحب سنت (یعنی بدعت سے بچ کر سنت پر چلنے والے) کا پتا چلے تو اسے سلام بھیجو اور جب مغرب میں کسی صاحب سنت کا پتا چلے تو اسے بھی سلام بھیجو کہ (فی الوقت) اہلسنت وجماعت کم ہو گئے ہیں۔

﴿9490﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عثمان بن ابو صفیہ رَحْمَةُ اللہِ

تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جب میں کسی شخص کو رضائے الہی کے لئے بھائی بناؤں، پھر وہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور میں اس سے کنارہ کشی نہ کروں تو میرا اسے بھائی بنانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر نہ ہوگا۔

﴿9491﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر کسی سے محبت کرو پھر وہ اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اس پر تم اُسے بُرا نہ جانو تو تمہاری اس سے محبت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر نہیں ہے۔

### زندگی تین چیزوں کا مجموعہ ہے:

﴿9492﴾... حضرت سیدنا عبد الواحد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: زندگی اختیار، آزمائش اور سزا کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات کی تعریف کی بلکہ ان کی تائید کرتے ہوئے کہا: اختیار کے لائق یہ ہے کہ اس سے راضی رہو، آزمائش کے لائق یہ ہے کہ اس پر صبر کرو اور سزائے لائق یہ ہے کہ اس سے بچنے کا سامان کرو۔

### دنیا و آخرت کی خرید و فروخت:

﴿9493﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا علی بن حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جان لو کہ سنت کی دو قسمیں ہیں (۱)... وہ سنت جس پر عمل ہدایت اور اسے چھوڑنا گمراہی ہے اور (۲)... وہ سنت جس پر عمل ہدایت اور اس کا ترک گمراہی نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نفل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ فرض بھی ادا کیا جائے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایک حق رات میں ہے جسے وہ دن میں کرنے پر قبول نہیں فرماتا اور ایک حق دن میں ہے جسے وہ رات میں قبول نہیں فرماتا۔ وہ قیامت کے دن بندے سے فرائض کا حساب لے گا، اگر فرائض پورے ہوں گے تو اُس کے فرائض و نوافل دونوں قبول کر لئے جائیں گے اور اگر بندے نے فرائض ادا کرنے کے بجائے ضائع کر دیئے تو نوافل کو فرائض سے ملا دیا جائے گا، اب اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ سب سے زیادہ اہم فرض حرام اور لوگوں کا مال دبانے سے باز رہنا ہے، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ أَنْ تُوَدُّوا إِلَہَکُمْ

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں

جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔

إِلَىٰ أَهْلِهَا (پ: ۵، النساء: ۵۸)

اور فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يُعِظُّكُمْ بِهِ

(پ: ۵، النساء: ۵۸)

اور فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور توشہ (سفر کا خرچ) ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پر ہیز گاری ہے۔

وَتَرَوْهُوَ أَقَانَ خَيْرَ الزَّادِ الثَّقَوَىٰ

(پ: ۲، البقرة: ۱۹۷)

یہاں آیت مبارکہ میں تقویٰ (پرہیز کرنے) سے مراد لوگوں کے اموال و جانے سے باز رہنا ہے یعنی یوں نہ کرو کہ لوگوں کے مال و جانہیں نیک اعمال میں خرچ کرو۔

اے میرے بھائی! اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھو، سچ بولو، نیت خالص رکھو، مختلف نیک اعمال بجالاؤ جن میں کھوٹ ہو نہ دھوکا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں دیکھ رہا ہے اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں، تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دھوکا دینے کی کوشش نہ کرنا کہ وہ تمہیں سزا دے کیونکہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے غافل کر کے مارتا ہے اور اس کا ایمان لے لیتا ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان کے ساتھ بُری چال نہ چلنا کہ بُری چال خود اپنے اوپر ہی پڑتی ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کیونکہ ارشادِ ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَيْعُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ لَا

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے۔

(پ: ۱۱، یونس: ۲۳)

کسی مسلمان کو فریب نہ دینا کیونکہ ہمیں رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حدیث پہنچی ہے کہ ”جس نے کسی مسلمان کو فریب دیا وہ مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔“ (۱) کسی مسلمان کو دھوکا ہر گز نہ دینا کہ یہ عمل تمہارے دل کا نفاق ہے۔ حسد اور غیبت ہر گز نہ کرو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایک فقیہ غیبت کی وجہ سے ایسے



وضو کیا کرتے تھے جیسے حدیث (وضو توڑنے والی چیزوں) کی وجہ سے کرتے تھے۔ اپنی خلوت و تنہائی کو اچھا کر لو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری جلالت کو اچھا فرمادے گا، اپنے اور رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان معاملہ درست رکھو وہ تمہارے اور لوگوں کے باہن معاملات درست رکھے گا۔ اپنی آخرت کے لئے عمل کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں تمہارے دنیاوی معاملات میں کافی ہو جائے گا، اپنی دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر دو دونوں کا نفع پاؤ گے اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچو ورنہ دونوں کا نقصان اٹھاؤ گے۔

﴿9494﴾... حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ نے فرمایا: میں جس کا پیر و کار ہوں بلکہ جس کی تمام باتوں کا پیر و کار ہوں وہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی کی کتاب ”جامع سفیان“ ہے۔  
 ﴿9495﴾... حضرت سیدنا محمد بن مسلم طَائِفِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ فرماتے ہیں: جب تم کسی عراقی کو دیکھو تو اس کے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو اور جب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی کو دیکھو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جنت کا سوال کرو۔

﴿9496﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی نے فرمایا: میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کبھی کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھا بلکہ بہت سی ملاقاتوں میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔  
 ﴿9497﴾... حضرت سیدنا امام اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی نے فرمایا: جب حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہوا تو لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔

### جاہل عابد اور فاسق عالم کا فتنہ:

﴿9498﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی نے فرمایا: پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جاہل عابد اور فاسق عالم کے فتنے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو کہ جاہل عابد اور گناہ گار عالم کے فتنے سے بچو کیونکہ یہ ہر کسی کے لئے فتنہ ہے۔  
 ﴿9499﴾... مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی سے کہا: میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم مجھ سے کیونکر محبت نہ کرو گے کہ تم میرے بیچا زاد ہونہ پڑو۔

### شکم سیری اور زیادہ منے کا نقصان:

﴿9500﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوِی نے فرمایا: ”شکم سیری سے بچو کہ یہ دل سخت کرتی ہے،

غصہ پی جایا کرو اور زیادہ نہ ہنسو کہ یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے۔“

## وقت کی قدر:

﴿9501﴾... حماد بن عتیٰ جُھنّی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو مکہ میں دیکھا، آپ نے کوئی چیز کھائی پھر اپنا ہاتھ ریت میں ڈال کر رگڑ لیا، میں نے کہا: ابو عبد اللہ! آپ اسے دھو ہی لیتے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: زندگی کچھ ہی دنوں کی تو ہے (یعنی دھونے میں لگتے والا وقت بچا کر نیکیوں میں صرف کرنا چاہیے)۔

﴿9502﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جب میں لوگوں کو کسی کے گرد جمع دیکھتا تھا تو اس پر رشک کرتا تھا اور جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں یہ آرزو کرنے لگا کہ میں ان سے اس برابری پر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے نفع ہو نہ ہی نقصان۔

﴿9503﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: میں کسی کی دنیا سے محبت کو اس کے دنیا داروں کو سلام کرنے سے جان لیتا ہوں۔

﴿9504﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: لوگ کا گمان تھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نماز عصر میں تاخیر کرتے ہیں جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہمارے ہاں ان مساجد کی تلاش میں رجتے تھے جہاں نماز جلد ہوتی اور نبیذ پلائی جاتی ہو اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ میں نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی بیماری کے لئے دوا تجویز کی اور پوچھا: کیا ہم آپ کے لئے نبیذ لائیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: نہیں، بلکہ میرے لئے شہد اور پانی لاؤ۔

﴿9505﴾... حضرت سیدنا ابواسامہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: حضرت مجتہم ثنیی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے مجھے پینا ہوا تہبند پہنے دیکھا تو پاس بلایا اور چار درہم دیتے ہوئے کہا: یہ لو اور اس سے نیا تہبند خرید لو۔

﴿9506﴾... حضرت سیدنا ابوسہم حکم کلّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے پاس کھڑے ہو کر انہیں پکارا: اے ابو عبد اللہ! تو آپ نے اپنا سر میری طرف اٹھایا اور (ماتے موجود اور ارق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: یہ ہستی والوں کے مسائل ہیں۔

﴿9507﴾... عبد الغفار بن حسن کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے ”کتاب الجلباب“ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو آپ (اس کے مصنف) مقاتل بن سفیان کی طرف جانے کا اشارہ کر دیتے تھے۔

﴿9508﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی جب کسی کو طلل کی ٹوپی پہنے دیکھتے تو اس سے بات نہیں کرتے تھے۔

## رونے کی انوکھی وجہ:

﴿9509﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید خُشْنُکس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ہمارے ساتھ حضرت سعید بن سائب طائفی (عَلِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) بھی تھے، دوران گفتگو وہ رونے لگے اور اتاروئے کہ مجھے اُن پر ترس آنے لگا۔ میں نے پوچھا: سعید! کیوں روتے ہو حالانکہ تم نے مجھے جنتیوں کا ذکر کرتے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے: سفیان! اگر آپ بھلائیوں کا ذکر کریں اور مجھے اُن سے روگرداں دیکھیں تو کیا مجھے اِس پر رونا نہیں چاہیے؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: ایسے شخص کو تو رونا ہی چاہئے۔

## مخلص طالب علم کی قدر و منزلت:

﴿9510﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے کہا: اگر آپ اپنے علم کو پھیلائیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ذریعے اپنے بعض بندوں کو نفع پہنچائے گا اور آپ اس عمل پر اجر پائیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر مجھے ایسے طالب علم کا پتا چلے جو اِس علم کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اجر و ثواب چاہتا ہو تو میں اپنا وہ علم اُس کے گھر جا کر اُسے دے آؤں گا جس سے مجھے امید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ذریعے اسے نفع پہنچائے گا۔

## دلِ محبتِ دنیا سے بھر جائیں گے:

﴿9511﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے دل دنیا کی محبت سے بھر جائیں گے پھر اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف داخل نہیں ہو گا۔“ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اسے یوں سمجھ لو کہ تم کسی تھیلے میں کچھ ڈالو یہاں تک کہ

وہ بھر جائے پھر تم اس میں کچھ اور ڈالنا چاہو تو تمہیں اس میں کوئی خالی جگہ نہ ملے۔

﴿9512﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید حنفی علیہ رحمۃ اللہ الوہابی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی جب مسجد حرام میں لوگوں کو حدیث بیان کر کے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے: اب تم طیب یعنی حضرت سیدناؤ حبیب بن وزد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاؤ۔

## تمہیں دفن کرنے کی وصیت:

﴿9513﴾... حضرت سیدنا احنف بن علیہ رحمۃ اللہ الوہابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے وصیت فرمائی کہ ان کی کتابوں کو دفن کر دیا جائے کیونکہ وہ ان روایات پر تادم تھے جو انہوں نے ضعیف راویوں سے لی تھیں اور ارشاد فرمایا: مجھے اس کام پر حدیث کی شدید خواہش نے ابھارا تھا۔

﴿9514﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: رحمت الہی کی امید رکھنے والا فاسق اس عبادت گزار سے اللہ عزوجل کے زیادہ قریب ہے جو انعامات باری تعالیٰ کے حصول کا ذریعہ صرف اپنے عمل کو سمجھتا ہے۔

## حکام سے بے خوفی اور بے اعتنائی:

﴿9515﴾... حضرت سیدنا محمد بن نعمان علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے، حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس امیر مکہ عبد الصمد بن علی آیا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا، حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے امیر مکہ سے کہا: ابوصبد اللہ گزشتہ رات جاگتے رہے ہیں شاید وہ سونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: میں سو نہیں رہا، میں سو نہیں رہا۔ یہ سن کر امیر مکہ اٹھ کر چلا گیا، حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کہا: تم عنقریب قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ رہنا کسی کے لئے بھی روا نہیں۔

﴿9516﴾... حضرت سیدنا مقفّل بن مہملہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ہمراہ حج کے لئے نکلا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس آئے اور حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میں ایک گھر میں اکٹھے

ہو گئے، حج کے موقع پر امیر مکہ عبد الصمد بن علی ہاشمی بھی موجود تھا، کسی نے دواڑہ کھٹکھٹایا تو ہم نے پوچھا: کون ہے؟ اس نے کہا: امیر۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اُٹھ کر کمرے میں چلے گئے جبکہ امام اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے کھڑے ہو کر اس سے ملاقات کی۔ عبد الصمد بن علی نے کہا: اے شیخ! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ابو عمرو اوزاعی۔ عبد الصمد بن علی نے کہا: اللہ عَزَّ وَجَلَّ آپ کو سلامت رکھے! آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے تھے اور ہم آپ کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے، حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا کیا حال ہے؟ اس پر میں نے کہا: وہ کمرے میں چلے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ان کے پاس جا کر کہا: یہ شخص فقط آپ کے لئے آیا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے غصہ کے ساتھ باہر آکر فرمایا: سَلِّحْہُمْ عَلَیْکُمْ! تم کیسے ہو؟ عبد الصمد نے ان سے کہا: میں آپ سے مروی مناسک حج لکھنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اس سے کہا: میں اس سے بڑھ کر نفع بخش بات پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ اس نے کہا: وہ کیا؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”اپنا عہدہ چھوڑ دو“ اس نے کہا: میں خلیفہ ابو جعفر کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس سے فرمایا: اگر تم اپنی مراد اور مقصود اللہ عَزَّ وَجَلَّ کو بتا لو تو وہ ابو جعفر سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت سیدنا امام اوزاعی نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: ابو عبد اللہ! یہ لوگ تم سے اپنی عزت و عظمت منوائے بغیر راضی نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو عمرو! ہم انہیں مار تو نہیں سکتے مگر کم از کم ایسی اذیت تو دے سکتے ہیں جو آپ نے دیکھی۔ حضرت سیدنا مفضل کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ مجھے اس امیر شہر سے خوف ہے کہ وہ کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری گردنوں میں پھندے ڈال دے جبکہ ہمارے ان حضرت (سفیان ثوری) کو کوئی پرواہی نہیں۔

**عہدہ چھوڑنا مشکل ترین کام:**

﴿9517﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں نے کسی بھی شے کو چھوڑنا عہدہ و سربراہی چھوڑنے سے زیادہ آسان دیکھا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کوئی شخص کھانا، پانی، مال اور کپڑے تو چھوڑ سکتا ہے مگر جب اس سے عہدہ و سربراہی کے معاملے میں جھگڑا کیا جائے تو وہ اس کا دفاع کرے گا اور دشمنی پر اتر آئے گا۔

## ظالم کا چہرہ بھی نہ دیکھو:

﴿9518﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: ظالم کا چہرہ دیکھنا بھی خطا ہے اور گمراہ گر پیشواؤں کو دیکھنا پڑے تو انہیں دل میں برا جانو ورنہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔

﴿9519﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: امیروں کے گھروں کو نہ دیکھو اور جب وہ سواریوں پر کہیں سے گزریں تو انہیں بھی مت دیکھو۔

﴿9520﴾... حضرت سیدنا عاصم بن یزید جبر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: لوگوں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو خلیفہ کا حکم سنایا اور یہ کہ آپ حکام کو مطلوب ہیں تو ارشاد فرمایا: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حکام کے رسوا کرنے سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو ان کو عزت دینے سے خوف زدہ ہوں۔

## مال داروں کے لئے جھکنا پسند نہیں:

﴿9521﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیم طائفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں: امیر کہ محمد بن ابراہیم ہاشمی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے پاس دو سو دینار بھیجے تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، میں نے کہا: ابو عبد اللہ! گویا آپ ان پیسوں کو حلال نہیں سمجھتے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کیوں نہیں، میرے باپ واداد اتحائف لیتے رہے ہیں مگر مجھے مالداروں کے لئے جھکنا پسند نہیں۔

﴿9522﴾... سیدنا ابو شہاب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں: میں ایک رات حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے ساتھ تھا، آپ نے دور سے آگ دیکھی تو پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: کسی سپاہی کی آگ ہے۔ آپ نے فرمایا: ہمیں کسی اور راستے سے لے چلو، ہم ایسوں کی آگ (یا فرمایا: بروشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔

## عہدہ قضا قبول نہ کیا:

﴿9523﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا محمد بن جتناو عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو بتایا کہ جب مہدی خلیفہ بنا تو اس نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو بلوایا جب آپ آئے تو خلیفہ نے اپنی انگوٹھی اٹھا کر آپ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا: ابو عبد اللہ! یہ میری انگوٹھی ہے تو آپ اس امت میں

قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیجئے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لے کر فرمایا: امیر المؤمنین! کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت عُبَید نے حضرت عطا بن مسلم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما سے پوچھا: کیا حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ”یا امیر المؤمنین“ کہا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ پھر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے کہا: جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جب تک میں خود تمہارے پاس نہ آؤں کسی کو مجھے بلوانے مت بھیجا کرو اور جب تک میں خود تم سے نہ مانگوں مجھے کچھ مت دیا کرو۔ یہ سن کر خلیفہ غصے میں آگیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اس کے کاتب نے کہا: امیر المؤمنین! کیا آپ نے انہیں امان نہیں دی تھی؟ اس نے کہا: کیوں نہیں۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے ساتھی آپ کو گھیر کر پوچھنے لگے: ابو عبد اللہ! جب خلیفہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ”اس امت کے معاملے میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔“ تو کس چیز نے آپ کو اس سے روکا؟ راوی کہتے ہیں: آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انہیں کم عقل جانا اور وہاں سے نکل کر بصرہ چلے گئے۔

﴿9524﴾... حضرت سیدنا داؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے والد کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ تھا، ہم ایک سپاہی کے پاس سے گزرے جو سورہا تھا جبکہ نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا، میں اسے جگانے کے لئے آگے بڑھا تو آپ نے مجھے پکار کر کہا: رُک جاؤ۔ میں نے کہا: ابو عبد اللہ! وہ نماز پڑھ لے گا۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر رحم نہ کرے، جب تک یہ سونہ جائے لوگ سکون نہیں پاتے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9525﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر ان حکمرانوں میں سے کوئی تم سے رہنمائی طلب کرے تو اس کی رہنمائی مت کرو۔

﴿9526﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اِنْہِا دِی سے مروی ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری

①... حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سپاہی کو جگانے سے شاید اس لئے منع کیا کہ خلیفہ کے سپاہی عوام و خواص پر بہت ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور رعایا کو ان کے سونے کے وقت ہی آرام ملتا تھا ورنہ حکم میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے بغیر سورہا ہو تو اسے جگانا چاہیے۔ چنانچہ بہار شریعت، حصہ 4، جلد 1، صفحہ 701 پر مذکور ہے: کوئی سورہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور نھولے ہوئے کو یاد دلادے۔ (رد المحتار، ۲۰/۳) (ورنہ جہاد ہو گا) یاد رہے! جگانا یاد دلانا اس وقت واجب ہو گا جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا ورنہ واجب نہیں۔ (نماز کے احکام، ص ۳۲۲)

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نے فرمایا: جب مجھے پکڑ کر خلیفہ مہدی کے دربار میں لے جایا گیا تو میں نے دل میں کہا: اسے نفس! میں پھنس چکا ہوں اب تو مجھے سنبھال کر رکھنا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری ایک جانب (خلیفہ مہدی کا وزیر) ابُو عُبَیْدُ اللہ بیضا تھا، اس نے مجھ سے کہا: کیا تم سفیان ثوری نہیں ہو؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ اس نے کہا: کبھی کبھار تمہارے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا: میں نے تمہیں کبھی کوئی خط نہیں لکھا۔ اس پر وہ خود سے کہنے لگا: پھر انہیں کیا چیز یہاں لائی؟

﴿9527﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نے فرمایا: اگر کوئی شخص حکمرانوں سے سواری اور زین یا لگام عاریٹا (یعنی عارضی طور پر استعمال کے لئے) مانگتا ہے تو اس کا دل ان کے لئے بدل جاتا ہے۔

### سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ کی بددعا:

﴿9528﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الزَّاق بیان کرتے ہیں: خلیفہ ابو جعفر جب مکہ مکرمہ جانے کے لئے نکلا تو لکڑی کا کام کرنے والوں کو حکم دے کر بھیجا کہ اگر تم سفیان ثوری کو دیکھو تو انہیں سولی دے دینا لہذا ان بڑھیوں نے وہاں آکر ایک شبتیر نصب کر دیا اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے لئے منادی کرادی گئی۔ اس وقت آپ اپنا سر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَطَاب کی گود میں جبکہ پاؤں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی گود میں رکھے آرام فرماتھے، لوگوں نے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ابو عبد اللہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریئے اور ہم پر دشمنوں کو ہٹنے کا موقع نہ دیجئے۔ یہ سن کر آپ کہنے کے پردوں کی طرف بڑھ گئے اور ان میں داخل ہو گئے پھر وہ پردے پکڑ کر فرمانے لگے: ”اگر ابو جعفر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو میں اس سے بری ہوں۔“ راوی کہتے ہیں کہ ابو جعفر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ جب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے کچھ نہ کہا۔

﴿9529﴾... حضرت سیدنا وہب بن کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَهْبی فرمایا کرتے تھے: یہ عراقی (یعنی حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي) کیا کرتا ہے کہ اُمر اسے بے رُخی برتا اور فقر کو قریب کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے!

### خلیفہ کے منہ پر مذمت:

﴿9530﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الزَّاق بیان کرتے ہیں: خلیفہ ابو جعفر نے حضرت سیدنا



سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا گریبان پکڑا اور اپنا چہرہ کبے کی سمت گھا کر کہنے لگا: رب تعالیٰ گواہ ہے! تمہیں اس گھر کے رب کی قسم! بناؤ تم مجھے کیسا انسان سمجھتے ہو؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”اس گھر کے رب کی قسم! میں تجھے برا انسان سمجھتا ہوں۔“ یہ کہہ کر آپ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔

﴿9531﴾... حضرت سیّدنا یحٰییٰ بن یمران عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے منقول ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک بار فرمایا: ابو جعفر مجھ سے کیا چاہے گا؟ خدا کی قسم! اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو اس سے ضرور کہوں گا: اس جگہ سے اٹھ جا کیونکہ کوئی اور تجھ سے زیادہ اس جگہ کا مستحق ہے۔

﴿9532﴾... حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: آپ حکمرانوں کے پاس جایا کریں۔ آپ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ سے یہ سوال فرمائے کہ میں نے وہاں کیا کیا؟ عرض کی گئی: آپ کہیں اور احتیاط کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم کہتے ہو کہ سندرم میں تیرا کی کروں اور میرے کپڑے گیلے نہ ہوں؟

حضرت سیّدنا حنیّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے یہ فرمایا تھا: ”میں حکمرانوں کی مار سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اپنی دنیا مجھ پر انڈیل نہ دیں اور پھر میں ان کی بُرائی کو بُرائی نہ سمجھوں۔“

﴿9533﴾... حضرت سیّدنا زید بن ابو حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ہم مسجد الحرام میں تھے پس لوگوں نے خلیفہ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے تہجد اور نئی چادر میں ملبوس تھے تو آپ ایک مسکین کے پاس آئے جو دو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، آپ نے اس سے فرمایا: کیا تم میرے نئے کپڑے لے کر مجھے یہ پُرانے کپڑے دے سکتے ہو؟ اس نے موقع غنیمت جانا اور کہا: ہاں۔ پس آپ نے نئے کپڑے اُسے دیئے اور پرانے لے کر پہن لے لئے پھر مسجد کی طرف آگئے، حفاظت پر مامور حارسیں (پہرے داروں) نے آپ کو پکڑ لیا اور مسجد سے باہر نکال کر بولے: اے گندے انسان! تمہارا یہاں کیا کام؟

خلیفہ کو اعتدال کا درس:

﴿9534﴾... حضرت سیّدنا محمد بن یوسف فریابی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں: میں نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَضَیَ اللہُ التَّوَّابُ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے مئی میں ابو جعفر کے پاس لایا گیا تو میں نے اس سے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو، تم آج جو اس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہو اور یہاں تک پہنچے ہو یہ مباجرین و انصار صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تلواروں کی بدولت ہے اور آج انہی کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بھی حج کیا مگر اس میں صرف 15 دینار خرچ کیے تھے اور وہ (عالیشان خیموں کے بجائے) کسی درخت کے نیچے قیام کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر خلیفہ نے مجھ سے کہا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہو جاؤں؟ میں نے کہا: میری طرح نہ ہو بلکہ میری اور اپنی موجودہ حالت کے درمیان والے بن جاؤ۔ اس نے مجھ سے کہا: یہاں سے چلے جاؤ۔

### خلیفہ مہدی کے تاثرات:

﴿9535﴾... حضرت سیدنا عصام بن یزید جَرَّحَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَیْبَان ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابُ نے مجھے خلیفہ مہدی، اس کے وزیر ابو عبد اللہ اور یعقوب بن داؤد کے پاس مکتوب دے کر روانہ کیا، مجھے خلیفہ کے پاس لے جایا گیا تو میں نے اپنی گفتگو کی پھر خلیفہ نے کہا: اگر ابو عبد اللہ! ہمارے پاس آجائے تو ہم اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے، ایک چادر اوڑھتے اور دوسری سے تہ بند باندھ لیتے پھر بازار جا کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور بُرائی سے منع کرتے لیکن جب ابو عبد اللہ (حضرت سفیان ثوری) جیسے لوگ ہمارے پاس نہ رہے تو ہمارے پاس تمہارے وہ علما آئے جو تمہارے ہی علما تھے، انہوں نے مجھے نیکی کا حکم دیا، بُرائی سے منع کیا اور نصیحتیں کیں اور وہ روئے بھی مگر اللہ! ان کا رونامیری خاطر تھا تو میں بھی ان کے لئے جھوٹ موٹ روید پھر یہ کہ ان میں سے جو بھی آیا اس نے اپنی آستین سے ایک رُقعہ نکال کر مجھے دیا جس میں ایسا مضمون تھا کہ ”میرے لئے یہ کر دو، میرے لئے وہ کر دو“ تو میں نے ان کی حاجتیں پوری کر دیں مگر میں اُن کے ایسا کرنے پر اُن سے سخت ناراض و نالاں بھی ہوا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابُ نے خلیفہ مہدی کو فقط امان طلب کرنے کے لئے خط لکھا تھا کیونکہ اُن کی روپوشی کافی طویل ہو گئی تھی۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو امان دے دی تو میں یہ پروانہ لے کر ان کے پاس بصرہ پہنچ گیا۔ امان نامے میں خلیفہ نے یہ بھی کہا تھا: آپ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں کیونکہ آپ کو روپوش ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے، ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں پھر مجھ سے کوفہ آکر ملیں، میں آپ

کا منتظر ہوں گا۔ مگر اس کے بعد آپ بصرہ ہی میں بیمار ہو کر وصال فرما گئے۔ اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے۔ (امین)

## خلیفہ سے بھاگنے کی وجہ:

﴿9536﴾... حضرت سیدنا عصام بن یزید علیہ رحمۃ اللہ التچید بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الثقویٰ نے جب مجھے خلیفہ مہدی کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے ان سے عرض کی: میں پہلاڑوں کا رہنے والا ایک نوجوان ہوں کہیں میں آپ کا کوئی راز فاش کر کے آپ کی رسوائی کا سبب نہ بن جاؤں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تم میرے پاس آنے والوں کو دیکھتے ہو، اگر میں ان میں سے کسی کو یہ کام کہوں گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ”میں حکمرانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں“ جبکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے تم جو جانتے ہو وہ کہہ دینا اور جو نہیں جانتے وہ نہ کہنا۔ جب میں خلیفہ سے مل کر واپس حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الثقویٰ کے پاس آیا تو ان سے عرض کی: آپ کس وجہ سے اس شخص سے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ تو کہتا ہے: اگر حضرت سفیان میرے پاس آجاتے تو میں ان کے ساتھ بازار جا کر لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا اور انہیں برائی سے ڈوکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے سست و ڈھیلا کہا اور فرمایا: اس لئے بھاگتا ہوں تاکہ وہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرے پس اگر وہ اپنے علم پر عمل کرے گا تو پھر ہمیں اس کے پاس جا کر اسے وہ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو گا جو وہ نہیں جانتا۔

## خط لکھنے میں اسلاف کی پیروی:

﴿9537﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید علیہ رحمۃ اللہ التچید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الثقویٰ نے مجھ سے خلیفہ مہدی کو خط لکھواتے ہوئے فرمایا: لکھو ”یہ خط سفیان بن سعید کی جانب سے محمد بن عبد اللہ کے لئے ہے“ میں نے عرض کی: اگر میں نے یہ لکھا تو وہ اسے نہیں پڑھے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تو پھر جیسے چاہو لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا۔ پھر فرمایا: لکھو ”قَاتِلِ أَشَدَّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ لِلْحَبْدِ أَهْلٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یعنی میں تیرے ساتھ اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی برکت والا اور بلند ہے، وہی تمام تعریفوں کا مستحق اور ہر شے پر قادر ہے۔“ میں نے عرض کی: اس طرح خط کی ابتدا کون کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا: مجھے حضرت منصور علیہ رحمۃ اللہ الخفود نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابوعبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھا کرتے تھے۔

﴿9538﴾... سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: نامردوں کے حاکم بننے میں اس اُفت کی ہلاکت ہے۔

## لومڑی کی 72 چالیں:

﴿9539﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: لومڑی کہتی ہے کہ ”میں نے کتے سے بچنے کے لئے 72 چالیں سیکھی ہیں مگر اس سے بہتر چال کوئی نہیں دیکھی کہ میں کتے کو نہ دیکھوں اور وہ مجھے نہ دیکھے۔“

﴿9540﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میرے خیال میں حاکم وقت کے لئے لومڑی کی کہات ہی کافی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے: ”مجھے کتے کے لئے 70 سے زائد چالیں معلوم ہیں لیکن اس سے بہتر چال کوئی نہیں دیکھی کہ میں اسے دیکھوں نہ وہ مجھے۔“ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: حاکم وقت کے لئے بھی اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ تجھے دیکھے نہ تو اسے۔

## خلیفہ کو نصیحت:

﴿9541﴾... حضرت سیدنا محمد بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: مجھے مئی میں خلیفہ مہدی کے پاس لے جایا گیا تو جب میں نے اس کو حکومت وادارت کی وجہ سے سلام کیا تو اس نے کہا: اے شخص! ہم نے تمہیں تلاش کیا مگر تم نے ہمیں عاجز کر دیا، شکر اس خدا تعالیٰ کا جو تمہیں لے آیا تو اب ہمیں اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے کہا: تم نے زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور اس معاملے میں تم سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ خلیفہ نے اپنا سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر کہا: اگر میں ظلم کو ختم نہ کر سکوں تو کیا رائے ہے؟ میں نے کہا: منصب خلافت کسی اور کے لئے خالی کر دو۔ اس نے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا پھر بولا: اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے کہا: مہاجرین و انصار کی اولاد اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے محتاجی کے دروازے پر کھڑے ہیں، تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ خلیفہ نے ایک بار پھر اپنا سر جھکا لیا تو اُس کے وزیر ابو عبیدہ بنی اللہ نے کہا: اے آدمی! تم ہم سے اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے کہا: میں اور کیا بیان کر رہا ہوں؟ اور سنو! مجھ سے حضرت اسماعیل بن ابوالخالد نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حج کیا تو اپنے خزانچی سے پوچھا: میرے حج پر کتنا مال خرچ ہوا؟ اس نے عرض کی: 10 دینار سے کچھ زیادہ۔ جبکہ میں یہاں (خلیفہ مہدی کی) ایسی شاہ خرچیاں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ بھی ان کی سکت نہیں رکھتے۔

## بہتر راہ کی اُمید:

﴿9542﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے خلیفہ مہدی کو عصام بن یزید جبر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہاتھ اس مضمون کا خط بھیجا: ”تو نے مجھے دُور کیا، مجھے شہر بدر کیا اور مجھے خوفزدہ کیا۔ میرے اور تیرے درمیان اللہ عَزَّوَجَلَّ فیصلہ فرمائے گا اور پُر امید ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خط کا جواب آنے سے پہلے میرے لئے بہتر راہ نکال دے گا۔“ راوی کہتے ہیں: جب خط کا جواب آیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وصال فرما چکے تھے۔

﴿9543﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اللہ! میری حکمرانوں کے پاس نہ جانے کی وجہ یہ نہیں کہ میں انہیں ناقابل اطاعت سمجھتا ہوں بلکہ اس لئے کہ مجھے پاکیزہ کھانا پسند ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے (ناجائز کھا کر) خراب کر دیں گے۔

﴿9544﴾... حضرت سیدنا ابو بکر حنفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: ان لوگوں پر تعجب ہے جو حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا مسعر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مابین پس و پیش کا شکار ہیں (کہ کون دنیا سے زیادہ بے رغبت ہے؟)، کو تو ال نے حضرت سیدنا مسعر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو پیغام بھیجا کہ اس مال میں آپ کا بھی کچھ حصہ ہے تو انہوں نے تین فرسخ کا سفر کر کے اسے حاصل کیا جبکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی پر دنیا پیش کی جاتی ہے تو آپ اس سے بھاگتے ہیں۔

## عہدیداروں سے بیزاری کا عالم:

﴿9545﴾... حضرت سیدنا و سب بن اسماعیل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا امام اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیمار ہوئے تو محمد بن ابراہیم آپ کی عیادت کو آئے، جب آپ کو بتایا گیا کہ امیر مکہ محمد بن ابراہیم آئے ہیں تو آپ اٹھ کر بیت الخلا چلے گئے اور وہاں اتنی دیر لگا دی کہ مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ پھر بیت الخلا سے نکل کر آئے تو کہا: سَلَامٌ عَلَیْکُمْ، کَیْفَ أَنْتُمْ؟ یعنی تم لوگوں پر سلامتی ہو، تمہارے مزاج کیسے ہیں؟ محمد بن ابراہیم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اتنا کہہ کر لیت گئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا اور ان

سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وہ اٹھ کر چلے گئے، اگلے دن انہوں نے آپ کو سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا: ”آپ کیسے انسان ہیں؟ اگر مجھے پتا ہو تا کہ مکہ میں آپ کو نہیں سب سے زیادہ ناپسند ہوں تو کیا میں آپ کے پاس آتا؟“

﴿9546﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ بَیَان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی کے سامنے خلیفہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا: اگر یہ لوگ سونا کھائیں تو ہم کنکریاں کھالیں گے۔

## ظالم کی مذمت:

﴿9547﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی نے فرمایا: ظالم کی طرف دیکھنا بھی خطا ہے۔

﴿9548﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی نے فرمایا: جس نے ظالم کے لئے لمبی غم کی دعا کی اس نے پسند کیا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی جائے۔“

﴿9549﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی نے فرمایا: میں کسی کی دنیا سے محبت کو اس کے دنیا داروں کو سلام کرنے سے جان لیتا ہوں۔

﴿9550﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی نے فرمایا: دنیا داروں کی تعظیم کرنے والے ظالم میں کوئی بھلائی نہیں۔

## کس کی صحبت میں بیٹھیں؟

﴿9551﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: گناہ گاروں کو ناپسند کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کرو اور ان سے دوری اختیار کر کے اس کی رضا طلب کرو۔ لوگوں نے عرض کی: پھر ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں؟ ارشاد فرمایا: جسے دیکھ کر تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ یاد آجائے، جس کا عمل تمہیں آخرت کی رغبت دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافے کا باعث ہو۔

﴿9552﴾... معن بن زائدہ کے غلام عبد اللہ بن فَرَج کا بیان ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الثَّقَوِی کو طلب کیا گیا تو وہ یمن آگئے، میں نے معن بن زائدہ کو آپ کی آمد سے آگاہ کیا تو اس نے آپ کو امان دی اور ایک ہزار دینار دینے کا حکم دیا مگر آپ نے دینار قبول نہ فرمائے، آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حج کے موسم میں

اینا جب میرے پاس رکھوا دیا جسے آپ نماز کے لئے پہنچتے تھے پھر آپ سے میری ملاقات صرف میدانِ عرفات میں ہوئی، وہاں مجھ سے فرمایا: عبد اللہ! جب کہاں ہے؟ میں نے عرض کی: وہ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا: مجھے دے دو۔ میں نے وہ جب لاکر انہیں دے دیا۔ پھر آپ حج ادا کر کے بصرہ چلے گئے اور حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما کے ایک سبزی فروش پڑوسی کے پاس ٹھہرے۔ مجھے اس سبزی والے نے بتایا: جس رات آپ کا وصال ہوا اس رات آپ بار بار اٹھ کر نماز کے لئے وضو کرتے تھے اور یہ عمل آپ نے 50 مرتبہ کیا پھر رات کے آخری پہر میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہو گیا۔

### عہدہ قضا سے بیزاری:

﴿9553﴾... حضرت سیدنا زید بن ابو خدّاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا شریک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ان کے قاضی کوفہ بن جانے کے بعد ملاقات کی اور کہا: ابو عبد اللہ! اسلام، فقہ اور خیر و بھلائی پانے کے بعد عہد قضا کو چاہتیجے اور قاضی بن بیٹھے، آخر کیوں؟ انہوں نے کہا: ابو عبد اللہ! لوگوں کو ایک قاضی چاہیے تھا۔ اس پر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے کہا: لوگوں کو (قاضی کی صورت میں) ایک سپاہی چاہیے تھا۔

### لوگوں سے تعلقات کے بارے میں نصیحت:

﴿9554﴾... حضرت سیدنا ابو حمّاد مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا علی بن حسن سلیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: عمل اور دل کو بگاڑنے والی چیزوں سے بچو، دل میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیز تمہارا دنیا داروں، حریصوں اور ان شیاطین کے بھائیوں کے پاس بیٹھنا ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے علاوہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دین کو خراب کرنے والی باتوں سے بچو، تمہارے دین کو خراب کرنے والی بات بہت زیادہ بولنے اور منافقات گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اسبابِ زندگی تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے بچو، حرص و خواہشات کے پیروکار تمہارے اسبابِ زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔

ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، صرف بندہ مومن کی صحبت اختیار کرو، تمہارا کھانا صرف پرہیزگار شخص

کھائے، فاسق کی صحبت اختیار کرو نہ اس کے ساتھ بیٹھو اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ کھاؤ نہ ہی اس کے ساتھ کھانے والوں کے ساتھ کھاؤ اور نہ ہی اسے پسند کرنے والے کو پسند کرو، اس سے اپنا از بیان کرو نہ اس کے لئے مسکراؤ اور نہ ہی اسے اپنی مجلس میں جگہ دو۔ پس اگر تم نے ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو تم نے اسلام کی رسی کاٹ دی۔

بادشاہ، اس کے درباریوں اور ان کی خواہشات پر چلنے والوں کے در پر جانے سے بچو کیونکہ ان کا فتنہ و جال کے فتنے کی طرح ہے، اگر ان میں سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کو ٹشرش روی سے دیکھو اور ان کی طرف سے کسی تکلیف کی پرواہ نہ کرو، ورنہ وہ خود کو حق پر جانیں گے اور یوں تم ان کے مددگار قرار پاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ جس سے ملتے ہیں اسے میلاد گندہ کر دیتے ہیں۔ تم مالے کی مثل ہو جاؤ جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ عمدہ ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے ان کی دنیا کے معاملے میں جھگڑا نہ کرنا تم لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ گناہ سے بچو ورنہ اللہ عزوجل کی ناراضی کے مستحق ٹھہر گے۔

یاد رکھو! حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مُعَزَّز ترین انسان تھے، اُس نے اُن کے جسم کے لئے جمع شدہ مٹی کو اپنے دست قدرت سے گوندھا، اُس میں اپنی طرف کی خاص مُعَزَّز روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے عزت بخشی اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا مگر پھر ایک لغزش کے سبب جنت سے الگ فرما دیا۔ اے میرے بھائی! جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں کے ہوتے ہوئے جنت میں داخل نہیں کرے گا اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زمین میں اللہ عزوجل کے خلیفہ تھے، صرف ایک لغزش کی وجہ سے اُن پر کیا کچھ آزمائش آئی اور اگر ہم سے اس جیسی لغزش ہو جاتی تو کہتے: یہ کوئی خطا نہیں ہے۔ (غور کرو! جب ان انفس قدسیہ کی لغزش کا یہ معاملہ ہوا تو پھر گناہوں پر کسی قدر گرفت ہو سکتی ہے) تو اے میرے بھائی! اللہ عزوجل سے ڈرو، گناہوں اور گناہ کرنے والوں سے بچ کر رہو کیونکہ گناہ گار لوگ اللہ عزوجل کی جانب سے سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔

اپنی جان و مال کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لئے قربانی دو اور انہیں ظاہر و باطن میں دھوکا نہ دینا، جاہلوں اور ان کے ساتھ بیٹھنے اور فاسقوں اور ان کی صحبت میں رہنے سے مُتَنَفِّر رہو کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والا نجات نہیں پائے گا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ بچالے۔ جب تم لوگوں کے ساتھ ہو تو تم پر مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کی



کثرت لازم ہے اور جب تنہائی میں ہو تو تم پر حزن و ملال اور رونے کی کثرت لازم ہے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے اور اللہ عزوجل بہتر جانتا ہے کہ بروز قیامت بندہ مومن اپنے اعمال نامے میں سب سے بڑی نیکی حزن و ملال کو پائے گا۔ فراق والی انکساری اور ایسی عاجزی سے بچو جو چہرے پر ہو مگر دل میں نہ ہو۔

### مصارفِ حج میں زیادتی پر عقیقہ کو سرزنش:

﴿9555﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے مجھے صفاء مردہ کے درمیان ملے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سلام کیا اور اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیا دیکھا کہ والی مکہ عبد الصمد بن علی آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا: میرے علم میں حکمرانوں کو چمکا دینے والا تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ اس پر حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ایسے کام میں مشغول تھا جو مجھ پر تمہارے پاس آنے سے زیادہ لازم تھا۔ بے شک آپ ہمہ وقت نماز کی تیاری میں رہتے تھے، یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ عبد الصمد کہنے لگے: کچھ لوگوں نے میرے پاس آکر خبر دی ہے کہ انہوں نے ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: تو پھر تم کسی کو حکم دو کہ پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں میں اس کا اعلان کرو۔ اُس وقت آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا پھر آپ نے والی مکہ عبد الصمد کو دروازے پر بیٹھا چھوڑ دیا اور میرے پاس ایک توشہ دان لے آئے جس میں روٹی اور پنیر کے بچے کچے نکلے تھے، ہم نے مل کر کھانا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر خلیفہ مہدی کے پاس لے گیا جو مٹی میں موجود تھا، جب آپ نے خلیفہ کو دیکھا تو اونچی آواز کے ساتھ خلیفہ پر برس پڑے یہ خیمے کیسے ہیں؟ یہ پنڈالیں کس لئے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو پوچھا: ”ہم نے اپنے اس حج میں کتنا مال خرچ کیا؟“ عرض کی گئی: ”اتنے اتنے دینار۔“ آپ نے تھوڑی سی رقم (10) سے کچھ زائد دینار کا ذکر کیا۔

امام ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا زائد ہے یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم سے اسراف ہو گیا۔

### بھائی کی سفارش نہیں کی:

﴿9556﴾... حضرت سیدنا نصر بن ابوزررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: شہر موصِل میں حضرت سیدنا

مبارک بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ نے مجھ سے فرمایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میرے اخراجات ختم ہو گئے اور میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، ان سے کہنا کہ واپیٰ منو صل کو میرے بارے میں خط لکھیں شاید وہ مجھے کچھ دے کر حُسنِ سلوک کرے اور اُسے پہن کر میری حالت اچھی ہو جائے۔ چنانچہ میں کو فہ گیا اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ کو ان کے بھائی کا پیغام دیا جسے سن کر آپ گھر میں گئے اور ایک صراحی لے کر باہر آئے جس میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے آپ نے انہیں زمین پر پھیلا کر فرمایا: اگر مبارک اتنی مقدار پر راضی رہتے تو موصل میں نہ ہوتے، ہمارے پاس ان کے لئے کوئی خط نہیں۔

﴿9557﴾... حضرت سیدنا مبارک بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ نے انہیں خط میں لکھا: اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہو اور ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری حالت سے موت کی یاد آجائے۔ وَالسَّلَام

﴿9558﴾... حضرت سیدنا محمد بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ یاکسی اور سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ نے اپنے ایک بھائی کو ملامت کی جو حکمرانوں سے کوئی عہدہ لینا چاہتے تھے۔ ڈانٹ ڈپٹ پر انہوں نے کہا: ابو عبد اللہ! مجھ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تمہارا اپنے گلے میں کشکول ڈال کر دروازے دروازے بھیک مانگنا ان حکمرانوں سے کوئی عہدہ قبول کرنے سے بہتر ہے۔

### بُرے لوگوں کے طریقوں سے بچو:

﴿9559﴾... حضرت سیدنا وہب بن اسماعیل اَعْمَدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّحِیْدِ کے پاس تھے کہ سیاہ ٹوپی پہنے ایک شخص نے آکر کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اب اس نے کہا: اے ابو عبد اللہ! لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں جواب دیتے ہیں جبکہ میں سوال کرتا ہوں تو آپ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہارا اس سوال سے کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: سنت معلوم کرنے کا۔ ارشاد فرمایا: یہ جو تمہارے سر پر ٹوپی ہے یہ کون سی سنت؟ اس طریقے کو تو (عباسی سپہ سالار) ابو مسلم خراسانی نامی ایک بُرے شخص نے ایجاد کیا ہے، تم اس کے طریقے پر ہرگز مت چلو۔ راوی فرماتے ہیں: اس شخص نے

ٹوپی اتار کر رکھ لی، تھوڑی دیر ٹھہرا پھر اٹھ کر چلا گیا۔

﴿9560﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے جب میں اِن حکمرانوں کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں (کہ ایک طرف ان کے کمرے اور دوسری طرف نماز)۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک شخص کے سر پر سیاہ ٹوپی دیکھی، اُس نے آپ سے حج کے بارے میں بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تیرا اس ٹوپی کو اتار دینا ایک حج کے برابر ہے۔

### شاہی حکم نامے سے بیزاری:

﴿9561﴾... حضرت سیدنا محمد بن سابق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَالِقِ بیان کرتے ہیں کہ جب شریک بن عبد اللہ کو قاضی بنایا گیا تو میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس بیٹھا تھا آپ نے فرمایا: کتنے ہی مرد بگڑ گئے لیکن جب حضرت سیدنا منصور بن معمر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو امیر داؤد بن علی عباسی نے پکڑا تو انہیں اتنی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے پھر بعد میں اس نے آپ کے لئے شاہی حکم نامہ بھیجا جسے آپ نے گھر کے روشن دان میں ڈال دیا اور مرتے دم تک اُسے باہر نہیں نکالا۔

### ساری رات مذاکرہ:

﴿9562﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے بیان کیا کہ ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا ابوالیم بن اودنم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پوری رات کھڑے کھڑے مذاکرہ (باہمی گفتگو) کرتے رہے۔ کسی نے اُن سے پوچھا: ابو نصر! یہ حضرات کس بارے میں گفتگو کرتے رہے؟ فرمایا: مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں۔

﴿9563﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو کئی مرتبہ سر پر کپڑا پیسے لوٹڈی غلام کے جنازے میں تیزی سے جاتے دیکھا ہے۔

﴿9564﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر کسی عبادت گزار کے پڑوسی اس سے راضی ہوں تو جان لو کہ وہ چاہلوس ہے۔

## موت کی سختی:

﴿9565﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: مرنے والے کے اہل خانہ کو چاہئے کہ وہ مرنے والے کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں کیونکہ حضرت ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام جب اس کی کمر کو چھوتے ہیں تو اس کی بولنے اور پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ جان کنی کی تکلیف کا جام پیتا ہے، اگر اس وقت اُس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو قدرت پانے پر باپ کو بھی قتل کر دے۔

## اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کا خوف:

﴿9566﴾... حضرت سیدنا عطاء خُفَّاف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے ملا تو انہیں روتا ہوا پایا، میں نے عرض کی: آپ کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس خوف سے کہ کہیں میں لوح محفوظ میں شقی و بد بخت نہ لکھ دیا گیا ہوں۔

﴿9567﴾... حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابوحازم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ قاضی وقت کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے: آپ نے ان سے فرمایا: ”بزرگوار! کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں باطل میں پڑے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔“ اس کے بعد مرتے دم تک قاضی کے چہرے پر ہنسی نہ دیکھی گئی۔

﴿9568﴾... حضرت سیدنا زید بن ابوحکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو یوں دعا کرتے سنا: اے وہ ذات جس سے مانگا جائے تو خوش ہو اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہو اور تیرے سوا ایسا کوئی نہیں۔

﴿9569﴾... سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی کہ سمندر ایک مشکیزے سے نکلتا ہے۔

## قاری بننے سے پہلے جواں مردی اپناؤ:

﴿9570﴾... حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: جواں مرد<sup>(۱)</sup> ہونے سے پہلے قاری بننا اچھا نہیں۔

①... سیدنا ابوالقاسم عبدالکریم قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: ”اصل جواں مردی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کے کاموں میں کوشش کرتا رہے۔“ جواں مردی کی تفصیل جاننے کے لئے ”رسالہ فقیر“ (ترجمہ صفحہ 406 تا 413) کا مطالعہ فرمائیے۔

﴿9571﴾... حضرت سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: لوگوں میں وہ شخص بہترین ہے جو جو اس مردی کے بعد قراءت (طلب علم) کی طرف متوجہ ہو جبکہ وہ شخص بدترین ہے جو قراءت کے بعد جو اس مردی اختیار کرے۔

﴿9572﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: مجھے جو اس مردی کے لئے کوشاں ہو شیار شخص سے کچھ خریدنا قاری بننے والے شخص سے کچھ خریدنے سے زیادہ پسند ہے۔

﴿9573﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: قاریوں کی صحبت سے بچو اور جو اس مردوں کی صحبت اختیار کرو۔

﴿9574﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: وہ لوگ فاسق قاری ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس تک پہنچنے والوں کے درمیان رکاوٹ ہیں۔

**تمہیں دیکھ کر موت یاد آئے:**

﴿9575﴾... حضرت سیّدنا مبارک بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَمِید فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے انہیں خط بھیجا جس میں تحریر تھا: اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہو اور ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری حالت سے موت کی یاد آجائے۔ وَالسَّلَام

﴿9576﴾... سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔

**اچھی صحبت ایک گمشدہ خزانہ ہے:**

﴿9577﴾... حضرت سیّدنا مکرم بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی: ”مجھے ایسا شخص بتائیے جس کی صحبت اختیار کروں۔“ آپ نے فرمایا: یہ گمشدہ چیز ہے جو ملتی نہیں۔

﴿9578﴾... سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: شریر لوگوں سے خیر کی امید رکھنا تعجب کی بات ہے۔

﴿9579﴾... حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر مومن کے پاس پرندے کے گھونسلے جیسا آشیانہ، پانی، روٹی اور نمک ہو تو یہ بھی نعمتیں ہیں۔

**معرفت کیسے ملی؟**

﴿9580﴾... حضرت سیّدنا احمد بن یونس عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے

اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا: آپ نے رب عَزَّوَجَلَّ کی معرفت کس شے سے حاصل کی؟ ارشاد فرمایا: (مناہوں کے) عزم کو بے اثر کر کے اور (ان کے) پختہ ارادے کو توڑ کر۔

## آپ کے جنازے کی خاطر خلیفہ کا سفر کرنا:

﴿9581﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو منصب قضا دینا چاہا تو آپ نے اس سے بچنے کے لئے خلیفہ کے سامنے خود کو پاگل ظاہر کیا۔ بعد میں جب خلیفہ کو اس حقیقت کا پتا چلا تو اس نے آپ کو بلوایا بھیجا مگر آپ گورنر سے بچ کر نکل گئے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن اور حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما کے گھر میں 10 سال سے زائد عرصہ گزارا۔ آپ کے وصال کے وقت لوگوں نے عرض کی: ہم آپ کے جسد اقدس کو کہاں لے کر جائیں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے غسل اور کفن دے کر چار پائی پر رکھنا پھر اسے اپنے کاندھوں پر اٹھالینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور آپ کا جنازہ جامع مسجد کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ گورنر نے آکر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور خوب کافور ملا۔ پھر خلیفہ کو لکھا: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو جسد اقدس کو چار پائی پر پایا، انہیں غسل و کفن دیا جا چکا تھا تو میں نے انہیں خوب اچھی طرح کافور لگا دیا، اب آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ چنانچہ، آپ کے جنازہ میں شرکت کے لئے خلیفہ ایک ہزار کشتیوں کے ساتھ آیا۔ پھر کچھ دن بعد آپ کو دفن دیا گیا۔

## اپنا دینار چھوڑ دیا:

﴿9582﴾... حضرت سیدنا علی بن ہشام ثَمَرِیُّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی مکہ مکرمہ میں بستے تبدیل کرنے والے کے پاس ایک دینار کے عوض کچھ دراہم خریدنے کے لئے آئے، آپ کے پاس ایک دینار اور بھی تھا جو آپ کے ہاتھ سے گر گیا، آپ نے اپنا دینار اٹھانا چاہا تو دیکھا کہ اس کے برابر ایک اور دینار پڑا ہوا ہے۔ سکے والے نے کہا: اپنا دینار اٹھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا: پتا نہیں میرا کون سا ہے۔ اُس نے کہا: جس میں کچھ کھوٹ ہے وہ لے لیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: شاید میرا دینار اچھا والا ہو۔ راوی کہتے ہیں: آپ وہ سکہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

## ساری رات فکر آخرت:

﴿9583﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے ساتھ مسجد میں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا: یوسف! مجھے وضو کے لئے لوٹا کر دو۔ میں نے حاضر کر دیا تو آپ نے اُسے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بایاں ہاتھ اپنے گال پر رکھ لیا۔ پھر مجھے غیند آگئی اور میں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جاگا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کی طرف دیکھا، برتن آپ کے ہاتھ میں اُسی طرح موجود تھا، میں نے عرض کی: ابو عبد اللہ! فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب تم نے مجھے لوٹا دیا اس وقت سے اب تک میں آخرت کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔

﴿9584﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی نے فرمایا: آنکھوں کا دیکھنا دنیا سے اور دل کا دیکھنا آخرت سے ہے۔ بے شک بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اور اگر وہ دل سے دیکھتا ہے تو فائدہ حاصل کرتا ہے۔

﴿9585﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی نے فرمایا: میں کسی بھائی سے ملاقات کے بعد ایک مہینے تک اُس ملاقات کو بھول جاتا ہوں۔

پہلے نیت پھر اس کی پیروی:

﴿9586﴾... حضرت سیدنا ابن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ الباری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو صفوان علیہ رحمۃ اللہ المؤمن فرماتے ہیں: نیت کرنے سے بدن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: نیت کی انتہا تک پہنچنے سے بدن کمزور نہیں ہوتا لہذا پہلے نیت کرو پھر اس کی اتباع کرو۔

﴿9587﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی نے فرمایا: سب سے بُری خواہش یہ ہے کہ تم آخرت والے عمل سے دنیا طلب کرو۔

﴿9588﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب مُردہ چار پائی پر ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: لوگوں سے اپنی تعریف سنو۔

## شکریہ ادا کرنے کا موقع:

﴿9589﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں کوفہ میں بنو احمر کے لئے دودھ دوہا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی میرے پاس آکر بیٹھ گئے پہلے کچھ بات کی پھر فرمایا: یوسف! شکریہ اسی کا ادا کرو جو شکر کے مقام و موقع سے واقف ہے۔ میں نے عرض کی: ابو عبد اللہ! شکر کا مقام و موقع کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا: اگر میں تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کروں پھر اسے تم سے بھی زیادہ چھپاؤں اور تم سے بڑھ کر حیا کروں تو اس موقع پر شکریہ ادا کرو، ورنہ نہیں۔

﴿9590﴾... ابو ہزیمہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کو دیکھا کہ آپ نے اپنے کچھ بال کنوائے تو حجام کو ایک روٹی دی۔

﴿9591﴾... حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: میرے بیٹے نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے پوچھا: اب وہ کس کام میں لگ گیا ہے؟ اس نے عرض کی: حدیث میں۔ آپ نے فرمایا: اس کی جدائی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرو۔

﴿9592﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: اجر صبر کے برابر ملتا ہے۔

## اچھی اور بُری عاجزی:

﴿9593﴾... خالد بن یزید عمری نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کا یہ قول بیان کیا: ”غریبوں کی مجالس میں امیروں کا عاجزی کرنا کتنا اچھا ہے اور امیروں کی مجالس میں غریبوں کا عاجزی کرنا کتنا بُرا ہے۔“ پھر کہا: اے قاریوں کے گروہ! دنیا کو کھالو کیونکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کا انتقال ہو چکا ہے۔

﴿9594﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم سے دوران گفتگو فرمانے لگے: دن اپنا کام کر رہا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا: کیا اس گفتگو میں اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: اس میں لذت ہے۔



## کب مسئلہ نہ پوچھا جائے؟

﴿9595﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کچھ خرید رہے تھے کہ کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ابھی مجھے چھوڑ دو کیونکہ اس وقت میرا دل درہم کے ساتھ مشغول ہے۔

## شہد لگی روٹی:

﴿9596﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے فرمایا: دنیا کی مثال شہد لگی روٹی کی طرح ہے، اگر اس پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے تو وہ روٹی اُسے پروں سے محروم کر دیتی ہے اور اگر وہ خشک روٹی پر بیٹھے تو محفوظ رہتی ہے۔

﴿9597﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے فرمایا کہ سیدنا قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو جھگڑ رہے تھے تو فرمانے لگے: یہ کیوں لڑتے ہیں؟ ان کے نزدیک دنیا بڑی شے ہو گئی۔

﴿9598﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے فرمایا: وہ شخص عالم و سمجھ دار نہیں جو آفت و آزمائش کو نعمت اور آسودگی کو مصیبت نہ سمجھے۔

## بڑی نعمت:

﴿9599﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وہ نعمت جو مجھ سے دنیا کو دور کر دے اس نعمت سے بڑی ہے جو مجھے عطا کرے۔

## راہب کی راہب کو نصیحت:

﴿9600﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی بیان کرتے ہیں کہ ایک راہب دوسرے راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا: عبادت کے لئے تمہارا جو ش کیسا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: میں نہیں سمجھتا کہ جنت و جہنم کا ذکر سننے والے پر دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی گزرتی ہو جس میں وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ پھر اس نے پوچھا: تم موت کو کیسے یاد کرتے ہو؟ راہب نے جواب دیا: میں ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے سمجھتا ہوں کہ

میں مرنے والا ہوں۔ اور اُس نے یہ بھی کہا: میں نماز پڑھتے ہوئے اس قدر روتا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے گھاس اُگ جاتی ہے۔ پہلے راہب نے کہا: تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف ہو تو پھر تمہارا ہنسنا تمہارے رونے اور اپنے عمل پر اترانے سے بہتر ہے کیونکہ اترانے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ دوسرے نے کہا: مجھے نصیحت کیجئے۔ پہلا راہب کہنے لگا: دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور دنیا داروں سے مت جھگڑو اور دنیا میں شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ کہ اگر وہ کسی لکڑی پر بیٹھے تو اُسے توڑتی نہیں، کھائے تو سٹھرا کھائے اور نکالے تو پاکیزہ نکالے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ایسے مخلص ہو جاؤ جیسے کتا گھر والوں کے لئے ہوتا ہے کہ اسے ماریں یا بھگا گئیں مگر وہ ان کی حفاظت میں ہی لگا رہتا ہے۔

﴿9601﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد الملک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت ابو خالد احمر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو یہ واقعہ بتایا کہ میں (بصرہ کے مضافات میں واقع قصب) عتبان میں تھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے بلوایا، میں آپ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوا، اُس وقت آپ کو دست کا مرض تھا، مجھ سے فرمایا: کیا اس مرض کا تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے عرض کی: آپ تیمم کر لیجئے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا کپڑا میرے منہ پر پھینکا۔ جب میں باہر نکلا تو سوچا کہ ”حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھنے لگے؟“ یہ سوچ کر میں کوئی دوائی لانے کے لئے واپس پلٹا مگر اُس وقت تک آپ وصال فرما چکے تھے اور منہ پر کئی کے ستون لگے ہوئے تھے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو خالد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تین مرتبہ کہا: واہ! کتنا پیارا وہ منہ تھا۔ جہاں جتنا رہتا ہے اس کے لئے اتنا عمل کرو:

﴿9602﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: دنیا کے لئے اتنا عمل کرو جتنا اس میں رہتا ہے اور آخرت کے لئے اتنا کرو جتنا اس میں رہتا ہے۔

ثواب بڑھانے والا بے مثل کلام:

﴿9603﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ثواب میں اضافہ کرنے والے کلاموں میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ جیسا کوئی کلام نہیں اور شیطان کی کمر

توڑنے کے لئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں۔

﴿9604﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہم نے دین و دنیا میں ہم خیال دوست سے زیادہ نفع بخش کوئی شے نہیں پائی۔

**تدبیر پر راضی رہو:**

﴿9605﴾... حضرت سیدنا محمود رَشِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے خود کو پیش آنے والی مصیبت کی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا: یہ مصیبت بتانے کے لئے تمہیں مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہ ملا؟ اس نے عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: وہ ایسے کہ تجھے شکایت کے لئے میرے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ اس نے عرض کی: میری نیت یہ تھی کہ آپ میرے لئے دعا فرما دیں گے۔ آپ نے اس سے فرمایا: تم تدبیر کرنے والے ہو یا تمہارے لئے تدبیر کی جاتی ہے؟ اس نے کہا: وہ ہوں جس کے لئے تدبیر کی جاتی ہے۔ فرمایا: تو پھر تمہارے لئے جو تدبیر کی جاتی ہے اس پر راضی رہو۔

**اتنا طویل سجدہ!!!**

﴿9606﴾... حضرت سیدنا علی بن فَضَّل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو بیٹا اللہ کے سامنے سجدے میں دیکھا، سجدہ اتنا طویل تھا کہ میں نے اُن کے سر اٹھانے سے پہلے طواف کے سات پھیرے لگا لئے۔

﴿9607﴾... حضرت سیدنا ابنِ وَجَب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز مغرب کے بعد حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو مسجد الحرام میں دیکھا، آپ نے نماز پڑھی پھر اتنا طویل سجدہ کیا کہ عشاء کی اذان شروع ہو گئی مگر آپ نے سر نہ اٹھایا۔

﴿9608﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کے معاملے میں برابر برابر چھوٹ جاؤں (ثواب ملے پکڑوں)۔

**ذکر اور شکر ایک ساتھ:**

﴿9609﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد ذکر بھی ہے اور شکر

بھی، اس کے علاوہ کسی چیز میں ایک ساتھ ذکر اور شکر نہیں ہے۔

﴿9610﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: علم تو صرف احادیث کا جاننا ہے۔

## دنیا سے بچانے والی صحبت:

﴿9611﴾... حضرت سیدنا حفص بن غیاث رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ اور ان کی مجلس کے سبب دنیا سے دوری پر صبر ملتا تھا۔

﴿9612﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: اگر تم کسی قاری سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہو تو پھر اسے دنیا دار کے درجے پر رکھو۔

﴿9613﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ بیان کرتے ہیں: جب میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے ملتا تھا تو میں کسی شخص سے گھبراتا نہیں تھا۔

## تفسیر و مناسک حج کے عالم:

﴿9614﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: مجھ سے تفسیر اور حج کے افعال و ارکان کے بارے میں سوال کیا کرو کیونکہ میں ان دونوں کا عالم ہوں۔

﴿9615﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: میں بیمار ہو کر مرنا چاہتا تھا مگر آج چاہتا ہوں کہ کاش! اچانک مر جاتا۔

﴿9616﴾... (الف) حضرت سیدنا ابو نعیم اَحْمَدُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ جب موت کو یاد کرتے تو کئی دن تک آپ سے نفع حاصل نہیں ہو پاتا تھا، ایسے دنوں میں اگر آپ سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے: لَا اَذِیْنِیْ لَا اَذِیْنِیْ یعنی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔

﴿9616﴾... (ب) حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: لوگوں کے علانیہ گناہوں کا اعتبار کرو اور ان کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں مت پڑو۔

## بلبل کی ولی سے محبت:

﴿9617﴾... حضرت سیدنا ابو نعمان عارم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ

اللہ العفوٰ کی عیادت کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے اس گھر میں رات بسر کی تھی، یہاں میرے بیٹے کا ایک بلبل بھی تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اسے دیکھ کر فرمایا: اس پر نہ کو قید کیوں کر رکھا ہے، اسے آزاد کر دینا مناسب ہے۔ میں نے کہا: یہ میرے بیٹے کا ہے وہ اسے آپ کو مہر کر دے گا۔ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ میں اسے ایک دینار دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ پھر اس بلبل کا یہ معمول ہو گیا کہ دانا چنگ کر شام کو گھر آ جایا کرتا اور گھر کے ایک کونے میں رہتا۔ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کا انتقال ہوا تو وہ آپ کے جنازے کے ساتھ گیا اور آپ کی قبر مبارک پر ترپے لگا، پھر کچھ راتوں تک اس نے آپ کی قبر پر آنا جاتا رکھا، وہ کبھی قبر کے پاس رات گزارتا اور کبھی گھر لوٹ آتا۔ پھر ایک دن لوگوں نے اس بلبل کو آپ کی قبر شریف کے پاس مردہ پایا تو اسے بھی آپ کے ساتھ قبر میں یا آپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

حضرت سیدنا ابو منصور سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے بقول اس بات کے راوی حضرت عارم کا نام بشر بن منصور تَلْمِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے گھر سے نکل کر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے بصرہ میں انہی کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی اور یہیں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو (اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امین)۔

﴿9618﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے فرمایا: آدمی کو جس درہم کے خرچ پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے وہ درہم وہ ہے جو وہ حمام والے کو حمام خالی کرانے کے لئے دیتا ہے۔

تحفے کے بدلے تحفہ:

﴿9619﴾... حضرت سیدنا قتیبہ بن عقیبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو کوئی شے تحفہ دی تو آپ نے اُسے قبول کیا اور اپنے پاس رکھا ہوا چاولوں کا ایک بڑا پیالہ مجھے عطا فرمایا۔

﴿9620﴾... حضرت سیدنا ابو صفوان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبد المجید کے بیٹے معاویہ اور عبد الوہاب ہمارے پاس آئے، یہ دونوں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور انہیں تحائف دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو گندم فروشوں کے درمیان دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تمہارے ان چچا بڑا بھائیوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا

اور بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آئے تھے، میں اپنی پونجی والے سے دو دینار لے کر آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ ان سے گیبوں خرید کر ان دونوں کو بیدہ پیش کروں۔ چنانچہ، آپ نے ان کے لئے گیبوں خریدی اور انہیں تحفہ میں بھیج دی۔ ﴿9621﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جو کسی کے برتن سے کھاتا ہے وہ اس کے لئے ضرور جھکتا ہے۔

## چیل کی حفاظت پر انعام:

﴿9622﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی عصر کی اذان دینے کے لئے مینارے پر چڑھنے لگے تو اپنی چیل نیچے ہی چھوڑ گئے۔ جب اوپر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ان کے چچازاد بھائی نے (بغرض حفاظت) اُن کی چیل اٹھا رکھی ہے، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے 10 درہم بھجوا دیئے۔

## نماز کا ذوق و شوق:

﴿9623﴾... حضرت سیدنا ابو عیسیٰ حواری بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے یہاں تک کہ نیند سے آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ تھک کر لیٹ جاتے اور پھر لیٹے لیٹے نماز پڑھتے۔

﴿9624﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف قزلباشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نماز پڑھتے پھر نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے: اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟

﴿9625﴾... سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی غنودگی ختم کرنے کے لئے رات کو باہر نکل کر چکر لگاتے اور اپنی آنکھوں میں پانی کے چھپکے مارتے تھے۔

## شب بیداریاں:

﴿9626﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے زیادہ رقت والا کوئی شخص نہیں ملا۔ میں کئی کئی راتیں آپ کو چھپ کر دیکھتا، آپ صرف رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تھے پھر خوف سے خیر تھرانے لگتے اور ڈرتے ہوئے

پکارتے: ”ہائے جہنم! آگ کے خوف نے مجھے نیند اور خواہشات سے دور کر دیا۔“ ایسا لگتا گویا وہ گھر میں کسی شخص سے بات کر رہے ہوں۔ پھر اپنی ایک جانب رکھاپانی اٹھا کر وضو کرتے اور وضو کے بعد یوں مناجات کرتے:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ عَالِمُ بِحَاقِيقِي غَيْرُ مُعَلِّمٍ بِنَا أَلْطَبُ وَمَا أَلْطَبُ إِلَّا فَكَأَنَّكَ رَقِيتَنِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْجَزَعُ قَدْ أَزَقَنِي مِنَ الْخَوْفِ فَلَمْ يُوْثِقْنِي وَكُلُّ هَذَا مِنْ نِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَكَذَلِكَ قَعَلْتُ بِأَوْلِيَايَكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ إِلَهِي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَوْ كَانَ لِي غَدْرِي الشَّخْطِي مَا أَقْبَلْتُ مِنْ النَّاسِ طَرَفَةً عَيْنٍ لَعَنِي أَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! تو میری حاجت کو جانتا ہے، تجھے اپنی طلب بتانی نہیں پڑتی اور میں تجھ سے فقط جہنم سے آزادی کا طالب ہوں۔ اے میرے پروردگار! خوف سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ نے دہلا کر دیا ہے تو یہ مجھے چین نہیں لینے دیتی اور یہ سب مجھ پر تیری کامل نعمتوں میں سے ہے اور تو اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اے میرے محبوب! تجھے تو خبر ہے کہ اگر مجھے غلط تشکیں کے لئے کوئی عذر مل جائے تو میں پلک جھپکنے کی دیر بھی لوگوں کے ساتھ نہ رہوں۔“

پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے مگر رونے کی زیادتی آپ کی قراءت میں اس قدر کاٹ بنتی کہ کثرت گریہ کے سبب میں آپ کی تلاوت سن نہیں پاتا تھا۔ حضرت ابن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی نے یہ بھی فرمایا کہ ”میں حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی سے حیا اور ان کی محبت کے سبب انہیں ٹانگی باندھ کر دیکھ نہیں پاتا تھا۔“ ﴿9627﴾ ... حضرت سیّدنا اسحاق بن ابراہیم حُصَيْنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی کی مجلس میں حاضر تھے، آپ ہر ایک سے اس کے رات کے معمولات پوچھ رہے تھے اور لوگ بتاتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب سب لوگوں سے پوچھ لیا تو اب حاضرین نے عرض کی: ابو عبد اللہ! آپ نے ہم سے پوچھا ہم نے بتا دیا، اب آپ بتائیے کہ آپ رات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: رات کے ابتدائی حصہ میں مجھے کچھ نیند آتی ہے تو میں سو جاتا ہوں پھر جب میں جاگ جاتا ہوں تو بخدا! میں دوبارہ نہیں سوتا۔

## نماز میں مناجات کی نیت:

﴿9628﴾ ... حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلَّی سے سوال کیا: نمازی اپنی نماز سے کیا نیت کرے؟ ارشاد فرمایا: وہ یہ نیت کرے کہ ”اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ سے مناجات کر رہا ہے۔“

﴿9629﴾... حضرت سیدنا ابو بکر عقیل علیہ رحمۃ اللہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک رات یہ آیت تلاوت کی:

إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں  
سہمے ہوئے تھے۔

(پہ: ۲، الطور: ۲۶)

تلاوت کرتے ہی گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ لوگ آپ تک پہنچ گئے، اُس وقت آپ  
نوجوان تھے، پھر آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے عبادت میں کمی کی گزارش کرنے لگے۔  
﴿9630﴾... حضرت سیدنا قاسم جرمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی  
نے فرمایا: کسی کی نماز اتنی ہی نکلی جاتی ہے جتنی وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔

نیکوں کی ترغیب و تحریریں:

﴿9631﴾... (الف) حضرت سیدنا ابو حماد مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت  
سیدنا علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت فرما رہے تھے: اے میرے بھائی! دیکھو، طلوع فجر سے طلوع شمس  
تک گزرے ہوئے دن کے بارے میں غور و فکر کرنا تمہارا معمول ہونا چاہئے، اُس میں جو کام اللہ عزوجل کی  
فرمانبرداری والا ہوا اُس پر قائم رہو اور جو نافرمانی والا ہوا اُس سے بچو اور دوبارہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ تم نہیں  
جاننے کہ تمہارا دن پورا ہو گیا یا نہیں۔ بے شک توبہ عام ہے مگر تمہارا گناہ ترک کر دینا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے  
اور سچی توبہ ایسی ندامت کو کہتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ تم جہاں بھی ہو اللہ عزوجل سے ڈرتے رہو، اگر تنہائی  
میں گناہ ہو جائے تو تنہائی میں توبہ کرو اور اگر علانیہ گناہ صادر ہو تو توبہ بھی علانیہ کرو نیز ایک گناہ پر دوسرے گناہ  
کو چڑھنے مت دو۔

جس قدر ہو سکے کثرت سے رویا کرو جبکہ بننے میں نجات کی کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ تمہیں بے کار پیدا  
نہیں کیا گیا۔ اپنے ذی رحم رشتہ داروں، قرابت والوں، پڑوسیوں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو،  
مسکین، یتیم اور کمزور پر رحم کرو اور اگر صدقہ دینا چاہو یا کوئی بھلائی یا نیک کام کرنا چاہو تو اُس سے پہلے کہ شیطان  
تمہارے اور اُس کام کے بیچ میں رکاوٹ بنے وہ کام اسی وقت کر ڈالو۔ عمل کرو نیت کے ساتھ، کھاؤ تو نیت کے



ساتھ اور بیو تو نیت کے ساتھ اور اکیلے کھاؤ نہ ہی اکیلے سوؤ کہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے زیادہ دور رہتا ہے اور اندھیرے میں نہ کھاؤ کیونکہ شیطان اندھیرے میں کھاتا ہے۔ لالچ سے بچو کیونکہ یہ تمہارے دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور کسی کو کچھ دینے کا وعدہ ہرگز نہ کرو کیونکہ پورا نہ کرنے کی صورت میں تم محبت کو نفرت میں بدل دو گے۔ کینہ پروری سے بچو کیونکہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہو۔ بغض سے بچو کیونکہ یہ قطع تعلقی کو جنم دیتا ہے۔

تم پر ہر مسلمان کو سلام کرنا لازم ہے یہ تمہارے دل سے بغض و کینہ نکال دے گا، مصافحہ لازم کر لو تم لوگوں میں محبوب ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ با وضو ہو نگاہان فرشتے تم سے محبت رکھیں گے اور اسی حال میں مر گئے تو شہید مرد گے۔ یتیم کو اپنے قریب کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو تمہاری عمر میں برکت ہوگی اور تم جنت میں اپنے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہو گے۔ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو صالحین میں شامل ہو جاؤ گے۔ متقی و صالح لوگوں کو اپنا کھانا کھاؤ اگرچہ وہ مالدار ہوں اللہ عزوجل تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ اگر نیا لباس پہنو تو پُرانا کسی لباس کے محتاج کو پیش کر دو اس سے تمہارا نام بخیلوں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا اور اور گناہوں میں کمی کر دی جائے گی۔ اللہ عزوجل ہی کی خاطر محبت کرو اور انہی کے لئے نفرت رکھو ورنہ تمہاری پہچان منافقوں والی ہوگی۔

### آج نیت حاضر ہے:

﴿9631﴾... (ب) حضرت سیدنا یحییٰ بن ابراہیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان بن سعید ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے پاس گیا تو آپ کے سامنے روٹی اور منی بھر کشمش رکھی تھی، مجھ سے فرمایا: کئی! کھانے کے لئے قریب آ جاؤ۔ میں نے عرض کی: ابو عبد اللہ! میں آپ کے کھانے کے دوران پہلے بھی کئی بار حاضر ہوا ہوں مگر پہلے آپ نے کبھی مجھے کھانے کا نہیں کہا۔ ارشاد فرمایا: آج میری نیت حاضر ہے۔

﴿9632﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یزید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے گھر گیا تو آپ بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہے تھے: اے ذاتِ لَمْ یَزَلْ! تیری پردہ پوشی اچھی ہے۔ اے ہمیشہ رہنے والی ذات! میں تجھ سے بہترین پردہ پوشی کا سوال کرتا ہوں۔

﴿9633﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں نے کبھی اپنے نفس کے علاج سے زیادہ دشوار علاج کسی شے کا نہیں کیا۔

### حق مہر کی ادائیگی کی فکر:

﴿9634﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسحاق کنانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن بیان فرماتے ہیں کہ میں (بصرہ کے مضافاتی علاقے) عبدالدان میں تھا اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بصرہ میں روپوش تھے۔ آپ نے مجھے بلوایا تو میں آپ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہو گیا جبکہ آپ مرض الموت میں تھے، آپ نے اپنے سر ہانے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور دراہم کی ایک تھیلی نکال کر مجھے دی، اُس وقت ایک عورت پر دے کے پیچھے گفتگو کر رہی تھی۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا: میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، اس کے حق مہر میں سے ابھی 30 درہم کی ادائیگی باقی ہے، اگر یہ اپنا حق چھوڑ دے تو تھیلی میں موجود دراہم سے مجھے کفن دے دینا اور اگر یہ لے لے تو مجھے میرے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو میں انہیں غسل دینے کے لئے غسل کی جگہ لے گیا، جب میں نے آپ کا ازار کھولا تو مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں حدیث شریف کے مختلف حصے درج تھے۔

### سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کی تشریف آوری:

﴿9635﴾... حضرت سیدنا قاسم بن عکرم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا وصال ہوا تو ایک بزرگ جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے تدفین کے وقت آئے اور آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے: ”اے سفیان! تم ان سے بے خوف ہو گئے جن کا تمہیں خوف تھا اور اپنے معبود برحق کی جانب پہنچ گئے اور خدا کی قسم! ہمیں یہ پسند نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی اور ہمارا حساب لے۔“ پھر وہ بزرگ دکھائی نہیں دیئے تو لوگ انہیں حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام سمجھنے لگے۔

### تین دن مٹی پر گزراوقات:

﴿9636﴾... حضرت سیدنا زید بن حباب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا مکہ مکرمہ میں خرچ ختم ہو گیا، آپ کی قوم کے ایک شخص نے آپ کے پاس آکر کہا: میرے

پاس آپ کے 10 درہم ہیں۔ پوچھا: کہاں سے؟ اس نے کہا: فلاں عورت کا سوت کا سننے کی اجرت۔ تو فرمایا: یہ مجھے دے دو کیونکہ میں تین دن سے مٹی پھانک رہا ہوں۔

﴿9637﴾... سیدنا بشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں حدیث سنائے بیٹھوں تو ویسا ہی کھڑا ہو جاؤں جیسا میں تھا کہ میری پکڑ ہونہ مجھے نفع ملے۔ ﴿9638﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے یہ بھی فرمایا: میری خواہش ہے کہ حدیث شریف کے معاملے میں برابر برابر جھوٹ جاؤں کہ ثواب ملے نہ پکڑ ہو۔

### حدیث شریف سے محبت:

﴿9639﴾... سیدنا یحییٰ بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ اگر حدیث شریف کا معاملہ نہ ہوتا تو میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے زیادہ افضل کسی کو نہ سمجھتا۔ آپ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بیچ میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھتے رہتے پس جب وہ حدیث کے بارے میں لوگوں کی گفتگو سنتے تو نماز چھوڑ کر وہاں آ جاتے تھے۔ ﴿9640﴾... حضرت سیدنا خلف بن اسماعیل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے عرض کی: آپ جب حدیث شریف شروع کرتے ہیں تو چاق و چوبند اور اجنبی لگتے ہیں اور حدیث کے علاوہ ایسے ہوتے ہیں گویا جسم میں جان نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ کلام ایک قہر ہے؟ ﴿9641﴾... حضرت سیدنا فضل بن مولیٰ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے منبر پر احادیث شریفہ بیان کرنے والے امام کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: یہ اچھا طریقہ ہے۔

﴿9642﴾... حضرت سیدنا مہران رازی قَدَسَ سِرُّہُ النِّسَاۃِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو دیکھا کہ جب آپ اپنے کپڑے اتارتے تو انہیں لپیٹ دیتے اور فرماتے: منقول ہے کہ اگر کپڑوں کو لپیٹ دیا جائے تو ان میں جان واپس لوٹ آتی ہے۔

### عاجزی و انکساری:

﴿9643﴾... حضرت سیدنا خلف بن حمیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، اُس وقت آپ کے پاس بہت سارے محدثین جمع تھے تو ارشاد فرمانے لگے: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

إِنِّيهِ رَاجِعُونَ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ عزوجل اس اُمت کو ضائع نہ کر دے کیونکہ انہیں مجھ جیسے کا محتاج کر دیا گیا۔ ﴿9644﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جب میں حدیث شریف بیان کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو خود کو بھول جاتا ہوں۔

﴿9645﴾... حضرت سیدنا احمد بن عاصم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے اور رونے لگے۔ دورانِ گفتگو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے کہا: مجھے امید ہے کہ ہماری یہ مجلس ہماری گزشتہ مجلسوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوگی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا: آپ کو یہ امید ہے مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں ہماری یہ مجلس بہت بُری نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح اپنی گفتگو بنا سنوار کر ایک دوسرے کے لئے عاجزی کر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی رونے لگے حتیٰ کہ آپ کی سسکیاں بلند ہو گئیں پھر کہا: آپ نے مجھے غفلت سے بیدار کر دیا، اللہ عزوجل آپ کو بھی غفلت سے بیدار رکھے۔

### کتابوں کی تدفین:

﴿9646﴾... حضرت سیدنا اسمعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے وصیت فرمائی کہ ان کی کتابوں کو دفن کر دیا جائے کیونکہ وہ اُن روایات پر نادم تھے جو انہوں نے ضعیف راویوں سے لی تھیں اور ارشاد فرمایا: مجھے اس کام پر حدیث کی شدید خواہش نے ابھارا تھا۔

﴿9647﴾... حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْش کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے کئی کتابوں کو دفن کیا تو میں بھی اس کام پر ان کی مدد کر رہا تھا پس آپ نے اتنی اتنی کتابوں سے بھرا ہوا تھیلہ جو میرے سینے تک بلند تھا دفن کیا، اس وقت میں نے عرض کی: دُفینے میں غم کا حکم ہے۔ تو مجھ سے ارشاد فرمایا: جو چاہے لے لو۔ تو میں نے اس میں سے بعض وہ کتابیں چھانٹ لیں جن میں سے آپ مجھے حدیث بیان کیا کرتے تھے۔

### بمتر مرگ پر حدیث سے لگاؤ:

﴿9648﴾... مسجدِ بصرہ کے امام حضرت سیدنا فرقد بن عیاض عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان

ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے مرض وصال میں لوگ ان کے پاس آئے، ایک شخص نے آپ کو ایک حدیث سنائی جو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے بستر کے نیچے مارا اور اپنی تختیاں نکال لیں اور اس حدیث شریف کو لکھ لیا۔ لوگوں نے عرض کی: آپ اس حالت میں ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ اچھا عمل ہے اگر میں زندہ رہا تو میں اچھا سننے والا ہوں اور اگر مر گیا تو میں اچھا لکھنے والا ہوں۔

### آتے ہی حدیث سنانے کا مطالبہ:

﴿9649﴾... حضرت سیدنا عبد المؤمن بن عثمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوُثْقَن بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی حضرت حماد بن سلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: مرحبا۔ آپ نے فرمایا: ابوالعشر! اداری کی اپنے والد سے روایت کردہ حدیث بیان کیجئے۔

﴿9650﴾... حضرت سیدنا شمیم بن یشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: ہمارے پاس حضرت سیدنا ابواسحاق شیبانی قَدْ سَبَّحَہُ اللہُ تَعَالٰی کے وصال کی خبر آئی تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے میری جانب متوجہ ہو کر یہ فرمانا شروع کر دیا: ”کیا تم شیبانی کے فلاں مسئلہ سے واقف ہو؟ کیا تم شیبانی کے فلاں مسئلہ سے آگاہ ہو؟ اگر اس مسئلہ کے بارے میں کچھ روایات بھی ہوں تو میں ان کو نہیں لکھوں گا۔“ پھر جب ان کی موت کی خبر جھوٹی نکلی تو میں حضرت سیدنا شیبانی قَدْ سَبَّحَہُ اللہُ تَعَالٰی کے پاس چلا گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا ہاں سے گزر ہوا تو آپ نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا اور مجھ سے کلام نہ کیا۔

﴿9651﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: علم کی جستجو کرنے والا علم سے زیادہ روٹی اور گوشت کا حاجت مند ہے۔

### جہاد یا تلاوت قرآن:

﴿9652﴾... عبد الحمید حَتَّانِ کا بیان ہے کہ میری موجودگی میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے پوچھا گیا: جہاد میں شرکت کرنا زیادہ پسندیدہ ہے یا کسی کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا؟ آپ نے فرمایا: کسی کا تلاوت قرآن مجید کرنا۔

﴿9653﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر آسمان مینہ نہ برسائے اور زمین کچھ نہ

اُگائے پھر بھی میں اپنے رزق کے لئے کسی چیز کا اہتمام (ذاتی طور پر) کروں تو میں خود کو کافر سمجھوں۔

## فضول سوال فضول گوئی ہے:

﴿9654﴾... ابراہیم بن سلیمان زیات عبدی نے مکہ مکرمہ میں یہ بیان کیا کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک شخص آپ کا لباس دیکھنے لگا پھر بولا: ابو عبد اللہ! یہ کیسا کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: سلف صالحین فضول گوئی کو ناپسند جانتے تھے۔

## نصیحت کا حیرت انگیز اثر:

﴿9655﴾... ابراہیم بن سلیمان بن زیات کا بیان ہے کہ ہم حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی کی خدمت میں حاضر تھے، ایک عورت آئی اور اپنے بیٹے کی شکایت کر کے کہنے لگی: کیا میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لے آؤں تاکہ آپ اسے نصیحت کریں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! لے آؤ۔ وہ اسے لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے اسے حسبِ توفیق نصیحت فرمائی۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آئی اور عرض گزار ہوئی: ابو عبد اللہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس نے کچھ باتیں بھی بتائیں جو وہ اپنے بیٹے کے لئے چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھر آئی اور کہنے لگی: ابو عبد اللہ! میرا بیٹا رات کو سوتا نہیں اور دن میں روزے رکھتا ہے نیز کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے! یہ بتاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی: وہ علم حدیث حاصل کرنا۔ آپ نے فرمایا: سمجھ لے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس چلا گیا۔

﴿9656﴾... سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: کسی سے ایک دن میں ایک سے زیادہ حاجتوں کا سوال نہ کرنا۔ ﴿9657﴾... حضرت سیدنا عصام بن یزید جَزْرَحَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حج کیا، خلیفہ مہدی بھی حج میں شریک تھا اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی روپوشی والی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ، ہم ایک گدھے پر سوار منیٰ سے نکلے، میں گدھے کو ہانک رہا تھا، جب خلیفہ مہدی اپنے گھوڑوں کے ساتھ سامنے نظر آیا تو میں نے اپنے پیچھے سوار حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعُی سے مزاح کرتے ہوئے کہا: آواز لگا کر کہوں کہ ”سفیان ثوری یہ رہے؟“ آپ نے فرمایا: ارے ادب! خاموش ہو جا کہیں کوئی سن نہ لے۔

## خالی قالین پر شیطان بیٹھتا ہے:

﴿9658﴾... حضرت سیدنا محمد بن عیصام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ کا بیان ہے کہ میرے والد کے غلام بہرام نے مجھے بتایا: ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی کسی جگہ دعوت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، میں اور تمہارے والد بھی ان کے ہمراہ تھے، ہم ایک ایسے گھر میں پہنچے جو فرنیچر، قالین اور پردوں سے سجایا گیا تھا۔ میں تو دروازے کے پاس بیٹھ گیا جبکہ تمہارے والد کسی کام سے باہر نکل گئے اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی گھر کے اندر ہی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا: اے شخص! کیا تم جانتے ہو کہ اس قالین پر کون بیٹھتا ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں۔ تو ارشاد فرمایا: جب اس پر کوئی انسان نہیں بیٹھتا تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔

﴿9659﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: جب تم کوئی چیز خریدو اور اُس میں سے پڑوسی کو کچھ دینے کا ارادہ نہ ہو تو اسے چھپا کر لے جاؤ۔

﴿9660﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: جس نے بھوک کے باوجود سوال نہ کیا حتیٰ کہ مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوا۔

﴿9661﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: میں نے شہروں کو وحشت ناک پایا تو میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں ان کی وحشت میں اضافہ ہی دیکھ رہا ہوں۔

## تعلق جوڑ کر خلوت نشین:

﴿9662﴾... قاضی حضرت سیدنا ہشام بن یوسف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تعلق ختم کر کے جوڑتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ تعلق توڑنے کے بعد جوڑ لیتے ہیں جبکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی تعلق جوڑ کر خلوت نشین ہو جایا کرتے تھے۔

## طویل گفتگو سے اجتناب:

﴿9663﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن سندی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے پاس آ کر یوں کہا: اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

وَبَرَكَاتُهُ! ابو عبد اللہ! آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے اور آپ کو عافیت عطا فرمائے، ہم طویل گفتگو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔

﴿9664﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: سب سے افضل ذکر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہے پھر نماز کے علاوہ تلاوت قرآن کریم ہے پھر روزہ رکھنا اور اس کے بعد ذکر الہی افضل ہے۔

## یہ وقت بننے والے کی نجات:

﴿9665﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں خود کو بے وقوف ظاہر کرنے والے کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔

﴿9666﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے بیان فرمایا کہ جب حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس (حضرت سیدنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کی) خوش خبری لانے والا آیا تو آپ نے اس سے پوچھا: تم نے (حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام) کو کس دین پر چھوڑا تھا؟ آنے والے نے عرض کی: اسلام پر۔ ارشاد فرمایا: اب نعت تمام ہو گئی۔

## ہمیشہ کا ہدیہ:

﴿9667﴾... حضرت سیدنا ابو شہاب خُصَّامُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کعبے کے پچھلے حصے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے پاس بیٹھ کر سلام کیا مگر آپ نے میری مرضی کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا: آپ کی ہمیشہ نے میرے ہاتھ آپ کے لئے کچھ بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی: ابو عبد اللہ! میں نے آپ کو سلام کیا تو جیسے میں چاہ رہا تھا آپ نے مجھے ویسا جواب نہ دیا مگر جب میں نے کہا کہ ہمیشہ نے میرے ہاتھ کچھ بھیجا ہے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: کیا مجھ سے پچھپائے ہی رکھو گے؟ تین دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا لہذا جب تم نے کہا کہ ”آپ کی بہن نے آپ کے لئے کچھ بھیجا ہے۔“ تو میں سمجھ گیا کہ یہ چیز بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے ”سُوت“ کا اشارہ کیا۔

## بعد والوں کے لئے مشقت:

﴿9668﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی



القوی نے اپنے بعد علما کو مشقت میں ڈال دیا، نہ ہم نے آپ جیسا کوئی دیکھا اور نہ ہی خود آپ نے اپنے جیسا کوئی دیکھا۔ آپ کے پاس دنیا (مال و دولت) آئی تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔

﴿9669﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیِّ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جسے دنیا کی کشادگی دی جاتی ہے اُسے غفلت میں ڈالا جاتا ہے اور جسے دنیا سے محروم کیا جاتا ہے اُس کا امتحان لیا جاتا ہے۔

﴿9670﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اپنا پیسہ دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ اور (حب اول میں ریا کا خوف ہو تو) نماز آخری صف میں ادا کیا کرو۔

## انسان کی کمزوری:

﴿9671﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید بن خثیمس مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیِّ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

وَحَقِی الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا ﴿۵﴾ (النساء: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اور آدمی کمزور بنایا گیا۔

کے بارے میں پوچھا گیا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: عورت کسی مرد کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ خود کو اُسے دیکھنے سے روک نہیں پاتا اور نہ ہی اس سے نفع لے پاتا ہے اس سے بڑھ کر کمزوری کیا ہوگی؟ ﴿9672﴾... حضرت سیدنا ابو نعیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوذعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اس مضمون کا خط لکھا:

”سفیان ثوری کی جانب سے محمد بن عبد الرحمن کی طرف، اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ! میں تمہارے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور اگر لوگوں سے ڈرو گے تو وہ تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہرگز نہ بچا سکیں گے لہذا تم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا لازم ہے۔“

﴿9673﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: باہمی رحمہ اور شفقت ختم ہو گئی، ہمارے زمانے کے علما حریص ہیں ان میں تقوی نہیں ہے۔

## شیر کا اطاعت کرنا:

﴿9674﴾... سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی نے فرمایا: ایک مرتبہ میں اور حضرت شیبان راعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی حج کے ارادے سے پیدل روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی راستہ طے کیا تھا کہ اچانک ایک شیر ہمارے سامنے آگیا۔ میں نے حضرت شیبان راعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی سے کہا: کیا آپ اس درندے کو نہیں دیکھتے جو ہمارے سامنے آکھڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا: ڈرو مت۔ پھر انہوں نے شیر کو آواز دے کر بلایا تو وہ کتے کی طرح دُم ہلاتا ہوا آگیا اور آپ نے اسے کان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا: کیا یہ شہرت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: اے سفیان! آپ کو کون سی شہرت نظر آرہی ہے؟ اگر شہرت سے نفرت نہ ہوتی تو میں مکہ مکرمہ تک اپنا مسلمان اس شیر کی پیٹھ پر ہی لاد کر لے جاتا۔

**مظلوم کی فلاح کا دن:**

﴿9675﴾... حضرت سیدنا محمد بن عبد الملک دیقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حارث بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی نے فرمایا: ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی کے پاس آکر ظلم کی شکایت کی تو آپ نے اُسے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں ظلم کی شکایت کی تو حضور نبی کریم، رَعُوْذٌ رَاجِمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن مظلوم فلاح پانے والے ہوں گے۔“ ﴿۱﴾ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی اپنی مجلس میں دو کلمات کبھی نہیں چھوڑتے تھے: ”يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ عَفْوَكَ اے میرے رب! سلامتی عطا فرما، معافی عطا فرما“ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حارث بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی سے پوچھا: کیا آپ نے یہ کلمات حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی سے سنے ہیں؟ فرمایا: جی ہاں۔

﴿9676﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی نے فرمایا: دنیا سے دوری لوگوں سے دوری کا نام ہے اور لوگوں سے دوری کا آغاز تمہارا اپنے نفس (کی خواہشات) سے دور ہونا ہے۔

## رب تعالیٰ کی ناراضی کا خوف:

﴿9677﴾... حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی نے فرمایا: بعض احباب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی یمن کے راستے میں ایک مقام سے گزرے جہاں معن بن زائدہ رہتا تھا،

معن بن زائدہ نے کہہ رکھا تھا کہ ”اگر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں ایک لاکھ درہم دوں گا۔“ ہم نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی: آپ کو اس کے پاس جا کر سلام کر آنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مقام یا ایک بول اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناراض کر سکتا ہے لہذا مجھے پسند نہیں ہے کہ ایسی جگہ کھڑا ہوؤں یا ایسا بول بولوں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو مجھ سے ناراض کر دے۔

**دل بدلنے والا کھانا:**

﴿9678﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، صَلَّوْا عَلَیْہِ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: میرے بعد حکمرانوں کا کھانا دجال کے کھانے جیسا ہو گا کہ اگر کوئی شخص اسے کھائے گا تو اس کا دل بدل جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9679﴾... حضرت سیدنا یعلیٰ بن عُقْبید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو تمہاری بات بادشاہ تک پہنچا دے گا تو کیا تم کوئی غلط بات کرتے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: بے شک تمہارے ساتھ کوئی ایسا ہے جو بات پہنچاتا ہے (یعنی فرشتے تمہاری باتیں بارگاہِ الہی تک پہنچاتے ہیں)۔

﴿9680﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھے خط لکھا: ”اپنے علم کو پھیلاؤ اور شہرت سے اجتناب کرو۔“

## اپنے دین کی فکر کرو:

﴿9681﴾... حضرت سیدنا وکیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: آخری زمانے میں عبادت گاہوں کو لازم پکڑ لینا بے شک تمہاری عبادت گاہیں تمہارے گھر ہیں۔ حضرت سیدنا وکیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّی فرماتے ہیں: ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو بھنا ہوا گوشت کھاتے دیکھا گیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں کھانے سے نہیں روکا، بس یہ دیکھ لیا

کر کہ کہاں سے کھارے ہو؟ کہیں جاؤ تو دیکھ لو کہ کس کے پاس جارہے ہو اور کچھ یو لو تو غور کر لیا کرو کہ کیا اور کیسے بول رہے ہو اور میں تمہیں کھانے سے کیونکر منع کر سکتا ہوں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

حَدِّثُوا زِينَتَكُمْ عَنِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ وَاعِلٍ  
وَالشُّرُبِ (پ: ۸، الاعراف: ۳۱)

اور پڑھو۔

حکمرانوں سے دور رہو:

﴿9682﴾... حضرت سیدنا ہلال رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیاں کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے ایک شخص کو (خلیفہ کا خطبہ سننے کی خاطر) منبر کے قریب دیکھ کر فرمایا: اے فلاں! تم نے منبر سے قریب بیٹھ کر میرے دل کو مشغول کر دیا، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ یہ کوئی عجیب بات کر دے تو تم پر اس کا رد کرنا واجب ہو جائے؟ اس شخص نے کہا: کیا یہ منقول نہیں کہ خطیب سے قریب ہو کر غور سے سنو؟ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ حکم تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر و امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر اور دیگر ہدایت یافتہ خلفاء رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے متعلق ہے، رہے آج کے خلفاء تو ان سے دور ہی رہو، ان کے کلام سنو نہ ہی ان کی طرف دیکھو۔

﴿9683﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو اسے حکمرانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔

﴿9684﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا فضیل اور حضرت سیدنا سفیان رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا مسجدا الحرام میں نماز مغرب کے بعد ملاقات کرتے اور نعمتوں کے بارے میں گفتگو کرتے یہاں تک کہ جد اہوتے وقت حضرت سیدنا فضیل حضرت سیدنا سفیان رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا سے فرماتے: کیا اُس رب تعالیٰ نے ہم پر ایسا انعام نہیں فرمایا۔

دل کی بیماری کا علاج:

﴿9685﴾... حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن یزید اسلمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کچھ لوگوں کے درمیان تشریف فرماتھے اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِلْتُ لَكَ

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت

فَلْيَقْرِحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ ﴿٥٨﴾

اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

(پا۔ یونس: ۵۸)

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ان سے کہا: ابو علی! خدا کی قسم! ہم اُس وقت تک خوش ہی نہیں ہو سکتے جب تک قرآن مجید کی دوائے کر دل کی بیماری کا علاج نہ کریں۔

**لوگوں پر بوجھ نہ بنو:**

﴿9686﴾... حضرت سیدنا ابو حماد مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا علی بن حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے بھائی! پاکیزہ روزی اور اپنے ہاتھ کی کمائی تم پر لازم ہے، لوگوں کے میل کچیل کھانے یا پہننے سے بچو کیونکہ جو لوگوں کا میل کچیل کھاتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اوپری منزل کا مالک ہو اور چلی منزل اُس کی نہ ہو تو ایسا شخص ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں نیچے والی منزل نہ گر جائے اور اوپر والا حصہ منہدم ہو جائے۔ لہذا لوگوں کا میل کھانے والا جھک کر بات کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے کہ کہیں وہ اُس سے اپنالال نہ روک لیں۔ اے میرے بھائی! اگر تم نے لوگوں سے کچھ لیا تو گویا تم نے اپنی زبان کاٹ دی، اب قیامت میں پیش آنے والے معاملے کے باوجود تم کچھ لوگوں کو عزت دو گے اور کچھ کو ذلیل کرو گے۔ پس جو تجھے اپنے مال سے کچھ دیتا ہے وہی اس کا میل ہے اور اس کے میل کا مطلب اس کا اپنے عمل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اگر تم نے لوگوں سے کچھ لیا اور پھر انہوں نے تمہیں بُرائی کی طرف بلایا تو تم ان کی بات مان لو گے۔ لوگوں کا میل لینے والا اُس شخص کی طرح ہے جو کسی چیز میں اوروں کے ساتھ شریک ہو اور اُسے اُن کے ساتھ حصہ داری کرنی پڑے۔ اے میرے بھائی! بھوکا رہ کر تھوڑی عبادت کرنا لوگوں کے میل سے اپنا پیٹ بھر کر زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور ﷺ کریم، رَزَوَقُفَّ رَحِیْمُ مَنَی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم میں سے کوئی رسی لے پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں اپنی پیٹھ پر لادے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس کھڑا ہو کر اس سے سوال کرے یا اس سے امید لگائے۔“<sup>(۱)</sup> اور ہمیں یہ روایت بھی پہنچی

ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تم میں سے جو کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے اور جو کام نہیں کرے گا ہم اسے برا کہیں گے۔ اور فرمایا: اے گروہ علما! اپنے سروں کو بلند رکھو اور دل میں موجود عاجزی سے زیادہ عاجزی ظاہر نہ کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو، پس راستہ واضح ہے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکبیر نے فرمایا: جو لوگوں کی کمائی پر زندگی گزارتا ہے وہ کسی اور کی زمین پر درخت لگانے والے کی مانند ہے۔

اے میرے بھائی! اللہ عزوجل سے ڈرو جو بھی لوگوں سے کوئی چیز لیتا ہے وہ لوگوں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے حالانکہ اہل ایمان تو زمین میں اللہ عزوجل کے گواہ ہیں، تم حرام کما کر اسے اللہ عزوجل کی فرمانبرداری والے کاموں میں خرچ کرنے سے بچو کیونکہ اس کا ترک کرنا فرض ہے جسے اللہ عزوجل نے لازم کیا ہے اور بے شک وہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے جس کے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے پھر وہ اسے پاک کرنے کے لئے پیشاب ہی سے دھوئے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اسے پاک کر دے گا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ گندگی کو پاک شے ہی صاف کرتی ہے یوں ہی بُرائی کو نیکی ہی مٹاتی ہے اور اللہ عزوجل پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اور حرام کسی بھی عمل میں قبول نہیں کیا جاتا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے گناہ کیا پھر اسے کسی گناہ سے مٹایا ہو؟

**جھوٹے کی حدیث قبول نہیں:**

﴿9687﴾... عبد اللہ بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: ”جس نے جھوٹ بولا اس کی حدیث قابل قبول نہیں۔“ اور میں نے حضرت دکیج علیہ رحمۃ اللہ الکبیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”یہ حدیث ایسا سامان تجارت ہے جس میں سچا آدمی ہی آگے بڑھتا ہے۔“

﴿9688﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں حدیث کو سات مختلف طریقوں سے لکھتا ہوں جبکہ معنی ایک ہی رہتا ہے۔

﴿9689﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: جس کی عمر حضور نبی کریم، رؤوف رحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آہم و شہم کی ظاہری عمر شریف کو پہنچ جائے اسے اپنے لئے کفن تیار کر لینا چاہئے۔

﴿9690﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: بلوغت کی کم از کم مدت 14 سال اور زیادہ

سے زیادہ ۱۸ سال ہے<sup>(۱)</sup> پھر اگر حدود کا معاملہ ہو تو زیادہ مدت کو لیا جائے گا۔

﴿۹۶۹۱﴾... حضرت سیدنا ضمزمہ بن ربیعہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ سے جب نبیذ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے: انجیر کھاؤ، انگور کھاؤ۔

### مردہ زندوں سے بہتر:

﴿۹۶۹۲﴾... حضرت سیدنا وکیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ سے یہ اشعار سنے:

غَلَبَ النَّفْسُ عَلَى النَّفْسِ  
فَأَصْبَحَ النَّفْسُ فِي قَبْرِهِ  
فَأَصْبَحَ النَّفْسُ فِي قَبْرِهِ  
فَأَصْبَحَ النَّفْسُ فِي قَبْرِهِ

**ترجمہ:** حکمران مال پر غالب آگئے اور مخلوق کے لئے کچھ نہیں بچا، اس لئے مردہ اپنی قبر میں زندہ سے زیادہ اچھی حالت میں ہے۔

﴿۹۶۹۳﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ نے فرمایا: بندہ جب لپکا فاسق ہو جاتا ہے تو اپنی آنکھوں پر قابو پالیتا ہے پھر جب چاہتا ہے تو ان سے رو لیتا ہے۔

﴿۹۶۹۴﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْحِیْدِ فرماتے ہیں: یہ بات آدمی کی سعادت مندی سے ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مشابہت رکھتا ہو۔

①... احناف کے نزدیک: لڑکے کو جب انزال ہو گیا وہ بالغ ہے وہ کسی طرح ہو سوتے ہیں جو جس کو احتلام کہتے ہیں یا بہیاری کی حالت میں ہو اور انزال نہ ہو تو جب تک اس کی عمر پندرہ سال کی نہ ہو بالغ نہیں جب پورے پندرہ سال کا ہو گیا تو اب بالغ ہے علامات بلوغ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، لڑکے کے بلوغ کے لیے کم سے کم جو مدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگر اس مدت سے قبل وہ اپنے کو بالغ بتائے اس کا قول معتبر نہ ہو گا۔ لڑکی کا بلوغ احتلام سے ہوتا ہے یا حمل سے یا حیض سے ان تینوں میں سے جو بات بھی پائی جائے تو وہ بالغ قرار پائے گی اور ان میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو جب تک پندرہ سال کی عمر نہ ہو جائے بالغ نہیں اور کم سے کم اس کا بلوغ نو سال میں ہو گا اس سے کم عمر ہے اور اپنے کو بالغ کہتی ہو تو معتبر نہیں۔ لڑکے کی عمر بارہ سال یا لڑکی کی نو سال کی ہو اور وہ اپنے کو بالغ بتاتے ہیں اگر ظاہر حال ان کی تکذیب نہ کرنا ہو کہ ان کے ہم عمر بالغ ہوں تو ان کی بات مان لی جائے گی۔ (بہار شریعت، حصہ ۲، ۱۵/۲۰۳)

## علم حدیث میں مہارت:

﴿9695﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ بیان کرتے ہیں: بارہا ایسا ہوتا کہ ہم حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کی خدمت میں ہوتے تو گویا آپ روزِ جزا کا حساب دینے کے لئے کھڑے ہیں، ہمیں ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، لہذا ہم حدیث شریف کا ذکر شروع کر دیتے ہیں جب حدیث شریف کا معاملہ آتا تو آپ کی وہ خشوع والی کیفیت جاتی رہتی پھر تو بس حدیث ہی بیان ہوتی رہتی۔

﴿9696﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کے پاس بیٹھتا تو وہ احادیث بیان کرتے، میں دل میں کہتا: ”میں نے ان کا تمام علم سن لیا اب کچھ باقی نہیں بچا۔“ مگر پھر جب دوسری مجلس میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو آپ پھر احادیث بیان کرتے، پس میں کہتا: ”میں نے ان کے علم سے کچھ سنا ہی نہیں۔“

## آبِ زم زم کے تین ذائقے:

﴿9697﴾... ہرات کے ایک شیخ اور بڑے سچے بزرگ حضرت سیدنا عبد اللہ ہر وی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ نے فرمایا: میں سحر کے وقت زم زم شریف کے کنوئیں پر آیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ کنوئیں میں موجود ڈول سے آبِ زم زم نکال رہے ہیں، زم زم پینے کے بعد انہوں نے ڈول واپس کنوئیں میں ڈال دیا، میں نے اُسے لے کر باقی ماندہ پیا تو وہ بادام کا ستوتا تھا، میں نے بادام کا ایسا لذیذ ستو پہلے کبھی نہیں پیا۔ اگلی رات میں پہلے سے انتظار کرنے لگا، جب وہی وقت ہوا تو وہ بزرگ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے زم زم پر آئے اور اُس میں موجود ڈول سے پانی نکال کر پیا اور ڈول واپس کنوئیں میں ڈال دیا، میں نے ڈول لے کر بچا ہوا پیا تو وہ شہد ملا پانی تھا، میں نے اس سے زیادہ مزید ارشید کبھی نہیں پیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کپڑا ہٹا کر دیکھوں کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تیسری رات آئی تو میں زم زم کے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا، جب وہ وقت ہوا تو وہ بزرگ چہرے پر کپڑا ڈالے تشریف لے آئے اور میں نے اندر آکر ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ لیا، انہوں نے پانی پی کر جب ڈول چھوڑا تو میں نے عرض کی: اے بزرگ! میں آپ کو اس خانہ کعبہ کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے: کیا تم میرے مرنے تک اس بات کو پردے میں رکھو گے؟ میں نے عرض: جی ہاں۔ فرمایا: میں سفیان بن سعید ثوری ہوں۔



پھر میں نے انہیں جانے دیا اور ڈول سے ان کا بچا ہوا بچا تو وہ شکر ملا دودھ تھا، میں نے اس جیسا عمدہ دودھ پہلے کبھی نہ پیا تھا اور جب میں وہ مشروب پی لیتا تھا تو وہ مجھے کافی ہو جاتا تھا، پھر مجھے بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔

﴿9698﴾... سیدنا یزید بن ہشام بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں پر آیا تو وہاں ایک بزرگ کو پایا، انہوں نے ڈول میں تین بار پانی بھر کر پیا پھر زمزم میں جھانک کر دیکھا، مجھے لگا کہ وہ دعا کر رہے ہیں پھر وہ چلے گئے۔ میں پانی پینے کے لئے ڈول کے پاس آیا تو اس میں دودھ دیکھا، میں نے ڈول کو وہیں چھوڑا اور ان بزرگ تک جا پہنچا، ان سے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: میں سفیان بن سعید ہوں۔

### دشمنانِ شیخین پر کتنے کا مسلط ہونا:

﴿9699﴾... حضرت سیدنا مَخْلَد بن خُنَیْس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو فرماتے سنا: میرے مسجد کے راستے میں ایک کتا لوگوں کو کانا کرنا تھا، ایک دن میں نماز کے ارادے سے نکلا تو کتا راستے میں موجود تھا، میں اُس سے دور ہوا تو کتا بولا: ابو عبد اللہ! آپ جاییے، مجھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ابو بکر و حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو گالی دینے والوں پر مسلط کیا ہے۔

### دیدارِ الہی کی نعمت:

﴿9700﴾... سیدنا یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

تَلَّوْثٌ اِلَّا نَبَّیْ کَفَاخَا فَتَقَالَ لِی  
هَیْثَا رَمَّانَ عَنْکَ یَا اَبْنَ سَعِیْدٍ  
فَقَدْ کُنْتُ قَوَّامًا اِذَا اَقْبَلَ الدُّحَى  
بَعْبُورَہُ مُشْتَابِی وَفَلَّی سَعِیْدِ  
فَلَنْوَنَکَ فَاغْتَرَّ اَحَى قَضَبِ اَزْدَقَتِہُ  
وَدُؤْرَیْنِ فَاَبَیْ مِنْکَ غَیْزُ بَعِیْدِ

**ترجمہ:** (۱)... میں نے اپنے رب تعالیٰ کا کھلم کھلا دیدار کیا، اس نے مجھ سے فرمایا: اے ابنِ سعید! تجھے میری رضا و خوشنودی مبارک ہو۔ (۲)... تم طلبِ کار والے آنسو اور بیمارِ عشق والے دل کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ قیام کرتے تھے۔ (۳)... تم اپنے لئے جو محل چاہو لے لو اور میرا دیدار کرتے رہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔

## نفل پر فرض کو ترجیح:

﴿9701﴾... حضرت سیدنا محمد بن عیصام جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی بِکَرَمِہ میں مقیم تھے، میرے والد ماجد نے آپ سے اجازت چاہی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ اپنے گھر جا رہے ہیں اور موسم حج میں واپس آجائیں گے۔ پھر جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہوئے تو میرے والد صاحب کو فہم کے راستے سے نکلے تاکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے گھر سے ہوتے ہوئے جائیں۔ چنانچہ اُن کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کافی سارے پیغامات دیئے، آپ کا بیٹا محمد جو کافی ہوشیار ہو چکا تھا اور ۱۰ سال کا تھا۔ حضرت جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اُس نے اپنے بچے نے اُن سے کہا میرے والد کو میرا سلام کہئے گا اور پیغام دیجئے گا کہ ”گھر آجائیں، مجھے ان سے ملنے کی بہت تمنا ہے۔“

جب حضرت سیدنا جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے پاس آئے تو وہ لوگوں کے مجمع میں حدیث بیان کر رہے تھے، جب ان کی نظر حضرت سیدنا جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پر پڑی تو خوش ہو گئے اور اُن سے باتیں پوچھنے لگے، اسی دوران حضرت سیدنا جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کے گھر والوں اور بیٹے کا پیغام پہنچایا تو وہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹا اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے اور بیٹا اللہ کو الوداع کہہ کر وادی الطح کی جانب چلے گئے جبکہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، آپ نے حضرت سیدنا عیصام جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمایا: ”اے عیصام! ان لوگوں کو مجھ سے دور کرو کیونکہ آج میں انہیں حدیث بیان نہیں کروں گا۔“ کافی تگ و دو کے بعد طالبان حدیث چلے گئے۔

جب تنہائی میں آئی تو حضرت سیدنا جبر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا: اِنْ شَاءَ اللّٰہ! اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی: ایک دن بعد یوم ترویج ہے، اس کے بعد حج اکبر کا دن اور یوم نحر ہے، آپ یہ سب چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ پھر یہ کہ لوگ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس نے اس علم میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا: میں اس چیز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں مگر تم میرے پاس ایک ایسی ذمہ داری لائے ہو جس کا پورا کرنا مجھ پر واجب ہے اور اب تم مجھے نقلی کام کرنے اور فرض کو ضائع کرنے کا کہہ رہے ہو، اب میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے بے چین ہوں۔ پس تم جب عرفات اور

حاضری والے مقدس مقامات پر جاؤ تو ہمارے لئے دعا کرنا اور دلیلی پر ہماری طرف سے ہوتے ہوئے جانا۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بِغیر کسی زاورِ راہ اور ہمعصر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا جبر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے (مکہ آنے والے) ایک گروہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فلاں دن اچانک ہم سے ملے، انہوں نے عید کی نماز کو فہ میں ادا کی، اپنے بیٹے سے عید گاہ ہی میں ملاقات کی اور اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ان پر رحمت ہو (اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امین)۔

## دن ہے یارات:

﴿9702﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہوا تو خلیفہ کی وجہ سے ہم نے ان کی تدفین رات میں کرنا چاہی لہذا ہم انہیں لے کر نکلے تو (لوگوں کی کثرت کے باعث) پتا نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات۔

﴿9703﴾... حضرت سیدنا حسن بن علی خُلوَانِی قُدْسِ سَیِّدُہِہُ التَّوْحِیْدِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ”کیا حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی کوئی زوجہ بھی تھیں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”ہاں، میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا تھا جسے اس کی والدہ نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس بھیجا تھا تو وہ آکر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا: کاش! مجھے تیرے جنازے کے لئے بلایا گیا ہوتا۔“ میں نے حضرت سیدنا محمد بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ”کیا وہ بچے کی وفات تک زندہ رہے؟“ تو فرمایا: ”ہاں۔“

## دوستیاں لگانے سے دوری:

﴿9704﴾... حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا: کیا تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو مجھے ان سے دوستیاں لگانا روپے میں سے چار آنے بھی خوش نہیں کرتا۔

﴿9705﴾... حضرت سیدنا معدان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے مکہ مہرمہ جاتے وقت حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ہم رکاب تھا، جب کوفہ پہنچے رہ گیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے اپنے پیچھے کوئی ایسا نہیں چھوڑا جس پر مجھے اعتماد ہو اور نہ ہی میں کسی ایسے پر پیش قدمی کروں گا

جس پر دین میں مجھے اعتماد ہے۔

## گوشت خور گھرانہ:

﴿9706﴾... حضرت سیدنا اسماعیل بن عمروؑ بھی علیہ رحمۃ اللہ النبی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ النبی سے اس حدیث شریف کے متعلق سوال ہوا: ”إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّخْمِيِّينَ“ یعنی بے شک اللہ عزوجل گوشت خور گھرانے کو پسند نہیں فرماتا۔<sup>(۱)</sup> تو انہوں نے فرمایا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے (یعنی نبیت کرتے) ہیں۔

## موت میں شمتات نہیں:

﴿9707﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ النبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آکر آپ کے گھر والوں کو ایذا دیتا اور پریشان کیا کرتا تھا۔ کسی نے آپ کو خبر دی کہ وہ شخص مر گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: موت میں شمتات نہیں (یعنی مرنے پر اظہارِ مسرت نہ کرو) سناؤ! کیا تم جانتے ہو کہ اُس نے کوئی مال حاصل کیا یا اس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا یا اُسے کوئی عہدہ دیا گیا ہو۔

## خفیہ تدبیر کا خوف:

﴿9708﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوریؒ علیہ رحمۃ اللہ النبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اُس مقام میں جہاں وہ اُس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں فرمایا: قریب ہو جاؤ۔ تو وہ قریب ہوئے پھر تھر تھر کانپنے لگے، اللہ عزوجل نے پھر فرمایا: اور قریب ہو جاؤ۔ وہ اور قریب ہوئے پھر تھر تھر کانپنے لگے، باری تعالیٰ نے پھر فرمایا: مزید قریب ہو جاؤ۔ وہ مزید قریب ہو گئے پھر تھر تھر کانپنے لگے تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا میں نے تمہیں معجزہ نہ کیا؟ کیا میں نے تمہیں ایمان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں رسول نہ بنایا؟ اس پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: بالکل ایسا ہی ہے لیکن میں تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔

## حقوق کی فکر:

﴿9709﴾... حضرت سیدنا مبارک بن سعیدؒ علیہ رحمۃ اللہ النبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے بھائی حضرت سیدنا

سفیان بن سعید ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کو تحفے میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے شام تک روکے رکھا، میں نے آکر عرض کی: گھر والوں کو حلوے کی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا: میں یاد کر رہا ہوں کہ اس میں کتنے حقوق ہیں۔ ﴿9710﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن سعید ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیّدنا موسیٰ کَلِیْمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار عطا فرما کہ میں تجھے دیکھوں۔“ تو فرشتوں نے کہا: اے کمزور عورتوں کے بیٹے! آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔

## سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کے تفسیری اقوال

﴿9711﴾... حضرت سیّدنا عثمان بن زائدہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے قرآن مجید میں بیان کردہ (حضرت سیّدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کے) قول: لَیْسَ لَیَّ قَلْبِیْ ط (پ ۳، البقرة: ۲۶۰) ترجمہ کنز الایمان: کہ میرے دل کو قرار آجائے۔

کی تفسیر میں فرمایا: یعنی تیرا غلیل ہونے پر میرا دل مطمئن ہو جائے۔

﴿9712﴾... حضرت سیّدنا زافر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کہتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان:

لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (پ ۱۳، النحل: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے۔ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: اس طرح کہ شیطان انہیں کسی نہ بخشنے جانے والے گناہ پر ابھار نہیں سکتا۔

## اللہ عَزَّوَجَلَّ جسم و جسمانیت سے پاک ہے:

﴿9713﴾... حضرت سیّدنا محمد بن حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

کُلُّ شَیْءٍ ہَا لَکَ اِلَّا وُجْہُ ط (پ ۲۰، القصص: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: یہاں ”وُجْہُ“ سے چہرہ مراد نہیں ہے۔

﴿9714﴾... مؤنّس بن اسماعیل کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان:

يَسْبُوْكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

ترجمہ کنز الایمان: کہ تمہاری جانچ جو تم میں کس کا کام زیادہ

اچھا ہے۔

(پ: ۲۹، المائد: ۲)

کی تفسیر میں فرمایا: مراد دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے۔

تقدیر غالب آگئی:

﴿9715﴾... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

رَبِّاَ غَلَبَتْ عَلَیْنَا شَفَوْنَا

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی غالب

آئی۔

(پ: ۱۸، المؤمنون: ۱۰۶)

کے تحت فرمایا: یعنی تقدیر غالب آگئی۔

﴿9716﴾... حضرت سیدنا ضمرہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اللہ

عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿۱۰﴾ (پ: ۳۰، الطارق: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی خاندانی قوت ہو گی نہ کوئی اتحادی مددگار۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ پر سلامتی کا نزول:

﴿9717﴾... حضرت سیدنا ابو عاصم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی

نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان ویشان:

وَسَلِّمْ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ﴿۱۹﴾ (النمل: ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔

کے تحت فرمایا: یہاں مراد حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ہیں۔

﴿9718﴾... حضرت سیدنا ضمرہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اللہ

عَزَّوَجَلَّ کے فرمان عالیشان:

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے حضور گزر گئے ہیں۔

وَكَانُوا النَّاسِخِصِينَ ﴿١٤﴾ (پ: ۱۴، الانبیاء: ۹۰)

کے تحت فرماتے ہیں: گزر گزائے سے مراد دل میں ہمیشہ رہنے والا خوف ہے۔

## رب تعالیٰ کی عطائیں:

﴿9719﴾... حضرت سیدنا محمد بن حمید علیہ رحمۃ اللہ النجید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی اس فرمان باری تعالیٰ:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں  
ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے  
نیوکار تھے۔

إِنَّ السَّاقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ اخذِينَ  
مَا أَلَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ  
مُحْصِنِينَ ﴿١٦﴾ (پ: ۱۶، ۱۵، الذاریت: ۱۵، ۱۶)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: عطائیں لینے سے فرائض کا ثواب لینا مراد ہے اور نیوکار سے مراد بے نقلی عبادت  
کرنے والے۔

## جنتیوں کی شان و شوکت:

﴿9720﴾... حضرت سیدنا عبید بن سعید اشجعی علیہ رحمۃ اللہ الثوری سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ  
رحمۃ اللہ القوی اس آیت طیبہ:

وَإِذَا مَرَّ آيَتٌ ثُمَّ رَأَيْتَ نَجِيًّا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے  
(پ: ۲۰، الدھر: ۲۰)

کے تحت فرماتے ہیں: ایسی شان و شوکت والی سلطنت کہ فرشتے بھی اجازت لے کر آئیں گے۔

﴿9721﴾... حضرت سیدنا اشجعی علیہ رحمۃ اللہ الثوری کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی  
قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ:

دَعَا لَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ  
ترجمہ کنز الایمان: ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے  
پاکی ہے۔ (پ: ۱۰، یونس: ۱۰)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: جب کوئی جنتی شخص کچھ مانگنا چاہے گا تو ”سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ“ کہے گا اور مطلوبہ شے

اس کے پاس پہنچ جائے گی۔

## دائمی خوف والے دل:

﴿9722﴾... حضرت سیدنا بشر بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفُؤَادِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ نِشَان:

يَدْعُوْنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا النَّاشِئِينَ ﴿٩٠﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑگڑاتے ہیں۔ (پ: ۱، الانبیاء: ۹۰)

کی تفسیر میں فرمایا: مطلب یہ کہ ہمارے انعام کی امید اور ہمارے عذاب کے خوف سے ہمیں پکارتے تھے اور اُن کے دل میں ہمیشہ رہنے والا خوف ہے۔

﴿9723﴾... حضرت سیدنا مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے اِس فرمانِ باری تعالیٰ:

لَا تُكِدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى صَاصِعَعَابَةٍ  
أَرْوَا جَانِبَهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
ترجمہ کنز الایمان: اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برسنے کے لئے دی ہے جتنی دنیا کی تازگی۔ (پ: ۱۶، طہ: ۱۲۱)

کے تحت فرمایا: اِس میں رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تسلی دی گئی ہے۔

## بڑی گھبراہٹ:

﴿9724﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد حَفْصَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے قرآن کریم کی آیتِ مبارکہ:

لَا يَخْرُجُ لَهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ  
ترجمہ کنز الایمان: انھیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ (پ: ۱۴، الانبیاء: ۱۰۳)

کی تفسیر میں فرمایا: جب آگ جہنمیوں کو ڈھانپ لے گی۔



## چوری چھپے کی نگاہ:

﴿9725﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید بن حنیس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

يَعْلَمُ حَاقِمَةُ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ (پ ۲۳، المؤمن: ۱۹)

کے تحت فرمایا: کوئی شخص لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو اور وہاں سے کوئی عورت گزرے تو وہ اُسے چوری چھپے دیکھتا ہے یوں کہ اگر لوگ اُسے عورت کو دیکھتا دیکھیں تو وہ نہیں دیکھتا اور اگر لوگ اُسے نہ دیکھیں تو وہ دیکھتا ہے، یہ ہے چوری چھپے کی نگاہ۔ اور ”سینوں میں چھپے“ سے مراد وہ شہوت ہے جو وہ اپنے دل میں پائے۔ ﴿9726﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اس آیت طیبہ:

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا ترجمہ کنز الایمان: دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۷)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما رہا ہے: آپ سے پہلے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو جس قوم نے بھی نکالا ہم نے اپنے دستور کے مطابق انہیں ہلاک کر دیا۔

﴿9727﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اس فرمان والا بتا رہے ہیں: يَعْزِلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ترجمہ کنز الایمان: جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ (پ ۴، آل عمران: ۱۲۹)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کے لئے چاہے بڑا گناہ معاف فرما دے اور جس کے لئے چاہے چھوٹے گناہ پر عذاب دے۔

## بردباری سے کینے کا علاج:

﴿9728﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے فرمایا: زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو سخت کرتا ہے، کینہ کو بڑو بردباری سے دبا دو اور زیادہ نہ ہنسو کہ یہ دلوں کو ناگوار گزرتا ہے۔

﴿9729﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہم نے ایسے بدمعاش و شریر لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی مروت کی حفاظت اس دور کے اہل علم سے زیادہ کرتے ہیں۔

﴿9730﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: دنیا میں جینچنے والی مصیبتوں میں لوگوں کا کیا نقصان ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں جنت دے کر ہر مصیبت کی تلافی فرما دے گا۔

## حسنِ ادب کا کمال:

﴿9731﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: منقول ہے کہ حسنِ ادب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔

﴿9732﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: جو دنیا سے محبت کرتا اور اس پر خوش ہوتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف نکال دیا جاتا ہے۔

## بہترین اور بدترین لوگ:

﴿9733﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: پہلے دین میں حکمرانوں کے نزدیک بہترین، معزز اور منظور نظر افراد وہ ہوتے تھے جو ان کے پاس جا کر انہیں نیکی کا حکم کرتے اور بُرائی سے منع کرتے تھے اور جو گھروں میں رہتے وہ ان کے نزدیک ایسے نہ تھے لہذا انہیں کوئی مرتبہ دیا جاتا نہ ان کا تذکرہ ہوا کرتا۔ پھر ہمارا دور آیا کہ اب حکمرانوں کے پاس جا کر انہیں نیکی کا حکم کرنے اور بُرائی سے منع کرنے والے بدترین لوگ ہو گئے اور جو اپنے گھروں میں پڑے رہیں اور یہ فریضہ ادا کرنے ان کے پاس نہ جائیں وہ بہترین لوگ ہو گئے۔

﴿9734﴾... حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ساتھ تھا، ہم بیری کھانے کے لئے بیٹھے تو ایک شخص نے کھانے پر پانی طلب کیا، حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: سری پر پانی پینا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے بھی پانی طلب کیا تو اُس شخص نے کہا: ابو عبد اللہ! کیا آپ نے ابھی یہ نہیں فرمایا کہ ”سری پر پانی پینا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔“ اس پر ارشاد فرمایا: جو جس شے سے بچتا ہے اسی میں جا پڑتا ہے۔

## عازم حج کو خاص نصیحت:

﴿9735﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن محمد باہلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی کے پاس آکر کہا: میرا حج کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اس سفر میں اپنے کسی عزیز دوست کی صحبت اختیار نہ کرنا کیونکہ اگر تم نفقہ (خرچ) میں اس کے برابر ہو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اگر اس کا نفقہ تم سے زیادہ ہو گا تو وہ تمہیں ذلیل کرے گا۔

﴿9736﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: سفید یا پیلا حلہ کھایا کرو چاہے تم حالت احرام میں ہو یا نہ ہو۔

## خود کو خوش رکھو:

﴿9737﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن ییمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی نے فرمایا: اسلاف کرام تو گھٹی کی طرح نرم اور شہد کی طرح ٹھٹھے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کسی شخص کی عیادت کے لئے گئے، آپ نے اس کے گھر والوں سے فرمایا: اس کے ساتھ نرمی کرو اور اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ پھر فرمانے لگے: ہمارے اسلاف خود کو خوش رکھنا پسند کرتے تھے۔ میں نے انہیں یہ بھی فرماتے سنا: مجھے ایسا شخص اچھا لگتا ہے کہ اگر اللہ تَعَالٰی اُسے کثادگی (دوستی) عطا فرمائے تو وہ اپنے اوپر کثادگی کرے۔ ایک بار آپ کو یہ فرماتے سنا کہ اگر تمہیں کسی قاری (علم والے) سے کوئی کام ہو تو اسے کھانا کھلا دو۔

## رزقِ حلال کے لئے سفر:

﴿9738﴾... حضرت سیدنا عبد الرزاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْبِی نے اہل یمن کے پاس 40 روز قیام کیا پھر ہم آپ کے ہمراہ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ ایک دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ اپنے عصا پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے: ابو عبد اللہ! آپ کے یمن جانے پر لوگوں نے آپ کو بُرا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا: انہوں نے بے عیب کو عیب لگایا، رزقِ حلال کا حصول

ضروری تھا میں اسی کے لئے گیا تھا۔

﴿9739﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا دانیال عَلَیْہِ السَّلَام کو درندوں کے ساتھ کنوئیں میں ڈالا گیا تو آپ بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: اے میرے معبود! ہماری قوم کی شرمندگی و عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص (بخت نصر) کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔

### کوٹانی عابد کی نصیحت:

﴿9740﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: میں کوفہ کے ”کوٹانی“ نام کے عبادت گزار کو 20 سال سے تلاش کر رہا تھا مگر ان تک پہنچ نہ سکا۔ ایک دن میں فرات کے کنارے سے گزرا تو وہاں چند لوگ مٹی سے کچھ بنانے میں مصروف تھے، ان میں سے ایک شخص با آواز بلند ”اے کوٹانی! اے کوٹانی!“ کہنے لگا تو میں نے بھی آواز لگائی: ”اے کوٹانی!“ تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے: تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں سفیان ثوری ہوں۔ وہ بولے: تمہیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا: مجھ سے کچھ بات کیجئے۔ انہوں نے کہا: سفیان! ہم ہر خیر کی امید اپنے رب تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ کا ہمیں کسی شے سے منع کر دینا بھی ہمارے لئے ”عطا“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر وہ چلے گئے۔

### درہم و دینار سے نفرت رکھو:

﴿9741﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے ایک نیک شخص نے بتایا کہ میں نے خواب میں سیاہ و سفید بالوں والی ایک بڑھیا دیکھی جو ہر قسم کے زیور سے آراستہ تھی۔ میں نے اُس سے کہا: تُو کون ہے؟ اس نے کہا: میں دینا ہوں۔ میں نے کہا: میں تیرے شر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بولی: اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں میرے شر سے پناہ عطا فرمائے تو تم درہم و دینار سے بغض و نفرت رکھو۔

﴿9742﴾... حضرت سیدنا محمد بن یزید بن خُثَیْنَس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَلٰی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس اُمّت کے لئے ہدایت کا معاملہ پیش فرما جس میں تیرے دوست کو عزت دی جائے، تیرے دشمن کو ذلیل کیا جائے اور تیری فرمانبرداری اور رضا والے اعمال کئے جائیں۔“ پھر آپ سانس لے کر فرماتے: کتنے ہی مومن بندے دینی غصہ کے سبب مر چکے۔

## جہاد کے ساتھ دیگر فرائض:

﴿9743﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن داؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کا ذکر کیا تو گویا اُن پر ایک طرح سے ترک جہاد کا عیب لگاتے ہوئے فرمایا: یہ عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ ہیں جو اُن سے عمر میں زیادہ ہونے کے باوجود جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ سے عرض کی: اُن کے جہاد میں شریک نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے بتایا: وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اب جہاد میں شرکت کرنے والے دیگر فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں۔“

﴿9744﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔

## لیڈری علم کے لئے نقصان وہ ہے:

﴿9745﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ نے فرمایا: جو شخص جلد سربراہ و لیڈر بن جاتا ہے وہ بہت سارا علم ضائع کرتا ہے اور جو سربراہ نہ بنے وہ علم پڑھتا اور پڑھاتا ہے یہاں تک کہ علم میں پختہ ہو جاتا ہے۔

﴿9746﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہو گا تو کہا جائے گا: ”اس کے گھر والے اس کی نیکیاں کھا گئے۔“

## آباد اولاد سے خمن سلوک:

﴿9747﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کے بیٹے سعید نے مجھ سے کہا: میرے والد کو میرا سلام دیجئے گا اور ان سے کہئے گا کہ وہ گھر آجائیں۔ میں جب مکہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ سے ملا تو آپ نے پوچھا: سعید کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا: نیک بچے نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پیغام دیا کہ آپ گھر آجائیں۔ یہ سنتے ہی آپ گھر جانے کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا: اگلے لوگوں کو نیکو کار اسی لئے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے آبا اور اولاد کے ساتھ بھلائی و نیک سلوک کیا تھا۔

## دل مردہ، جسم زندہ:

﴿9748﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: منقول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں دل مردہ اور جسم زندہ ہوں گے۔

﴿9749﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ خاموشی عالم کے لئے زینت اور جاہل کے لئے پردہ ہے۔

﴿9750﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں سے کچھ دور کر کے جو نعمت مجھ پر فرمائی وہ اُس نعمت سے افضل ہے جو اُس نے مجھے کچھ دے کر فرمائی۔

## عقل کی نیند و بیداری:

﴿9751﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: منقول ہے کہ خاموشی عقل کی نیند اور گفتگو اس کی بیداری ہے اور کوئی نیند بیداری کے بغیر اور کوئی بیداری نیند کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

﴿9752﴾... حضرت سیدنا حفص بن غیاث رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہمیں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی مجلس میں دنیا سے دوری پر صبر آ جاتا تھا۔

﴿9753﴾... حضرت سیدنا علی بن قادم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: اے لوگو! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو کیونکہ دنیا کچھ ہی وقت کی ہے اور عقلمند بھی پکڑا جاتا ہے۔

﴿9754﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا علی بن حسن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ہر جگہ بچ بولو، جھوٹ اور خیانت سے بچو اور جھوٹوں اور خائنوں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔

اے میرے بھائی! قول و فعل میں ریاکاری سے بچو کیونکہ یہ حقیقت میں شرک (خفی) ہے۔ خود پسندی سے بچو کیونکہ جس نیک عمل میں خود پسندی شامل ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اپنا دین اسی سے سیکھو جو اپنے دین کی فکر کرنا ہو کیونکہ اپنے دین کی فکر نہ کرنے والے کی مثال اس طلیب جیسی ہے جسے کوئی بیماری ہو اور وہ اپنا علاج کر سکے نہ اپنے آپ سے ہمدردی کر سکے تو پھر وہ لوگوں کے مرض کا علاج اور اُن سے ہمدردی کیونکر کر سکے گا؟

پس ایسا شخص جسے اپنے دین کی فکر نہ ہو وہ تمہارے دین کی فکر کیسے کرے گا؟

اے میرے بھائی! بے شک تمہارا دین تمہارے گوشت اور خون کی طرح ہے، اپنی جان پر آنسو بہاؤ اور اس پر رحم کرو کہ اگر تم اس پر رحم نہ کرو گے تو اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کرے اور آخرت کی رغبت دلائے اور ایسے دنیا داروں کے پاس مت بیٹھو جو دنیاوی باتوں میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تمہارے دین اور دل کو بگاڑ دیں گے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو اور اپنے گزشتہ گناہوں پر کثرت سے استغفار کرو اور اللہ ﷻ سے اپنی آئندہ زندگی کے لئے سلامتی کا سوال کرو۔

اے میرے بھائی! تم اچھا ادب اور اچھے اخلاق اختیار کرو اور جماعت کی مخالفت ہرگز نہ کرنا کیونکہ بھلائی جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے، مگر اس کی مخالفت کرو دنیا میں منہمک ہے کیونکہ وہ ایک گھر آباد کرنے اور دوسرا برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جو بھی مومن بندہ تم سے اپنے دینی معاملے میں نصیحت کا طالب ہو اسے نصیحت کرو اور جو کوئی بھی تم سے رضائے الہی والے معاملے میں مشورہ مانگے تو نصیحت کی کوئی بات اس سے نہ چھپاؤ۔ کسی بھی مومن کے ساتھ خیانت نہ کرو کیونکہ جس نے کسی مومن کے ساتھ خیانت کی اس نے اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ خیانت کی۔ اگر تم اللہ ﷻ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو تو اس کے لئے اپنا جان و مال قربان کر دو۔ دشمنی، جھگڑے اور عداوت سے دور رہو ورنہ تم بڑے ظالم، دھوکے باز اور گنہگار ہو جاؤ گے۔ ہر جگہ صبر سے کام لو کیونکہ صبر نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور شدت و غصے سے بچو کیونکہ یہ دونوں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔

عالم سے بحث و مباحثہ اور جہت بازی ہرگز نہ کرنا ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، بے شک علما کا اختلاف رحمت اور ان سے علیحدگی میں اللہ ﷻ کی ناراضی ہے۔ بے شک علما انبیائے کرام علیہم السلام کے خزانچی اور ان کی وراثت (علم) کے مالک ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اللہ ﷻ دنیا کے راز تم پر کھول دے گا۔ پرہیز گاری اختیار کرو اللہ ﷻ تمہارے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ شک میں ڈالنے والی بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر شک میں نہ ڈالنے والی چیزیں اختیار کرو و تم سلامت رہو گے اور یقین کے ذریعے شک کو دور کر دو تمہارا دین سلامت رہے گا۔ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اللہ ﷻ کے محبوب بن جاؤ گے اور فاسقوں کو ناپسند

جانو اس سے تم شیاطین کو بھگا دو گے۔

دنیا ملنے پر ہنسی اور خوشی تم کرو بارگاہ الہی میں تمہاری قوت بڑھے گی، آخرت کے لئے عمل کرو اللہ عزوجل دنیا کے معاملے میں تمہیں کافی ہو جائے گا، اپنی خلوت کو اچھا کرو اللہ عزوجل تمہاری جلوت کو اچھا کر دے گا، اپنی خطا پر آنسو بہاؤ رفیق اعلیٰ والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ غافل نہ ہونا کہ اللہ عزوجل تم سے غافل نہیں ہو تا اور اس کے تم پر بہت سے حقوق اور اس کی جانب سے کافی پابندیاں ہیں جنہیں ادا کرنا تم پر لازم ہے لہذا ان سے ہرگز غافل مت ہونا کہ اللہ عزوجل تم سے غافل نہیں اور روز محشر تمہیں ان کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر کسی دنیاوی کام کا ارادہ ہو تو غور کر لو، اگر اسے اپنی آخرت کے موافق پاؤ تو کر گزرو ورنہ اس کام سے زکے رہو یہاں تک کہ دیکھ لیا جائے کہ کسی نے وہ کام کیا تھا تو کس طرح؟ اور اس نے اس سے نجات کیسے حاصل کی؟ اور اللہ عزوجل سے عافیت کا سوال کرو اور اگر کسی اخروی کام کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے کہ شیطان تمہارے اور اس کام کے بیچ رکاوٹ بنے تم جلد اس کام کو انجام دے دو۔ زیادہ کھانے والے مت بننا ورنہ تم جتنا کھاؤ گے اتنا کام نہ کر سکو گے اور یہ ناپسندیدہ ہے اور نیت و بھوک کے بغیر بھی نہ کھاؤ اور اپنے پیٹ کو ہرگز نہ بھرنا ورنہ تم بے جان لاش کی طرح پڑے رہو گے اور اللہ عزوجل کا ذکر نہ کر سکو گے۔ رنج و غم کثرت سے کرو کیونکہ مومن اپنے نانہ اعمال میں سب سے زیادہ رنج و غم کی بنیادیں پائے گا۔ دوسروں کے مال میں لالچ سے بچو کیونکہ لالچ دین کو برباد کرنے والی شے ہے، خواہش سے بچو کہ یہ دل کو سخت کرتی ہے، دنیا کی حرص سے بچو کیونکہ یہ بروز قیامت لوگوں کو رسوا کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ دل اور جسم کو خطاؤں اور گناہوں سے، ہاتھوں کو ظلم سے، دل کو کینہ، دھوکا دہی اور خیانت سے اور پیٹ کو حرام سے پاک رکھنے والے بن جاؤ کیونکہ حرام سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں سے اپنی نگاہوں کو باز رکھو، بلا ضرورت چلنے بلا حکمت بات کرو اور اس شے کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ جو تمہاری نہیں۔

اپنی باقی ماندہ عمر کے بارے میں خوف و غم رکھو، تم نہیں جانتے کہ آئندہ زندگی میں تمہارے دین کے معاملے میں کیا نئی چیز پیدا ہو جائے۔ خود کو کسی امانت کا نگہبان مت بناؤ، تم امانت کی نگہبانی کیسے کر سکتے ہو جبکہ (قرآن کریم میں) اللہ عزوجل نے تمہیں ”كَلُمًا جَهْلًا“ یعنی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بنا دیا۔ (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۲)

فرمایا ہے اور تمہارے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس میں برقرار نہ رہ پائے اور امانت اٹھانے



والے دن کو پورا نہ کر پائے تھے کہ لغزش واقع ہو گئی<sup>(۱)</sup>۔ غلطیاں کم کرو، عذر قبول کرو اور خطا کو معاف کر دو پس ایسے ہو جاؤ جس سے خیر کی امید اور اس کے شر سے امان ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی بھی فرمانبردار بندے سے نفرت نہ کرو، ہر عام و خاص کے لئے رحمدل ہو جاؤ، رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کرو، جو رشتہ دار تم سے توڑے تم اس سے جوڑو اور ان سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے قطع تعلقی کرے اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، یوں تم انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور شہدائے عظام کے رفیق بن جاؤ گے۔

بازار کم جایا کرو کیونکہ بازار والے کپڑے پہنے ہوئے بھینے ہیں اور وہاں شریر جنات اور سرکش انسان ہوتے ہیں، جب تم بازار جاؤ تو تم پر نیکی کا حکم اور بُرائی سے منع کرنا لازم ہے اور وہاں تم بُرائی ہی دیکھو گے لہذا تم اس سے کنارہ کشی کرو اور یہ دعا پڑھو: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسَنُ يُخَيِّئُ وَيُيَسِّرُ يَسِدُّ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے حمد ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، ہر بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور بُرائی سے بچنے کی قوت بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ”ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ”یہ دعا پڑھنے والے کے لئے بازار میں موجود ہر عجمی اور عربی کے حساب سے ۱۰ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“ اور تم بازار جاؤ تو وہاں بیٹھو نہیں بلکہ کھڑے کھڑے اپنا کام نمٹاؤ تمہارا دین سلامت رہے گا۔

درہم کو خود سے دور نہ ہونے دینا کہ یہ تمہارے دل کو مضبوط رکھتا ہے، بیٹھے سے خود کو نہ روکنا کیونکہ یہ حلم میں اضافہ کرتا ہے، گوشت کھایا کرو مگر ہمیشہ نہیں اور نہ ہی 40 دن تک گوشت کا ناغہ کرنا اور نہ اس سے تمہارے

۱... اہلسنت وجماعت کے نزدیک انبیائے کرام کفر و شرک اور عداوتِ اگناہ کبیرہ اور ایسے ہی گناہِ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں۔ ہاں خطایا بھول کر ایسا صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شانِ نبوت میں فرق نہ آئے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام سے جو کچھ ہو اخطائے اجتہاد کی وجہ سے تھا مگر چونکہ نیکیوں کی بھلائیاں بھی مقررین کے درجے کے لحاظ سے برائیاں ہوتی ہیں اس لئے ان خطاؤں کو بھی وہ حضرات گناہ فرما دیتے ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں سے ان جملہ خطاؤں کی پرسش نہیں ہوتی لیکن ان کے بلند درجے کے لحاظ سے ان لغزشوں پر بھی عتاب آجاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔

(تفسیر نمبر ۱، پ، المرقۃ، تحت الایہ: ۱۰۳۶ / ۳۶۲)

اخلاق خراب ہو جائیں گے، خوشبو کو منع مت کرو کہ یہ عقل میں اضافہ کرتی ہے، مسور کی دال کھایا کرو یہ دل کو نرم اور آنسوؤں کو جاری کرتی ہے، گھر درالباس پہنو ایمان کی حلاوت پاؤ گے، کم کھایا کرو شب بیداری پر قادر رہو گے، روزے رکھا کرو کہ تم پر گناہ کا دروازہ بند اور عبادت کا دروازہ کھل جائے گا، گفتگو کم کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، طویل خاموشی اختیار کرو پر ہیز گاری پر قدرت پالو گے، دنیا کا لالچ مت کرنا اور نہ ہی حاسد بننا تمہاری ذہنی استعداد تیز ہو جائے گی، طعنہ زنی نہ کرو لوگوں کی زبانوں سے بچ رہو گے، رحم کرنے والے بنو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ رزق پر راضی رہو غنی ہو جاؤ گے، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل و بھروسہ رکھو طاقتور ہو جاؤ گے، دنیا داروں سے ان کی دنیا کے معاملے میں جھگڑنا نہ کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اہل زمین تم سے محبت کریں گے، تواضع کرنے والے بن جاؤ نیک اعمال کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو گے، جسم اور دل کے سکون کے ساتھ عمل کرو تم پر سکون اترے گا، سراپا معافی بن جاؤ اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے اور مہربان ہو کر شے تم پر مہربانی کرے گی۔

اے میرے بھائی! اپنے دن رات اور لمحات زندگی کو باطل گزرنے کے لئے مت چھوڑو، پیاس والے دن کے لئے اپنی سانسوں میں سے کچھ اپنے لئے آگے بھیجو کیونکہ قیامت کے دن رضائے الہی کے بغیر تمہیں سیرابی نہیں ملے گی اور تمہیں اُس کی رضا اطاعت و فرمانبرداری سے ہی حاصل ہوگی، کثرت سے نوافل ادا کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب پا لو گے، سخاوت کیا کرو عیبوں پر پردہ رہے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر حساب اور قیامت کی ہولناکیاں آسان فرما دے گا، بھلائی والے کام کثرت سے کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ قبر میں تمہاری وحشت دور فرمائے گا، تمام حرام کاموں سے بچو ایمان کی حلاوت پاؤ گے، متقی اور پرہیز گار لوگوں کے ساتھ بیٹھو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے دین کا معاملہ درست کر دے گا، اپنے دین کے معاملے میں خوفِ خدا رکھنے والوں سے مشورہ طلب کرو، نیکیوں میں جلدی کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے اور گناہوں کے درمیان آڑ پیدا فرما دے گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کثرت سے کرو وہ تمہیں دنیا سے بے رغبت بنا دے گا، موت کو یاد کرتے رہو اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر دنیا کا معاملہ آسان فرما دے گا، جنت کا شوق رکھو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے گا، جہنم سے ڈرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر مہاسب کو آسان فرما دے گا، اہل جنت سے محبت کرو قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہو گے، گناہ گاروں کو ناپسند جانو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں محبوب بنا لے گا، مومن زمین پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے گواہ ہیں، کسی بھی مسلمان کو گالی ہرگز نہ دینا، کسی بھی نیکی

کو ہرگز معمولی مت سمجھنا اور دنیا والوں سے ان کی دنیا کے بارے میں نہیں جھگڑنا۔

دیکھو، میرے بھائی! تمہارا سب سے پہلا کام تنہائی اور لوگوں کے درمیان اللہ عزوجل سے ڈرنا ہونا چاہیے اور اس شخص کی طرح اللہ عزوجل سے ڈرو جسے یہ یقین ہو کہ اُسے مرنا ہے، پھر اٹھنا اور میدانِ محشر میں جمع ہونا ہے اور پھر اللہ عزوجل کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تمہارے اعمال کا حساب ہو گا پھر دو میں سے ایک گھر ٹھکانا ہو گا یا تو نعمتوں سے معمور ہمیشہ والی جنت یا مختلف عذابوں سے بھرپور جہنم، جس میں ہمیشہ رہنا ہے اور موت نہیں اور اس شخص کی طرح اللہ عزوجل سے امید رکھو جو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل معاف بھی فرماتا ہے اور پکڑ بھی فرماتا ہے اور اللہ عزوجل ہی توفیق دینے والا ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں۔

## سَيِّدُ نَاسِ فَيَا نَ ثَوْرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي كِي مَرَوِيَات

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا کلام، آپ کے احوال، الفاظ اور مواعظ و نصائح کثیر اور وسیع ہیں اور ہمارے بیان کردہ اقوال و احوال کے علاوہ جو آپ کا کلام ہے اُس میں بھی عمل کرنے والے توفیق یافتہ لوگوں کے لئے فوائد موجود ہیں اور آپ سے مروی احادیث و روایات اس قدر ہیں جن کا شمار ممکن نہیں، آپ کی بعض احادیث و روایات کو پہلے کے بزرگوں اور علمائے جمع کیا ہے، ہم بھی یہاں آپ سے مروی بعض احادیث و روایات کو بیان کرتے ہیں۔

﴿9755﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے والے آقا، دو عالم کے و اتا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پڑی کسی کھجور کے پاس سے گزرتے تو ارشاد فرماتے: اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔<sup>(۱)</sup>

## آقا صل اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت:

﴿9756-57﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر روم آجاتا، آپ سے عرض کی جاتی: ”آپ ایسا کرتے

ہیں حالانکہ آپ تو بخشنے بخشنے ہیں؟“ تو ارشاد فرماتے: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟<sup>(۱)</sup>

﴿9758-59﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ نمازی اسے پوچھیں لیکن وہ ان سے اُن گناہوں پر خوش ہے جنہیں وہ حقیر و چھوٹا سمجھتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿9760﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی نے اپنی زوجہ سے جماع کیا اور اُس نے جلدی کی اور انزال نہ ہوا تو وہ غسل نہ کرے۔<sup>(۳) (۴)</sup>

## رحمت غضب پر غالب رہے گی:

﴿9761﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش کے نیچے بلند ایک کتاب میں یہ تحریر فرمایا: یہ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ ”میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔“<sup>(۵)</sup>

**ضامن اور امین:**

﴿9762﴾... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطانِ انبیاء، محبوبِ کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام ضامن ہے اور مؤمن امین ہے، اے اللہ! اماموں کو ہدایت عطا فرمایا اور مؤمنوں کی مغفرت فرما۔<sup>(۶)</sup>

①... مستند البزار، مستدرک ابن مالک، الإعمش عن ابی صالح، ۱۱۳/۱۶، حدیث: ۹۱۹۳

②... مسلم، کتاب حقیقة القيامة والجنة والنار، باب تحريض الشيطان... الخ، ص ۱۵۱، حدیث: ۳۸۱۲، عن جابر، بتغير قليل

مستند امام احمد، مستدرک ابی حنيفة، ۲۹۸/۳، حدیث: ۸۸۱۸

③... مستند البزار، مستدرک ابن مالک، الإعمش عن ابی صالح، ۱۱۵/۱۶، حدیث: ۹۱۹۶

④... مجہور کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سنن ترمذی کی اس حدیث پاک سے منسوخ ہے: ”إِذَا التَّقَى الْخَيْتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ جَبْ دُشْرَمِ كَاثِبِينَ طَلَسِ تَوَاشَلِ وَاجِبِ هـ“ (ترمذی، ۱۶۲/۱، حدیث: ۱۰۹۶) بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ متاخرین علمائے کرام اس کے منسوخ ہونے پر اجماع ہے۔ (حاشیة السندی علی ابن ماجہ، ۳۳۷/۱، تحت الحدیث: ۶۰۶)

⑤... ابن حبان، کتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ۵/۸، حدیث: ۶۱۱۰

⑥... ابوداود، کتاب الصلاة، باب ما يجب علی المؤمن من تعاهد الوقت، ۲۱۸/۱، حدیث: ۵۱۷

﴿9763-64-65﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## دو نمازوں کو جمع کرنا:

﴿9766﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: رحمتِ عالم، تُوْرُ مُجِسَّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت پر رخصت کا ارادہ کر کے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو مدینہ منورہ میں جمع فرمایا۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدنا محمد بن مُنْکَدِر سے مروی یہ حدیث غریب ہے اس میں حضرت سیدنا ربیع بن یحییٰ اُشْشَیْخُیْ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ متغرو ہیں۔ نمازوں کو جمع کرنے کے معاملے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے متعدد وجوہات کی بنا پر اختلاف کیا گیا ہے۔

﴿9767﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر کو جمع فرمایا حالانکہ نہ تو بارش تھی اور نہ ہی خوف کا معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

اس حدیث کے حوالے سے بھی حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔<sup>(۴)</sup> ﴿9768﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرتے دیکھا ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9769﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی سفر و خوف کے مدینہ منورہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ادا فرمایا۔<sup>(۶)</sup>

①...مسلم، کتاب القسامة والمحاربين، باب المجازاة بالدماء... الخ، ص ۹۲، حدیث: ۱۹۷۸

②...مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب من قال بجمع المسافرين الصلواتین، ۳۳۴/۲، حدیث: ۵، عن ابن عباس، بتفہیم قلیل

③...مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بین الصلواتین، ص ۳۵۹، حدیث: ۷۰۵

④...مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بین الصلواتین، ص ۳۵۹، حدیث: ۷۰۶

⑤...سنن کبریٰ بیہقی، کتاب الصلاة، باب الجمع فی المطربین الصلواتین، ۳/۳۷، حدیث: ۵۵۳۸، عن ابن عباس

﴿9770﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرتے دیکھا ہے <sup>(۱)</sup>۔ <sup>(۲)</sup>

اس حدیث کو حضرت سفیان ثوری سے روایت کرنے میں حضرت عثمان بن عمرو وَجْہُ اللہُ تَعَالٰی مُتَقَرَّرٌ وہیں۔ اس مسئلے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ القوی کی حجازیوں اور عراقیوں سے اور بھی بہت سی مختلف

۱... جمع بین الصلواتین (دو نمازوں کو جمع کرنے) سے متعلق احناف کا موقف: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ارشادات سے نماز فرض کا ایک خاص وقت جداگانہ مقرر فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے نماز کی صحت نہ اس کے بعد تاخیر کی اجازت، ظہرین (ظہر و عصر) عرف و عشاء مین (مغرب و مشا) مُزْدَلِج کے سوا دو نمازوں کا قصد ایک وقت میں جمع کرنا سفر (احزاب) سفر یا اجازت میں) ہرگز کسی طرح جائز نہیں۔ قرآن عظیم و احادیث صحابہ سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس کی ممانعت پر شاہد عدل ہیں۔ یہی مذہب ہے جید صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ دین و اکابر تبع تابعین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اجمعین کا۔ تحقیق مقام یہ ہے کہ جمع بین الصلواتین یعنی دو نمازیں ملا کر پڑھنا دو قسم (۱) ہے: جمع قطعی جسے جمع صوری بھی کہتے ہیں کہ واقع میں ہر نماز اپنے وقت میں واقع مگر ادائیں مل جائیں جیسے ظہر اپنے آخری وقت میں پڑھی کہ اس کے ختم پر وقت عصر آجیاب فوراً عصر اول وقت پڑھ لی، ہو سکتی تو دونوں اپنے اپنے وقت میں اور غلاً و صور تامل گئیں۔ اسی طرح مغرب میں دیر کی یہاں تک کہ شفق ڈوبنے پر آئی اس وقت پڑھی اور ہر فارغ ہوئے کہ شفق ڈوب گئی عشاء کا وقت ہو گیا وہ پڑھ لی، ایسا ملنا بعد از عرض و ضرورت سفر (یعنی عذر و سفر کی حالت میں) بلاشبہ جائز ہے ہمارے غلام نے کرام بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بارش، سفر یا کسی اور وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کو چاہنے کے پہلی کو آخر وقت تک مؤخر کر دے اور دوسری میں جلدی کر کے اول وقت میں ادا کرے، اس طرح دونوں کو جمع کر لے، تاہم ہوگی ہر نماز اپنے وقت میں۔ دوسری قسم جمع وقتی ہے جسے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اس جمع کے یہ معنی ہیں کہ ایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی جائے جس کی دو صورتیں ہیں: جمع تقدیم کہ وقت کی نماز مثلاً ظہر یا مغرب پڑھ کر اس کے ساتھ ہی متصلاً بفصل پچھلے وقت کی نماز مثلاً عصر یا عشاء پیشگی پڑھ لیں، اور جمع تاخیر کہ پہلی نماز مثلاً ظہر یا مغرب پڑھ کر اس کے بعد متصلاً خواہ منقطعاً اس وقت کی نماز ادا کریں گے، یہ دونوں صورتیں بحالت اختیار صرف فحاج کو صرف حج میں صرف عصر عرف و مغرب مُزْدَلِج میں جائز ہیں۔ ان کے سوا کبھی کسی شخص کو کسی حالت میں کسی صورت جمع وقتی کی اصلاح اجازت نہیں اگر جمع تقدیم کرے گا (۲) نماز تاخیر محض باطل و ناکارہ جائے گی جب اس کا وقت آئے گا فرض ہوگی نہ پڑھے گا ذرے پر رہے گی اور جمع تاخیر کرے گا تو گنہ گار ہوگا عہد امتناز قضا کر دینے والا ظہرے گا اگرچہ دوسرے وقت میں پڑھنے سے فرض سرے اُتر جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ ”خرجہ“ ۵/ ۱۶۳ تا ۱۶۴)

۲... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب الجمع بین الصلواتین، ص ۳۵۶، ۳۵۷، حدیث: ۵۰۵

روایات ہیں مگر ہم بیان کردہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

## بھوکے بھڑیوں سے زیادہ نقصان دہ:

﴿9771-72﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ معلم کائنات، شاہ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دو بھوکے بھڑیے اگر بکریوں کے درمیان چھوڑ دیئے جائیں جن کے مالک ان سے غافل ہوں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شہرت اور مال کی طلب مسلمان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿9773﴾... حضرت سیدنا اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دو بھوکے بھڑیے بکریوں کے ریوڑ میں پوری رات انہیں چیر پھاڑ کر کھاتے رہیں تب بھی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال و دولت اور شہرت کی طلب انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

## زبانِ کریم سے کبھی ”لا“ نہ سنا گیا:

﴿9774﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کبھی ایسا نہ ہوا کہ مالک کون و مکان، والی انس و جان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے ”نہ“ فرمایا ہو۔<sup>(۳)</sup>

﴿9775﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نیند موت کی بہن ہے اور جنتی سوئیں گے نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## خیر خواہی کا فائدہ:

﴿9776﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کا پیٹ بھرنا اور اس کی

۱... ترمذی، کتاب الزہد، باب ۳، ۱۶۶/۲۳، حدیث: ۴۳۸۳، عن کتاب الاقتصاری۔ معجم اوسط: ۱/۲۴۶، حدیث: ۷۷۷

۲... معجم صغیر، ۶۱/۲، حدیث: ۹۳۴

۳... مسلم، کتاب الفضائل، باب مسائل رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم... الخ، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۳۱۱

۴... معجم اوسط، ۱/۲۶۶، حدیث: ۹۱۹

تکلیف دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿9777﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سُلْطَانُ الْأَذْكِيَا، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اُس کے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9778﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی

عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9779﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی

عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر آدمی اپنے رزق سے ایسے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تب بھی رزق اسے

پہنچ کر رہے گا جیسے موت اسے آکر رہتی ہے۔<sup>(۴)</sup>

**نظرِ گناہِ برحق ہے:**

﴿9780﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ دوعالم، نبیِ مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نظرِ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9781﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غریبوں کے غمگسار آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروزِ قیامت مسلمان فقر الماروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور

یہ اُس دن کا نصف ہو گا۔<sup>(۶)</sup>

﴿9782﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے کسوں کے مددگار، شَفِیعِ روزِ شمار

صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بندِ مومن کے دین اور جان و مال پر بلائیں آتی ہی رہتی ہیں حتیٰ کہ جب

①... جمع الجوامع، ۱۵۰/۳، حدیث: ۷۹۳۶

②... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۳۲۱/۷، حدیث: ۱۰۵۱۲

③... ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی فضل السجور، ۱۶/۴، حدیث: ۷۰۸، عن انس

④... تاریخ ابن عساکر، ۳۳/۵، رقم: ۱۸، احمد بن علی بن الحسن بن محمد

⑤... تاریخ بغداد، ۳۳۳/۹، رقم: ۳۸۱۸، شعب بن ایوب بن رزین

⑥... ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء ان الفقراء المهاجرين... الخ، ۱۵۸/۳، حدیث: ۲۳۶۰



وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا۔“ (۱)

## بہترین اور بڑی صفیں:

﴿9783﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی اور بڑی آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بڑی پہلی ہے۔ (۲)

﴿9784﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ نکی مدنی سرکار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میرے نام اور کنیت کو جمع نہ کرو، میں ابو القاسم ہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں (۳)۔ (۴)

## غلاموں کے حقوق:

﴿9785-86﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شاہِ بنی آدم، رسولِ مُحْتَشَم صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اس پر اس قدر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ (۵)

①... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ۱/۹۷، حدیث: ۲۳۰۷، دون قولہ: دینہ

②... مسلم، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... الخ، ص ۲۳۲، حدیث: ۴۳۰

③... یعنی ابو القاسم محمد یا ابو القاسم احمد نام نہ رکھو، مگر یہ حکم پہلے تھا بعد میں اس کی اجازت عطا فرمادی تھی۔ چنانچہ، مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت حضور کی حیات شریف میں تھی بعد وفات ہر طرحت اجازت ہے خواہ حضور انور کا نام رکھے یا آپ کی کنیت یا دونوں جمع کر دے کہ نام رکھے محمد، کنیت رکھے ابو القاسم، اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں یہ بی قول قوی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ یہ حکم حیات شریف میں تھا۔ (مرقات، اشعد) حضرت علی نے حضور کے بعد اپنے بیٹے کا نام محمد کنیت ابو القاسم رکھی جنہیں محمد ابن خنیفہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے حضور سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام محمد، کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہوں فرمایا تھا: ہاں۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/۲۰۶)

④... مستد احمد، مستدابی ہریرۃ، ۳/۳۸، حدیث: ۹۶۰۳

⑤... مسلم، کتاب الامان، باب اطعام المملوک... الخ، ص ۹۰۶، حدیث: ۱۶۶۴

﴿9787﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رُؤُفٌ رَحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے پیغمبر کا تخت سمندر کے اوپر ہے وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے (جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں)، اس کے نزدیک اُن میں سب سے بڑے درجے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9788﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ والا شہار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مریض کی عیادت کرنے گئے تو اسے تکیہ پر سجدہ کرتے دیکھا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تکیہ لے کر پھینک دیا، اُس نے نماز کے لئے ایک لکڑی لی۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُسے بھی اٹھا کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا: اگر طاقت ہے تو سجدہ زمین پر کرو ورنہ اشارے سے پڑھو اور سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکو۔<sup>(۲)</sup>

﴿9789﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پیٹ کے بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے۔<sup>(۳)</sup>

## سخاوت اور بخل کے درخت:

﴿9790﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوبِ کبریا، صاحبِ جود و سخا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

- ۱... مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، ۵/۸۶، حدیث: ۱۳۵۶۰
- ۲... آج کل بعض نمازی حضرات کرسی کے آگے لگی ہوئی تختی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، ایسوں کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ وہ اس کے شرعی احکام جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 34 صفحات پر مشتمل رسالہ ”کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام“ کا مکمل مطالعہ فرمائیں، اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نمازوں کی حفاظت کا سامان ہو گا۔
- ۳... سنن ترمذی للبیہقی، کتاب الصلاۃ، باب الاستسقاء بالروح والسنجود، ۲/۳۳۲، حدیث: ۳۶۶۹
- ۴... گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکلا اگر وہ زندہ ہے ذبح کر دیا جائے حلال ہو جائے گا اور مرنا ہوا ہے تو حرام ہے اس کی ماں کا ذبح کرنا اُس کے حلال ہونے کے لئے کافی نہیں۔ (بہارِ شریعت، حصہ ۱۵، ۳/۳۲۰ بحوالہ الدار المصنوع، کتاب الذبائح، ۱/۵۰) مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں: ہمارے امام اعظمؒ قدس سرہ کے نزدیک اگر بچہ زندہ نکلا اور اُسے ذبح کر لیا گیا تو حلال ہے ورنہ حرام۔ امام صاحب فرماتے ہیں: اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں، اگر صحیح ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیٹ کے بچہ کا اس کی ماں کی ذبح کی طرح ہے یعنی جیسے اس کی ماں کو حلقوم و رگوں کو کاٹ کر ذبح کیا جاتا ہے ایسے ہی اس کے بچہ کو ذبح کیا جائے گا۔ (مرآۃ الملاح، ۵/۱۶۵۳)

۵... ابوداؤد، کتاب الصحاح، باب ما جاء فی زکاة الجنین، ۳/۱۲۸، حدیث: ۲۸۸۸

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: سخاوت جنت میں ایک درخت ہے اور اس شاخیں دنیا میں ہیں تو جس نے اس کی کسی شاخ کو تھام لیا یہ اسے جنت میں کھینچ لے گی اور بغل جہنم میں ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں تو جس نے اس کی کسی شاخ کو پکڑ لیا یہ اسے جہنم میں کھینچ لے گی۔<sup>(۱)</sup>

﴿9791﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کے اس حکم میں مضبوط سسک کی طرح عمل کر گزروں یا پھر مشاہدہ کرنے والے کی طرح ہو جاؤں کہ وہ وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا (یعنی یا قیامت احوال کر لوں)؟ ارشاد فرمایا: مشاہدہ کرنے والا جو دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9792-93﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم وَجَّی اللہُ تَعَالٰی غنہ کی والدہ ماجدہ کے چچا زاد بھائی کے بارے میں کوئی نازیبا خبر ملی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے تلوار دے کر فرمایا: جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ میں اس تک پہنچا تو وہ کججو کے درخت پر تھا، مجھے دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور اس نے جھک کر اپنا کپڑا اٹھا دیا، دیکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا لہذا میں نے اُس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صورت حال عرض کی تو ارشاد فرمایا: تم نے اچھا کیا مشاہدہ کرنے والا جو دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔<sup>(۳)</sup>

### دودھ پلانے اور چھڑانے والی:

﴿9794﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان، مکی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عنقریب تم حکومت کی حرص کرو گے جبکہ یہ قیامت کے دن حسرت و شرمندگی ہوگی۔ دودھ پلانے والی (یعنی رعایا کو حقوق دینے والی حکومت) اچھی اور دودھ چھڑانے والی (یعنی رعایا کو محروم کرنے والی حکومت) بُری ہے۔<sup>(۴)</sup>

①... شعب الامان، باب فی الجود والسخاء، ۷/۳۳، حدیث: ۱۰۸۷۵، جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ

②... مستند امام احمد، مستند علی بن ابی طالب، ۱/۱۸۰، حدیث: ۶۲۸، بخاری

③... مستند البزار، مستند علی بن ابی طالب، ۲/۲۳۷، حدیث: ۶۳۳، مستند امام احمد، مستند علی بن ابی طالب، ۱/۱۸۰، حدیث: ۶۲۸

④... نسائی، کتاب اواب القضاء، باب النبی عن مسألة الامارة، ص ۸۵۲، حدیث: ۵۲۹۵

﴿9795-96﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس میں یہ پروا نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے؟<sup>(۱)</sup>

### مسجد میں جنازہ پڑھا جائے:

﴿9797﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کچھ (اجر) نہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿9798﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹیک لگائے ایک ٹانگ شریف دوسری پر رکھے ہوئے تھے۔<sup>(۳)</sup>

### پاکیزگی اور رضائے الہی کا ذریعہ:

﴿9799-9800﴾... ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ عزوجل کی رضا ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9801﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوکے والی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۵)</sup>

### نماز فجر کا افضل وقت:

﴿9802﴾... حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز فجر اجالے میں ادا کرو کیونکہ اس وقت اجر زیادہ ہے۔<sup>(۶)</sup>

۱... بخاری، کتاب البیوع: باب قول اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا... الخ، ۱۳/۲، حدیث: ۲۰۸۳

۲... ابو داود، کتاب الجنازہ، باب الصلاة فی الجنازة فی المسجد، ۲۷۸/۳، حدیث: ۳۱۹۱

۳... بخاری، کتاب الصلاة، باب قول الاستغفار فی المسجد، ۱۷۹/۱، حدیث: ۳۷۵، ”متکنا“ بذیلہ ”مستقیما“

۴... نسائی، کتاب الطہارة، باب التریغیب فی السواک، ص ۱۰، حدیث: ۵

۵... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۵۱۶/۲، حدیث: ۶۳۱۵

۶... معجم کبیر، ۲۵۱/۳، حدیث: ۳۲۹۳

﴿9803﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو والد ماجد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اسے عورت سے رجوع کرنے کا حکم دو پھر وہ اسے پاکی یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9804﴾... حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باہم قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، اللہ عزوجل کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، مومن سے قطع کلامی کی حد تین دن ہے، پھر اگر وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ عزوجل انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک وہ کلام کر لیں۔<sup>(۲)</sup>

## میت کی حرمت:

﴿9805﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردے کی ہڈی توڑنا گویا زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9806﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنوئیں کا زائید پانی روکنے سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۴)</sup>

## بیویوں کا ایک حق:

﴿9807﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام کیا اور فرمایا: تم اپنے شوہر کی نظروں سے انہری نہیں ہو، تم چاہو تو میں تمہارے پاس سات دن قیام کر لیتا ہوں اور اگر میں تمہارے پاس سات دن رہا تو دیگر

۱... مسلم، کتاب الطلاق، باب تحریم الطلاق... الخ، ص ۷۷۷، حدیث: ۱۴۷۱

۲... الکامل لابن عسّی، ۳۵۹/۵، رقم: ۹۷۹، عبد اللہ بن عبد العزیز

۳... ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب فی الخفاف یجد العظم، ۲۸۵/۳، حدیث: ۳۲۰۷

۴... تاریخ بغداد، ۳۳۸/۱۰، رقم: ۵۴۹۳، عبید اللہ بن ثابت

ازواج کے پاس بھی سات سات دن قیام کروں گا۔<sup>(۱)</sup>

## نابالغ بچے کا حج:

﴿9808﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے پاکی سے اپنے بچے کو اوپر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں عرض کی: کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہاں اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9809﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعِ اُمّت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے میرے لئے وسیلہ (جنت کا اعلیٰ ترین درجہ) طلب کرے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔<sup>(۳)</sup>

## حصولِ علم کے غلط مقاصد:

﴿9810﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد اللہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعِ اُمّت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے علم سے مقابلہ کرنے، جاہلوں سے جھگڑا کرنے یا لوگوں کا مال کھانے کے لئے علم حاصل کیا تو آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9811﴾... حضرت سیدنا نافع رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میں نے اُس سے نکاح کر لیا (تاکہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے) اور اُس نے مجھے حکم دیا تھا نہ میں نے اُسے بتایا تو آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: نہیں (یعنی حلالے کی نیت سے نکاح نہ کیا جائے) کہ نکاح تو رغبت (وگھر بسانے) کے لئے ہوتا ہے پھر اگر عورت راضی ہو تو نصہری رہے اور اگر راضی نہ ہو تو طلاق لے لے، رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے عہد مبارک میں ہم

①...مسلم، کتاب الرضاع، باب قدر ما یستحقہ... الخ، ص ۷۶۹، حدیث: ۱۴۶۰

②...مسلم، کتاب الحج، باب صحۃ الحج الصبی... الخ، ص ۶۹۷، حدیث: ۱۳۲۶

③...مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الدنا، باب ما ذکر فیمن سأل الوسیلۃ، ۹۶/۷، حدیث: ۱

④...ابن ماجہ، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۱۶۹، حدیث: ۲۶۰، بیغیر، عن ابی ہریرۃ

اسے (یعنی حلالے کی نیت سے نکاح کرنے کو) زنا شمار کیا کرتے تھے<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

﴿9812﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ ثناء اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: اللہ عزوجل کے رسول صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کو رات تک مؤخر فرمایا۔<sup>(۳)</sup>

## جھانکنے کی ممانعت:

﴿9813﴾... حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرماتھے اور اپنی داڑھی شریف میں کنگھی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر سوراخ سے اندر جھانکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کی جانب توجہ کی تو فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اندر دیکھ رہے ہو تو میں یہ کنگھی تمہاری آنکھ میں چھو دیتا۔ اجازت لینے کا حکم آنکھ ہی کی وجہ سے ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9814﴾... حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی نافرمانی میں کوئی ”نذر“ نہیں اور اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9815﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، ربؤف رَحیم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لئے سواونٹ لے کر آئے، ان میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جس کی ناک میں

سونے کا حلقہ تھا (یہ اونٹ غزوہ بدر کے مالِ غنیمت میں حاصل ہوا تھا)۔<sup>(۶)</sup>

①... ”نکاح یسْتَنْطِ التَّخْلِيلَ (حلالہ کے ساتھ نکاح) جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی وہ یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے زوجِ اَوَّل و ثانی (پیدا شوہر جس نے طلاق دی اور دوسرا جس سے نکاح کیا) اور عورت تینوں گناہگار ہوں گے مگر عورت اس نکاح سے بھی بشارتِ حلالہ شوہرِ اَوَّل کے لیے حلال ہو جائیگی۔ اور شرط باطل ہے۔ اور شوہرِ ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں۔ اور اگر عقد میں شرط نہ ہو اگرچہ نیت میں ہو تو کراہت اصلاً نہیں بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحبِ اَہر ہے۔“ (بہارِ شریعت، حصہ ۲، ۱۸۰/۲)

②... معجم اوسط، ۳/۳۶۱، حدیث ۶۲۳۶، بغیرِ قلیل

③... ابن ماجہ، کتاب الفناسک، باب زیارة البیت، ۳/۸۸، حدیث: ۳۰۵۹

④... قرطبی، کتاب الاستئذان، باب من اطلع فی دارہ۔ بغیرِ ازخم، ۳/۳۲۵، حدیث: ۴۷۱۸، طبعہ بدیلہ رأسہ

⑤... مسند امام احمد، حدیث عمر ابن بن حصین، ۴/۴۲۵، حدیث: ۴۰۰۵

⑥... ابن ماجہ، الفناسک، باب حجۃ رسول اللہ، ۳/۵۰۳، حدیث: ۳۰۷۱

﴿9816﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات پر عامل مقرر کیا تو انہوں نے حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معاون بنانا چاہا لہذا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابورافع! صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے اور کسی قوم کا غلام انہیں میں سے ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### دودھ کے رشتہ کی حرمت:

﴿9817﴾... حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیب البیاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو نب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

### مجاہد کی شان:

﴿9818﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت کو نین، دھکی دلوں کے جچن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کراما کا تین (اعمال لکھنے والے فرشتے) بنی آدم کے تمام اعمال شمار کر لیتے ہیں مگر راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی نیکیاں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ جو فرشتے اللہ عزوجل نے پیدا فرمائے ہیں وہ ایک ادنیٰ مجاہد کی نیکیاں شمار کرنے کے علم سے بھی عاجز ہیں۔<sup>(۳)</sup>

### حاجی کو زورِ راہ دینے کا ثواب:

﴿9819-20﴾... حضرت سیدنا زید بن خالد جُھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے غازی یا حاجی کو زورِ راہ دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے لئے اسی کی مثل اجر ہے اور اس کے اجر سے کوئی کمی نہیں

①... مستدامہ احمد، حدیث ابی رافع، ۹/۲۲۸، حدیث: ۲۳۹۲۳

②... مسلم، کتاب الرضاع، باب تحريم الرضاۃ من ماء الفحل، ص ۶۹، ۷۰، حدیث: ۱۳۳۵، دون قولہ: او ما علمت

③... جمع الجوامع، حرف الجیم، ۳/۱۷۷، حدیث: ۱۱۰۵۷



کی جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

﴿9821﴾... حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے داتا، غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مومن کو ظلماً قتل کرے تو اس کے دُشمن کو قصاص کا اختیار ہے، تمام مومن اسی پر قائم رہیں تو جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے حلال نہیں ہے کہ قاتل کو پناہ دے یا اس کی مدد کرے پس جس نے اسے پناہ دی یا اس کی مدد کی تو اس پر اللہ عزوجل، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول ہو گا نہ کوئی نفل۔<sup>(۲)</sup>

﴿9822﴾... حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس فرمانِ باری تعالیٰ:

وَفَقَّالِيْخَصْنِ عَلَيْهِمَ اِنَّ وَرَاقِ الْجَنَّةِ

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپانے لگے۔

(پ: ۸، الاعراف: ۴۲)

کی تفسیر میں فرمایا: وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔

## نہروان کا قصہ:

﴿9823﴾... حضرت سیدنا محمد بن قیس ہمدانی قدس سرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہروان کے دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا: ذوالشریہ (پستان نما تھوڑے والے خد جیوں کے پیشوا) کو ڈھونڈو لوگوں نے اسے ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا، آپ نے پھر فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! میں نے جھوٹ کہا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، اسے پھر تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں: اس بار ہم نے اُسے پانی کے ایک نالے (یا کہاں) ایک چھوٹی نہر میں پالیا، جب اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ سجدہ شکر بجالائے۔

﴿9824﴾... اُم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: گویا میں حضور نبی پاک، صاحب

۱... سنن کبیری للنسائی، کتاب الصیام، باب ثواب من فطر صائما، ۲/۲۵۶، حدیث: ۳۳۴۰

۲... مصنف عبد الرزاق، کتاب العقول، باب عند السلاح، ۱/۸۱، حدیث: ۱۷۵۰۳، مسند الشافعی، ومن کتاب جراح العمد، ص ۱۹۸

لولا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ حالتِ احرام میں تھے<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

﴿9826﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین، دیکھی دلوں کے چہین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اسے مصیبت زدہ کے برابر ثواب ملے گا۔<sup>(۳)</sup>

## 500 سال پہلے جنت میں:

﴿9826﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: غریبوں کے غمگسار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غریب مومن مالدار مومنوں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور یہ پانچ سو سال کی مدت ہے<sup>(۴)</sup>۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم صبح کا کھانا کھا لو تو کیا تمہارے پاس رات کا کھانا ہوتا ہے اور رات کا کھا کر صبح کے لئے کچھ ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم ان میں سے نہیں ہو۔ پھر دوسرے شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے وہ سنا جو ہم نے اس شخص سے کہا؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس ان پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ ستر چھپانے کے لئے کوئی کپڑا ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: تم ان میں سے نہیں ہو۔ پھر ایک اور شخص عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے وہ باتیں سنیں جو تم سے پہلے میں نے ان دو سے فرمائی ہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: جب تم قرض لینا چاہتے ہو تو کیا تمہیں قرض مل

①... احرام باندھتے وقت جو خوشبو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ بیدھ آپ کی مانگ شریف میں بعد احرام بھی باقی رہتی تھی گویا میں تھوڑے میں اب بھی اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بحالت احرام خوشبو لگانا حرام ہے مگر احرام سے پہلے کی خوشبو کا بقاء جائز ہے خواہ خوشبو کا جرم باقی رہے یا اثر، یہ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے اور یہ حدیث امام اعظم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی دلیل ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۱۰۲/۳)

②... مسند: کتاب الحج، باب الطیب للمحرم عند الاحرام، ص ۶۰۸، حدیث: ۱۱۹۰

③... ترمذی، کتاب الجناز، باب ماجاء فی اجر من عزی مصابا، ۳۲۸/۲، حدیث: ۱۰۷۵

④... ابن ماجہ، الزہد، باب من لے الفقراء، ۳۲۲/۳، حدیث: ۴۱۲۲

جاتا ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: تم ان میں سے نہیں۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: تم سے پہلے ہم نے جو باتیں ان تینوں سے فرمائی ہیں کیا وہ تم نے سن لیں؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: کیا تم اتنا کمانے پر قادر ہو جو تمہاری محتاجی دور کر دے؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: تم ان میں سے نہیں۔ پھر پانچویں صاحب کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے وہ سنا جو میں نے ان سب سے فرمایا؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: کیا تم صبح وشام اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہوتے ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: تم ان میں سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں وہ لوگ مومنوں کے سردار ہوں گے جو صبح کو کھائیں تو رات کا کھانا میسر نہ ہو اور رات کو کھائیں تو صبح کے لئے کچھ نہ ہو، اگر وہ قرض لینا چاہیں تو نہ ملے، جن کے پاس ستر چھپانے کے علاوہ کوئی اضافی کپڑا نہ ہو اور وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے کمانے پر قادر نہ ہوں مگر اس کے باوجود وہ صبح وشام اللہ عزوجل سے راضی ہوں۔ (انہی کے متعلق ارشاد ربانی ہے:)

قَالَ لِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿۵۶﴾ (پ: النساء: ۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا

ہی اچھے ساتھی ہیں۔ (۱)

﴿9827﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم، سرور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے پاس باری باری تشریف لے جاتے اور سب سے فراغت کے بعد ایک ہی غسل فرماتے۔ (۲)

آقاصَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی حیا:

﴿9828﴾... ائم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے کبھی بھی حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر نہ نہیں دیکھا (کیونکہ کبھی ظاہر نہ فرمایا)۔ (۳)

①... کتاب صفۃ الخلق للعقدس، ۳۶/۱، حدیث: ۱۶۸، شاملہ

②... الکامل لابن عدی، ۳۸۸/۸، رقم: ۲۰۶۶، یوسف بن اسباط

③... معجم اوسط، ۵۹۷/۱، حدیث: ۲۱۹۷

﴿9829﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُنم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کیا اور اس آزادی کو ان کا مہر بنا دیا<sup>(۱)</sup>۔

﴿9830﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے<sup>(۲)</sup>۔

﴿9831﴾... حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: تقدیر لکھی جا چکی، قلم خشک ہو گیا اور جو امور پیش آنے ہیں وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔

## جنت میں اُمتِ محمدیہ کی تعداد:

﴿9832﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت طیبہ:

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآلِیِّنَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِیِّنَ ﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: انگوٹوں میں سے ایک گرہ اور پچھلوں میں سے ایک گرہ۔

(پ ۲، الواقعة: ۳۹، ۴۰)

نازل ہوئی تو سرکارِ دو عالم، رَسُولِ مُحْتَشَمِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو، تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو، تم اہل جنت کا نصف حصہ ہو، تم اہل جنت کا دو تہائی حصہ ہو۔<sup>(۳)</sup>

۱... یعنی بجز آزادی کے اور کوئی مہر انہیں نہ دیا، یہ یا تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خصوصیات سے ہے کہ آپ پر ازواجِ کائنہ مہر واجب ہے نہ باری مقرر کرنا لازم، رب تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَنُكَحُّنَّ بِإِذْنِكَ عَنْ شَاءِ الْاٰیَةِ“ (۲۲، الاحزاب: ۵۱)۔ یا یہ مطلب ہے کہ مہر منجمل یعنی نکاح کا چڑھا دیا گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ فرمایا بعد میں مہر مثل دیا جیسا کہ اب بھی یہ ہی حکم ہے ورنہ عورت کا آزاد کرنا مہر نہیں بن سکتا، مہر مال ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: ”اَنْ تَكْتَبُوْا بِالْکَمِّ“ (۲۳، النساء: ۲۳) لہذا یہ حدیث نہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے نہ مذہبِ ائمہ کے خلاف۔ (مراۃ المناجیح: ۵/۷۴)

۲... بخاری، کتاب النکاح، باب من جعل عقی الامۃ، ۳/۲۲۷، حدیث: ۵۰۸۶

۳... امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یعنی ایسی کمائی جو وہ بدکاری کے ذریعے کرے ورنہ جائز کاموں کی کمائی جائز ہے اور اس کی وضاحت دیگر روایات سے ہوتی جہاں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: نَحْنُ یَعْلَمُ مِنْ اَیْنِ هُوَ یَسْتَحِلُّ یہاں تک کہ پتا چل جائے کہ وہ کمائی کہاں سے ہے۔ (فتح الباری، ۳/۶۵)

۴... معجم اوسط، ۶/۷۵، حدیث: ۸۰۵۲

۵... مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ، ۳/۳۲۳، حدیث: ۹۰۹۱

تفسیر قرطبی، پ ۲، سورۃ الواقعة، تحت الایۃ: ۱۳، ۱۴، ۱۵، دون قولہ: ثَلَاثَا اَہْلِ الْاٰیَةِ

## غیبی خبریں:

﴿9833﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اُس وقت حضور نبی مکرم، شَفِیعُ مُعَظَّم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 140 افراد کے ہمراہ چڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک تمہیں فتح دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں غنیمتیں دی جائیں گی لہذا تم میں سے جو یہ پائے اسے چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرے، بھلائی کا حکم دے اور بُرائی سے منع کرے اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔<sup>(۱)</sup>

## اپنی قوم کی ناحق مدد کرنے والے کی مثال:

﴿9834﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعُ اُمّت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرے اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جو کنویں میں گر جائے اور اسے ذمہ پکڑ کر نکالا جائے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9835﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن شداد رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”جس شے کو آگ نے چھو اُسے کھانے کے بعد وضو کیا جائے۔“ مروان نے کہا: ہم کسی سے کیوں پوچھیں جبکہ ہمارے درمیان رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ازواج اور ہماری مائیں موجود ہیں؟ پھر مروان نے مجھے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا کے پاس بھیجا، میں نے یہ بات ان سے پوچھی تو انہوں نے فرمایا: ”میرے پاس رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بلا وضو تشریف لائے، میں نے بڑی والا بھنا ہوا یا بازو کا گوشت پیش کیا تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور وضو نہ کیا۔“<sup>(۳)</sup>

۱... ترمذی، کتاب الفتن، باب: ۷۰، ۱۱۳/۲، حدیث: ۲۲۶۲، مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۶۱/۲، حدیث: ۳۸۰۱

۲... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۶۱/۲، حدیث: ۳۸۰۱

۳... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی مَرَاةُ الْمَنَاجِیْ، جلد 1، صفحہ 253 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: نہ وضو شرعی نہ لغوی یعنی ہاتھ دھونا بلکہ ہاتھ پونچھے بھی نہیں تاکہ معلوم ہو کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یا پونچھنا فرض یا واجب نہیں، سنت ہے جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔

۴... مصنف عبد الرزاق، کتاب الطہارۃ، باب من قال لا یوضا، ۱۳۰/۱، حدیث: ۶۴۳

## غنیمتوں کے مالک:

﴿9836﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے لئے اتنا اتنا مال غنیمت ہے اور جس نے کسی کافر کو قیدی بنایا اس کے لئے اتنا اتنا مال غنیمت ہے۔“ تو مسلمانوں نے 70 کافر قتل کئے اور 70 ہی قیدی بنائے۔ حضرت ابولیسر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قیدیوں کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ”جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے لئے اتنا اتنا مال غنیمت ہے اور جس نے کسی کافر کو قیدی بنایا اس کے لئے اتنا اتنا مال غنیمت ہے۔“ اور میں دو قیدی لے کر آیا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہمیں ثواب سے بے رغبتی نے روکا نہ ہی دشمن کے ڈرنے بلکہ ہم یہاں اس لئے ٹھہرے کہ کہیں مشرکین آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اگر آپ نے ان لوگوں کو دیا تو یہاں ٹھہرنے والوں کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ یوں ایک گروہ کچھ کہنے لگا اور دوسرا کچھ اور کہنے لگا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی:

يَسْكُوتُكَ عَنْ اِنَّا نَقَالُ قُلِ اِنَّا نَقَالُ  
 لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا  
 ذَاتَ بَيْنِكُمْ (پ: الانفال: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل (صلح منائی) کرو۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: یہ آیت نازل ہونے پر لوگوں نے مال غنیمت رسول کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (پ: الانفال: ۴۱)

پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول (کا ہے)۔<sup>(۱)</sup>

﴿9837﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

۱... مصنف عبد الرزاق، کتاب الجہاد، باب ذکر الخمس وسهم ذي القربى، ۱۶۲/۵، حدیث: ۹۵۳۶

۲... ابو داود، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی التختیم فی الیمین او الیسار، ۱۳۳/۳، حدیث: ۳۲۲۶، عن ابی سلمة

﴿9838﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جنت اوپر والے ساتویں آسمان میں ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ کہ تلاوت فرمائی:

إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٣٠﴾  
ترجمہ کنزالایمان: بے شک نیکوں کی کھت سب سے اونچے محلِ عِلِّيِّین میں ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9839﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم پڑھتے ہوئے دو جہروں کے پاس رُکے۔

**صحابہ کرام علیہم السلام کو گالی دینے والا لعنتی ہے:**

﴿9840﴾... حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ سرورِ کونین، دھکی دلوں کے چھین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9841﴾... حضرت سیدنا طلح بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: انہوں نے کیا کسی اور نے رسول پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا آلہ تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9842﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن زیادہ تر یہ دعا فرماتے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْخَلْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور تمام تعریفیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9843﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف

①... التبعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في موضع الجنة وموضع النار، ص ۲۶۵، حدیث: ۳۵۵

②... مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، باب ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي، ۵۵۰/۷، حدیث: ۱۶

③... مسند امام احمد، حدیث طلق بن علي، ۳۹۳/۵، حدیث: ۱۶۲۸۶

④... مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو، ۶۶۲/۲، حدیث: ۶۹۷۹

رَحِيمَ مَنِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو اذان سنے اس پر رحمہ واجب ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بعض محمد نامی راویوں کا تذکرہ:

سیدنا امام ابو نعیم زحّاقہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ زحّاقہ اللہ تعالیٰ نے ”محمد“ نام کے کئی حضرات سے مُسْتَد، مُرْسَل اور موقوف روایات کی ہیں، ہم یہاں اُن کی روایات ذکر کئے بغیر فقط ان کے اسمائے گرامی بیان کرنے پر اکتفا کریں گے، کوفہ سے تعلق رکھنے والے راوی یہ ہیں: ابو عامر محمد بن ابویوب ثقفی، محمد بن اسماعیل بن راشد شلمی، ابو جابر محمد بن یزید کندی، ابو سہل محمد بن سالم ہمدانی، محمد بن صُبَیْہ سَمَک، محمد بن عبد اللہ بُکاء، محمد بن ابان جُفَی۔ جو راوی کوفہ کے علاوہ ہیں وہ یہ ہیں: محمد بن سائب بن یزید کُحلی، ابو جعفر محمد بن مسلم بن مہران مُوَدّی، ابو جابر محمد بن سیف بصری، محمد بن واسع بن مُصَنِّج، محمد بن راشد مَکحولی، محمد بن عون خراسانی سَمُہ اللہ۔

﴿9844﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

إِن تَبْذَرُوا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَتَحَفَّوْا فِیْ حَاثِیْکُمْ  
یٰۤاَهْلَ اللّٰہِ (پ: ۳، البقرة: ۲۸۴)

ترجمہ کنزالایمان: اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

تو اس سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں ایسی بات داخل ہو گئی جو پہلے کسی شے سے داخل نہ ہوئی تھی تو کریم آقا، دو عالم کے داتا مَنِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو: ”سَبَعْنَا وَاطْعْنَا وَسَلَبْنَا یعنی ہم نے سنا، اطاعت کی اور تسلیم کیا۔“ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ مِنْ رَّبِّہٖ  
وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِکَتِہٖ  
وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ لَا نَقْرُبُۢ بِیْنِ اَحَدٍ  
مِّنْ رُّسُلِہٖ وَقَالُوْا سَبَعْنَا وَاطْعْنَا  
عَفْرَانَا رَبَّنَا اٰیٰتِکَ الْکُبْرٰی لَا یُکْفِ  
اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ

ترجمہ کنزالایمان: رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے اللہ کسی جان پر یو جو نہیں ڈالتا مگر اس



وَعَلَيْهَا مَا كَتَبْتَ مُرَبِّكَ لَا تَأْخُذْنَا  
إِنْ نُسِينَآ أَوْ أخطَأْنَا<sup>(پ ۳، البقرة: ۲۸۵، ۲۸۶)</sup>

کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا اور اس کا نقصان ہے جو  
برائی کرائی اسے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔

اہل ایمان کی اس دعا پر باری تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے پھر دعا کی:

مُرَبِّكَوَلَا تُحِثَّنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>(پ ۳، البقرة: ۲۸۶)</sup>  
ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال  
جس کی ہمیں سہارا (طاقت) نہ ہو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔<sup>(۱)</sup>

## اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام:

﴿9845﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک ایسی قبا پہنے ہوئے تھے جسے انہوں نے کانٹوں کے ذریعے اپنے سینے پر روکا ہوا تھا، اتنے میں حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے سلام پیش کیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے ایسی قبا پہن رکھی ہے جسے انہوں نے کانٹوں سے اپنے سینے پر اٹکایا ہوا ہے؟ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے جبریل! انہوں نے فتح سے پہلے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے عرض کی: انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے سلام پہنچائیے اور فرمائیے: تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے کہ اس فقر و غربت میں مجھ سے راضی ہو یا ناخوش؟ چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! یہ حضرت جبریل ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب پوچھتا ہے: کیا اس فقر میں تم مجھ سے راضی ہو یا ناخوش؟ تو آپ نے روتے ہوئے عرض کی: کیا میں اپنے رب تعالیٰ سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔<sup>(۲)</sup>

①... مسلم، کتاب الايمان، باب بیان انہ سبحانہ و تعالیٰ لم یكلف الا ما یطاق، ص ۷۸، حدیث: ۱۲۶، بتغییر قلیل

②... تاریخ بغداد، ۱۰۵/۳، رقم: ۳۹۹، محمد بن بابیہ

## عام لوگوں کو شفاعت کا حکم:

﴿9846﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکارِ ابد قرار، شفعِ روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص سے فرمایا جائے گا: ”اٹھ اور شفاعت کر۔“ تو وہ اپنے سارے قبیلے کی شفاعت کرے گا۔ ایک شخص سے کہا جائے گا: ”اٹھ اور شفاعت کر۔“ تو وہ اپنے سارے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ یوں ہی ایک شخص سے کہا جائے گا: ”اٹھ اور شفاعت کر۔“ تو وہ اپنے عمل کے مطابق ایک یا دو افراد کی شفاعت کرے گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9847﴾... حضرت سیدنا ناسرہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم میدانِ عرفات سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ نکل کر اس گھاٹی سے گزرے جہاں اُمر اقیام کرتے ہیں۔ وہاں آپ نے درمیانی وضو کیا تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: نماز آگے پڑھیں گے۔ پھر جب نزلِ پچنے تو اقامت کے بعد نمازِ مغرب پڑھائی (پھر لوگوں نے اپنی سواریاں بٹھائی) ابھی آخری لوگوں نے کجاوے نہ اتارے تھے کہ اقامت ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔<sup>(۲)</sup>

## دو آیتوں کی تفسیرِ نبوی:

﴿9848﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزّوجلّ کے اس فرمان: **وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** ⑤ ترجمہ کنز الایمان: اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پروا ہے۔ (پ: ۴، آل عمران: ۹۷)

کی تفسیر میں حضور نبی کریم، رُؤوفٌ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یعنی وہ جو اللہ عزّوجلّ اور قیامت کے دن کا منکر ہو۔<sup>(۱)</sup>

﴿9849﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرورِ عالم، سُورِ مُجْتَمِع صلی اللہ

①... الاحادیث المختارة، ۱۳/ ۱۳، حدیث: ۲۱۵، آمد بن علی العجل

②... بخاری، کتاب الوضوء، باب استیغاب الوضوء، ۷/ ۷۲، حدیث: ۱۳۹، بخاری

③... تفسیر الطبری، پ: ۳، سورۃ آل عمران، تحت الآية: ۹۷، ۳/ ۳۶۹، حدیث: ۵۱۵

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اس آیت طیبہ:

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (پ ۳، آل عمران: ۹۷) ترجمہ کنز الایمان: جو اس تک چل سکے۔

کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”چل سکنے“ سے مراد توشہ اور سواری ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9850﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم، ﷺ مَعْظَمَ صَلَّی اللہُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ایک جنازہ کے پاس سے گزرے جس کی لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”واجب

ہو گئی۔“ اور ایک دوسرے جنازہ کے پاس سے گزرے جس کی لوگوں نے برائی کی تو ارشاد فرمایا: ”واجب

ہو گئی۔“ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا: (جس کی تم

نے تعریف کی اس پر جنت اور جس کی برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی کیونکہ) تم ایک دوسرے پر گواہ ہو۔<sup>(۲)</sup>

﴿9851﴾... حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حُسنِ اخلاق کے پیکر، شافع محشر صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میز ان میں حُسنِ اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہو گا۔<sup>(۳)</sup>

## قرض کی واپسی پر دعا دیجئے:

﴿9852﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں سرورِ کائنات،

شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے 30 یا 40 ہزار درہم ادھار طلب فرمائے پھر جرب واپسی ہوئی

تو رقم لوٹاتے ہوئے فرمایا: یہ لو اللہ تَعَالَى جَعَلَ تیرے گھر والوں اور مال میں برکت عطا فرمائے، تیرا بدلہ

پوری رقم کی ادائیگی اور تعریف ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9853﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ

وَآلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور دُوحِ الحَیْفَہ میں عصر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھیں۔<sup>(۵)</sup>

۱... تفسیر الطبری، پ ۳، سورۃ آل عمران، تحت الایۃ: ۹۷، ۳/۳۶۲، حدیث: ۷۸۴، ۷۸۳

۲... مسند امام احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۲۹۵، حدیث: ۱۰۰۲۰

۳... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، ۳/۳۳۲، حدیث: ۴۹۹

۴... ابن ماجہ، الصدقات، باب حسن القضاء، ۳/۱۳۹، حدیث: ۲۳۲۲

۵... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ المسافرین وقصرها، ص ۳۴۹، حدیث: ۶۹۰

## درخت کی بارگاہ رسالت میں حاضری:

﴿9854﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اُس وقت حضور جانِ عالم، مالک کوثر و جنت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رنجیدہ بیٹھے تھے کیونکہ مکر مکر مہ کے کچھ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے دریافت کیا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا: ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی: آپ چاہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ہاں۔ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے گھاٹی کی دوسری جانب موجود ایک درخت کو دیکھ کر عرض کی: آپ اس درخت کو بلائیے۔ حضور نبی و دو جہاں صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے بلایا تو وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اُس سے فرمایا: واپس چلا جا۔ تو وہ اپنی جگہ واپس لوٹ گیا۔<sup>(۱)</sup>

## درواد ابراہیمی کی تعلیم:

﴿9855﴾... حضرت سیدنا کعب بن عُجرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت طیبہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُوا عَلَيْنِي وَسَلِّمُوا

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام

سَلِّمُوا ﴿۵﴾ (پ ۲۲ الاحزاب: ۵۶)

نازل ہوئی تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھا کرو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَبِیْبٌ مَّحِبٌُّ وَبَارِکٌ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَبِیْبٌ مَّحِبٌُّ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حضرت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) اور ان کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر درود بھیجا ہے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حضرت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی ہے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حجر اسود سے محبت:

﴿9856﴾... حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کر اس سے لپٹ گئے اور فرمایا: میں نے رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9857﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9858﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جیسے شرک کے ساتھ کوئی نفع نہیں دیتا۔<sup>(۴)</sup>

## مسکین کون؟

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم، مگر مُجَسِّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لئے در بدر پھرتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لئے کچھ نہ ہو، وہ لوگوں سے سوال کرنے میں شرمائے اور اس کی حالت کا بھی پتہ نہ چلے کہ اس پر صدقہ کیا جاسکے۔<sup>(۵)</sup>

## ہر دن صدقہ لازم ہے:

﴿9859﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا اصفیاء، ثناء وجود و سخاوت

①... معجم کبیر، ۱۳۱/۱۹، حدیث: ۲۸۷

②... مسلم، کتاب الحج، باب استحباب تقبیل الحجر۔ ص ۶۶۲، حدیث: ۱۲۷۱

③... مسلم، کتاب الطہارۃ، باب السح علی الناصیۃ، ص ۱۶۰، حدیث: ۲۷۵، عن یزید

④... جمع الجوامع، حرف اللام، الف، ۳۳/۹، حدیث: ۲۶۹۹۳

⑤... بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ: لا یشالون الناس الخافا، ۳۹۸/۱، حدیث: ۱۳۷۶، عن ابی ہریرۃ

مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب المسکین الذی لا ینع غنی، ص ۵۱۷، حدیث: ۱۰۳۹، عن ابی ہریرۃ

اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر روزانہ صدقہ کرنا لازم ہے۔“ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ کون کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارا مسلمان کو سلام کرنا صدقہ ہے، تمہارا امرِ نیص کی عیادت کرنا صدقہ ہے، تمہارا کسی جنازے کی نماز پڑھنا صدقہ ہے، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے اور تمہارا کسی کا ہاتھ بٹانا صدقہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9860﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی سختی کے سبب کافر منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہو گا حتیٰ کہ کہے گا: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس سے نجات دے، چاہے جہنم میں ڈال دے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9861﴾... حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سَلَمٰی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْوَعْدٰی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا: ”قَالَ رَسُولُ اللہِ لَعَنَی رَسُوْلُ پَاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا“ اتنا ہی کہا تھا کہ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، دوبارہ اتنا ہی کہا یا اس کے مثل کہہ سکے۔<sup>(۳)</sup>

## بھوک برداشت کرنے کا ثواب:

﴿9862﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم، رَغُوْفٌ رَحِیْمٌ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ! بھوک کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں: یہ سن کر میں رونے لگا تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: روؤ مت کیونکہ بھوکا رہنے والے کو روزِ عشر کی سختی نہیں پہنچے گی جبکہ اس نے دنیا میں ثواب کی توقع پر صبر کیا ہو۔<sup>(۴)</sup>

﴿9863﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیْعُ امْت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ

①... تاریخ بغداد، ۱۰۶/۹، رقم: ۳۶۹۸، سعید بن نفیس

②... معجم اوسط، ۳۱۲/۶، حدیث ۸۸۸۱

③... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۳۳/۲، حدیث: ۳۶۷۰، عن ابی عبد الرحمن

④... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر العمل، ۳۱۴/۷، حدیث: ۱۰۳۲۵، تاریخ بغداد، ۳/۳، رقم: ۱۵۰۳، محمد بن الفضل بن العباس

۱) ۱۶۶: ۳۰۹/۳، حدیث: ۳۹۶۹

﴿9864﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور سرورِ دیشاں، مالکِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر چور کے ہاتھ کٹوائے جس کی قیمت تین درہم تھی (۲)۔ (۳)

**کتوں کو مارنے کا حکم:**

﴿9865﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کنی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے (۴)۔ (۵)

## قاتل اور معاون کی سزا:

﴿9866﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا اور دوسرے نے اُسے پکڑا ہوا تھا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو قید میں ڈالا جائے گا۔ (۶)

﴿9867﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات

۱... معجم اوسط، ۳۰۹/۳، حدیث: ۳۹۶۹

﴿۲﴾... مفسرِ شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مرآۃ المناجیح، جلد ۱، صفحہ 302 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: اس میں اختلاف ہے کہ کتنے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین درہم کا مال چرانے پر ہاتھ کٹے گا ان کی دلیل یہ حدیث ہے، ہمارے امام اعظم (رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک پورے دینار کی قیمت کا مال چرانے پر ہاتھ کٹے گا امام اعظم (رحمۃ اللہ علیہ) کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبد اللہ ابن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے کہ لا یقتل الا ذی دینار یعنی چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر ایک دینار میں، امام اعظم کے ہاں دینار دس درہم کا ہے لہذا دس درہم کی قیمت کے مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کٹے گا۔

۳... مسلم، کتاب الحدود، باب حد السرقة وتصابیها، ص ۹۲۶، حدیث: ۱۸۸۶

﴿۴﴾... اب حاتم یہ ہے کہ بے ضرر کتوں کے قتل کا حکم منسوخ ہے خواہ کالے ہوں یا کچھ اور، اور ضرر والے خصوصاً دیوانے کتے کا قتل ضروری ہے اور بلا ضرورت کتابا پانا منع ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۵/۶۵۸)

۵... بخاری، کتاب بدن الخلق، باب اذا وقع الذباب... الخ، ۳۰۹/۲، حدیث: ۳۲۲۳

۶... دارقطنی، کتاب الحدود، ۱۶۷/۳، حدیث: ۳۲۲۳

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جنتی جنت کے لئے اور جہنمی جہنم کے لئے ہیں۔“ پھر لوگ چلے گئے اور وہ تقدیر کے معاملے میں اختلاف نہ رکھتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## بڑے کو ترجیح:

﴿9868﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم، شَفِیعُ مُعَظَّم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں (خواب میں) پانی پلا رہا تھا اور ایک شخص میری دائیں جانب تھا جبکہ دوسرا میری بائیں طرف تھا جو مجھ سے زیادہ جوان لگ رہا تھا، میں جو ان کو پانی دینے لگا تو مجھ سے کہا گیا: ”بڑے کو دو۔“<sup>(۲)</sup>

﴿9869﴾... حضرت سیدنا قطیب بن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کو (سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۹ میں ذر کے ساتھ) ”وَلَا تَخْصِبْ“ پڑھتے سنا ہے اور آپ نے ”وَلَا تَخْصِبْ“ نہیں پڑھا۔<sup>(۳)</sup>

﴿9870﴾... حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم بُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے مجھ سے کچھ قرض لیا، پھر جب واپس کیا تو فرمایا: قرض کا بدلہ تعریف اور پوری ادائیگی ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9871﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مُعَظَّل مَرْثٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر کتے حیوانات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کے قتل کا حکم دیتا پس تم ہر خالص کالے کتے کو قتل کر دو۔<sup>(۵)</sup>

۱... مسند البزار، مسند ابن عباس، الشعبی عن ابن عباس، ۱۲/۱۸۳، حدیث: ۵۸۴۳

۲... تخریج نہیں ملی۔

۳... ابوداؤد، کتاب الحروف والقراءات، باب ۳، ۳۳/۳، حدیث: ۳۹۷۳

۴... مسند امام احمد، حدیث عبد اللہ بن ابی ربیعہ، ۵/۵۲۳، حدیث: ۱۶۳۱۰، بتقریر قلیل

۵... یہاں (صاحب) مرقات نے فرمایا کہ حیوانات کا ذبح کرنا صرف دو وجہ سے جائز ہے یا نفع حاصل کرنے کے لیے یا ان کا نقصان دفع کرنے کے لیے، چونکہ خالص کالا کتا فائدہ کم دیتا ہے نقصان زیادہ اس لیے اس کے مار دینے کا حکم ہے یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ اب صرف نقصان دہ کتا بلاک کیا جائے کالا بویا اور رنگ کا۔ (مرآۃ المناجیح، ۵/۶۵۸)

۶... ترمذی، کتاب الاحکام والفتاویٰ، باب ما جاز فی قتل الکلاب، ۳/۱۵۷، حدیث: ۱۳۹۱



## راہِ خدا میں مرنے والا جنتی ہے:

﴿9872﴾... حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: (پہلی بات یہ کہ عورتوں کے حق مہر حد سے زیادہ نہ رکھو اور) دوسری بات یہ کہ تم اپنی جنگوں میں کہتے ہو ”فلاس شخص شہید ہو گیا۔“ اس کے بجائے تم ویسا کہا کرو جیسا رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”جو اللہ عزَّ وَّجَل کی راہ میں قتل ہوا یا مر گیا وہ جنت میں ہے۔“<sup>(۱)</sup>

﴿9873﴾... اسماعیل بن عبد الملک کا بیان ہے: میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے جو تار اتار کر اسے خود صحیح کر لیا۔

## شرک سے حفاظت کی دعا:

﴿9874﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں شرک پتھر پر ریگنے والی چوٹی کی چال سے بھی زیادہ فحش ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس سے نجات اور بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں پڑھ کر تم قلیل و کثیر اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ تم یہ پڑھا کرو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اُشْرِکَ بِکَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَل! میں جان بوجھ کر تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اس سے معافی چاہتا ہوں۔<sup>(۲)</sup>

﴿9875﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ذکر کرنے والے ذکر کرتے حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ ہوتے اور وہ نماز پڑھتے تو آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُن سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے۔<sup>(۳)</sup>

①... نائی، کتاب النکاح، باب القسط فی الاصدقة، ص ۵۴۴، حدیث: ۳۳۴۶، ملقطاً

②... الاحادیث المختارة، ۱/۱۴۹، حدیث: ۶۲، قیس بن ابی حازم، بتغیر قلیل

③... تاریخ بغداد، ۱۰/۹۳، رقم: ۵۲۱۳، عبد اللہ بن محمد بن علی، بتغیر قلیل

## مٹی میں مال کا ضیاع:

﴿9876﴾... حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ سَلَامٌ بیان ہے کہ ہم حضرت سیدنا خباب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس اُن کی عبادت کے لئے حاضر ہوئے، انہیں پیٹ پر سات جگہ داغا گیا تھا۔ اُس وقت ایک دیوار تعمیر ہو رہی تھی جسے دیکھ کر انہوں نے فرمایا: مسلمان کو اپنے ہر خرچ پر اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مال کے جو وہ اس مٹی کی عمارت میں خرچ کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9877﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پہلے زمین کا دایاں (جنوبی) حصہ خراب ہو گا اور پھر بایاں (شمالی) حصہ خراب ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

## دونوں ہاتھ خیر سے بھر گئے:

﴿9878﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ وَسَلَّم! میں قرآن پاک سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا لہذا آپ مجھے ایسی شے سکھا دیجئے جو مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو: ”سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لئے حمد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ بلند و برتر ہی کی طرف سے ہے۔“ پھر آپ نے اس کی دایاں مٹھی بند کر دی، اس شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ وَسَلَّم! یہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے، میرے لئے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو: ”اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ وَتُبَّ عَلَیَّ وَارْزُقْنِیْ“ یعنی اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔“ راوی فرماتے ہیں: پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہٖہٗ وَسَلَّم نے اُس کی

۱... مسند امام احمد، حدیث خیاب بن الارت، ۴/۳۵۳، حدیث: ۲۱۲۶

۲... معجم اوسط، ۳/۳۵۳، حدیث: ۳۵۱۹، بتقدیم و ناخر

دوسری مٹھی کو بھی بند کر دیا اور فرمایا: ان کلمات نے اس شخص کے دونوں ہاتھ خیر سے بھر دیئے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9879﴾... حضرت سیدنا ابو ہبیرہ ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا انس بن مالک ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یتیم کا کچھ مال تھا تو انہوں نے اس کے عوض شراب خرید لی۔ پھر جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: کیا میں اسے سرکہ بنا لوں؟ تو حضور نبی اکرم، شفیع اُمم صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، تم اسے بہاؤ۔<sup>(۲)</sup>

## کیا مردے سنتے ہیں؟

﴿9880﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین، مانائے خستین صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب لوگ اسے پیٹھ دے کر پھرتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿9881﴾... زمانہ جاہلیت کو پانے والے حضرت سیدنا مالک بن عُمیر ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم! میں نے اپنے باپ کو آپ کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے سنا لیکن اسے قتل نہیں کیا۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم پر شاق نہ گزری۔<sup>(۴)</sup>

## امامت کون کروائے؟

﴿9882﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں قرآن کریم کا بڑا قاری ہو۔<sup>(۵)</sup>

﴿9883﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس ؓ نے اللہ تعالیٰ عنہما اس فرمانِ باری تعالیٰ:

فَلْيَحْيِيَنَّاهُ وَيُلَاحِظِيَّاهُ (پ ۱۳، النحل: ۹۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی چلا کیے۔

①... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب ما يجوز من الاذى، ۳۱۸/۱، حدیث: ۸۳۲، مستدرک امام احمد، حدیث عبد اللہ بن ابی اوفی، ۱۰۵/۷، حدیث: ۱۹۳۶

②... مستدرک ابی عوانة، کتاب تحریر الحمر، بیان النهی عن اتخاذ الحمر خلا، ۱۰۷/۵، حدیث: ۷۹۷۸

③... مستدرک حاکم، کتاب الجنائز، باب البیت یسمع خلق تعالیم، ۷۱/۱، حدیث: ۱۳۴۳

④... معرفة الصحابة، ۲۱۳/۳، حدیث: ۶۰۷۶، رقم: ۲۶۳۰، مالک بن عمیر

⑤... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب من احق بالامامة، ۲۳۹/۱، حدیث: ۵۸۲، عن ابی مسعود

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی اُسے دنیا میں پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

## حج جلدی کر لو:

﴿9884﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بکرمہ کی طرف سفر کے لئے جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کونسا مرض یا حاجت لاحق ہونے والی ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9885﴾... حضرت سیدنا رافعہ بن رافع رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رحمتِ کونین، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بزورِ قیامت تاجرِ فاسق و فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار، نیک اور سچے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## اقامت کہنے کا حق دار:

﴿9886﴾... حضرت سیدنا زیاد بن حارث صُدائی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حبیبِ خدا، پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اذان دی وہی اقامت کہنے کا زیادہ حقدار ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9887﴾... ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں: ایک دن رحمتِ عالم، مَکُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہو تا جو اب ہو تو آج میں نے جو کیا وہ نہ کرتا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: میں بیٹ اللہ میں داخل ہوا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ میرے بعد آنے والا یہ کہے: ”میں نے حج تو کیا لیکن بیٹ اللہ میں داخل نہیں ہوا۔“<sup>(۵)</sup> حالانکہ بیٹ اللہ میں داخل ہونا ہم پر فرض نہیں کیا گیا، ہم پر محض طواف فرض کیا گیا ہے۔

۱... تفسیر الطبری، پ ۱۳، سورۃ النحل، تحت الاية: ۹۷، ۶۳۱/۷، رقم: ۲۱۹۹۰

۲... سنن کبیری بیہقی، کتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج، ۵۵۵/۳، حدیث: ۸۹۹۵

۳... ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء في التجار وتسمية، ۵/۳، حدیث: ۱۲۱۳

۴... فردوس الاخبار، ۳۰۲/۲، حدیث: ۶۲۸۹

۵... مسند امام احمد، مسند السيدة عائشة، ۳۹۳/۹، حدیث: ۲۵۴۵۲

﴿9888﴾... حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمرو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا: یہ ہدایت یافتہ و نیک چلن انسان ہے۔<sup>(۱)</sup>

## نماز استسقاء میں کیا انداز ہو؟

﴿9889﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن عبد اللہ بن کنانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ مجھے ایک حاکم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نماز استسقاء کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گڑ گڑاتے، عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے نماز استسقاء کے لئے تشریف لے گئے تو خطبہ دیا جو تمہارے اس خطبے کی طرح نہ تھا پھر دعا کی اور عیدین کی نماز کی طرح دور کعت پڑھائیں۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت اسحاق بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی یا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا۔  
**ہر حال میں سنت کی پیروی:**

﴿9890﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چومتے دیکھا ہے تب سے آسانی ہو یا مشکل کسی حال میں حجر اسود کو چومنا ترک نہیں کرتا۔<sup>(۳)</sup>

①...مسند البزار، مسند طلحة، و ہماروی، موسی بن طلحة، ۱۵۹/۳، حدیث: ۹۳۴

②...نسائی، کتاب الاستسقاء، باب جلوس الامام علی الذہب للاستسقاء، ص ۲۶۱، ۲۶۲، حدیث: ۱۵۰۵، ۱۵۱۸

③... (حجر اسود کو چومتے ہوئے) اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگیں کہ یہ قوت کے مظاہرہ کی نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ نجوم کے سبب اگر بوسہ بٹھرنے آسکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں نہ خود میں کلکیں بلکہ ہاتھ یا کٹڑی سے حجر اسود کو چوم کر اسے چوم لیجئے، یہ بھی نہ بن بڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے، یہی کیا تم ہے کہ کسی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا کٹڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انھیں چوم لینے کو "استسقام" کہتے ہیں۔ (ریض المرحمین، ص ۹۶)

④...نسائی، کتاب مناسک الحج، باب ترک الاستسلام الرکعتین الاخرین، ص ۴۸۰، حدیث: ۲۹۵۰

﴿9891﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ دلوں کے چین، سرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ایک ایک میٹھہ کا عقیقہ کیا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9892﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: ایک شخص نے اپنی کنواری یا شیبہ (طلاق یافتہ یا بیوہ) بیٹی کا نکاح کیا تو بیٹی نے اسے قبول نہ کیا، پھر حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے نکاح کو رد فرمادیا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9893﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ“ (سورۃ انشقاق) اور ”إِنَّا أَنَا بِسْمِ رَبِّكَ“ (سورۃ علق) میں سجدہ کیا۔<sup>(۳)</sup>

﴿9894﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: حضور نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی اور ایک یہود کو بھلاط (مسجد نبوی کے دروازے کے نزدیک ایک جگہ) کے پاس رجم کی سزا دی۔<sup>(۴)</sup>

### مسئلہ رضاعت کا بیان:

﴿9895﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک صاحب موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! اپنے بھائیوں کے بارے میں غور کر لو (کہ کون تمہارا رضاعی بھائی ہے) کیونکہ رضاعت کا تعلق دودھ پینے والی عمر سے ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9896﴾... حضرت سیدنا حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے اور اس کا مال ضبط کرنے بھیجا جس نے اپنے باپ

۱... ابو داؤد، کتاب الفحایا، باب العقیقہ، ۱۲۳/۳، حدیث: ۲۸۳۱

۲... معجم کبیر، ۲۸۱/۱۱، حدیث: ۱۲۰۰۱، بخاری

۳... مسلم، کتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ص ۲۹۱، حدیث: ۵۷۸

۴... مستدرک احمد، مستدرک عبد اللہ بن عمر، ۳۳۵/۲، حدیث: ۵۲۷۶

۵... بخاری، کتاب ید الخلق، باب الشهادة علی الاتساب... الخ، ۱۹۲/۲، حدیث: ۲۶۳۷، بخاری

کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

## مصیبت چھپانے کا ثواب:

﴿9897﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں نیکی کے خزانے ہیں: (۱)... پوشیدہ صدقہ (۲)... شکوہ نہ کرنا اور (۳)... مصیبت کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میں جب کسی بندے کو مصیبت (بیماری وغیرہ) میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے اور اپنے ملنے والوں سے شکوہ نہ کرے تو میں پہلے سے بہتر گوشت اور بہتر خون عطا فرماتا ہوں پھر اگر اسے صحت عطا کروں تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور اگر اسے موت دوں تو اس کا ٹھکانا میری رحمت ہوتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9898﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: میرے آگے چلو اور میرے پیچھے ملائکہ کے لئے جگہ خالی کر دو۔<sup>(۴)</sup>

## خطبے میں ”امابعد“ کہنا:

﴿9899﴾... حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اللہ تَعَالٰی جَلَّ جَلالہٗ دَناءَ غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورج گہن کے وقت خطبہ دیا اور اُس میں ”اَمَّا بَعْدُ“ فرمایا۔<sup>(۵)</sup>

①... پہلے یہ شخص مسلمان تھا بعد میں اس نکاح کو حلال سمجھ کر کافرو مرتد ہو گیا لہذا اسے قتل کرنے اور اس کا مال ضبط کرنے کا حکم صادر ہوا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ جو مدعی اسلام حرام عورتوں سے نکاح جا کر مانے وہ مرتد ہے اور جو حرام سمجھ کر یہ نکاح کرے وہ بدترین فاسق ہے اور جسے حرمت کی خبر ہی نہ ہو وہ نکاح کر لے اسے فوراً علیحدگی کا حکم دیا جائے دوسرے شخص (یعنی اس نکاح کو حرام سمجھنے والے) نے اگر صحبت بھی کر لی تو یہ صحبت محض زنا ہوگی اور بچہ کا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اور تیسرے شخص (یعنی اس نکاح کی حرمت سے بے خبر) نے اگر صحبت کر لی تو یہ وطنی بالمشبہ ہوگی بچہ صحیح النسب ہوگا۔ (مراۃ المناجیح، ۵/۲۹۹)

②... ابن ماجہ، کتاب الخلو، باب من تزوج امرأۃ کاذبہ، ۳/۴۵۳، ۲۵۳، حدیث: ۲۶۰۸، ۲۶۰۷

③... مسند الشہاب، ۱/۶۲، حدیث: ۴۶

④... مسند الخلفاء، کتاب علامات النبوة، باب مشی افلاککۃ خلفہ، ۸۷۹/۲، حدیث: ۹۳۶

⑤... نسائی، کتاب الکسوف، باب کیف الخطیۃ فی الکسوف، ص ۲۶۰، حدیث: ۱۳۹۸

﴿9900﴾... حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کو رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آکر اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بیری کے پتوں والے پانی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔<sup>(۱)</sup>

### غربت و تنگدستی کا اظہار پسند نہیں:

﴿9901﴾... حضرت سیدنا زبیر بن ابو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بگڑی ہوئی شکل و صورت میں دیکھ کر فرمایا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! ہر قسم کا مال ہے۔ ارشاد فرمایا: تو پھر مال کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہئے کیونکہ اللہ عزوجل کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائی دے اور اُسے غربت و تنگدستی کا اظہار پسند نہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿9902﴾... حضرت سیدنا ابو ریحہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا: کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: اس کے جرم کی وجہ سے تمہاری اور تمہارے جرم کے سبب اس کی پکڑ نہ ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

### سفر میں سنت و نفل ادا کیجئے:

﴿9903﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سفر میں نفل پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضر میں ظہر کی چار جبکہ سفر میں دو رکعات مقرر فرمائیں تو ہم حضر اور سفر میں فرض سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup>۔<sup>(۵)</sup>

①... نسائی، کتاب الطہارۃ، باب ذکر ما یوجب الغسل... الخ، ص ۳۸، حدیث: ۱۸۸

②... معجم کبیر، ۲/۴۷۳، حدیث: ۵۳۰۸

③... مسند امام احمد، حدیث ابی ریحہ، ۲/۶۹۸، حدیث: ۷۱۲۹

④... دعوت اسلامی کے عاشق اداریے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب ”نماز کے احکام“ صفحہ 315 پر مرقوم ہے: سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیگی، خوف اور روادری (یعنی ٹھہراہٹ) کی حالت میں سنتیں معاف ہیں اور اس کی حالت میں پڑھی جائیگی۔ (عالمگیری، ۱/۱۳۹)

⑤... سنن کبریٰ بیہقی، کتاب الصلاة، باب تطوع المسافر، ۳/۲۲۵، حدیث: ۵۵۰۶، بخاری



## پانچ چیزوں کی ممانعت:

﴿9904﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شفیع ائمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام میں عقد، اشغاد، شغار، جلب اور جنب کی کوئی گنجائش نہیں۔“ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عقد<sup>(۱)</sup> سے مراد حلف ہے، اشغاد سے مراد نوحہ کرنا<sup>(۲)</sup>، شغار (سے مراد نکاح شغار)<sup>(۳)</sup>، جلب سے مراد گھوڑوڑ میں کسی اور شخص کا گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے ڈاٹھنا اور نادر اور جنب سے مراد گھوڑوڑ میں اضافی گھوڑا ساتھ رکھنا (تاکہ پہلا تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائے۔)<sup>(۴)</sup> جوئے کے لحاظ سے اس کی ممانعت ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9905﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منعم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے۔<sup>(۶)</sup>

- ①... ایک روایت میں ”لا یحکم فی الاسلام“ کے الفاظ آئے ہیں (مسند امام احمد، ۳/۴۲۳، حدیث: ۱۳۰۳۱) جس سے زمانہ جاہلیت کے ایک عمل کی نفی کی گئی۔ لوگ اپنے مردوں کی قبروں پر اونٹ ڈن کر کے کہتے تھے: یہ قبر والا اپنی زندگی میں مہمانوں کے لئے اونٹ دینے کا کیا کرتا تھا تو اب اس کی وفات کے بعد ہم وہی اس کام کر کے آتے بدلہ دے رہے ہیں۔ (فیض القدیر، ۵۶۲/۱، حدیث: ۹۹۰۹)
  - ②... اس نوحے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت نوحہ کرنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کی نوحہ کرنے میں مدد کرے۔ منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں ایک سال تک نوحہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتی تھیں تو اس حدیث شریف میں ایسا کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ (النهاية فی غریب الاثر، سنن مع العین، ۳۳۰/۲)
  - ③... یہ نکاح زمانہ جاہلیت میں رائج تھا جس کی صورت یہ ہوتی کہ کوئی شخص دوسرے سے کہتا: ”تو اپنی بہن یا بیٹی یا جس عورت کا تو سر پرست ہے اس کا نکاح مجھ سے کر دے اس کے بدلے میں اپنی بہن یا بیٹی یا جو عورت میری سرپرستی میں ہے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔“ اور ان کے مابین کوئی مہر مقرر نہیں ہوتا تھا پس ایک عورت دوسری عورت کا بدلہ ہو جاتی تھی۔ (شرح الزرقانی علی الوطأ، کتاب النکاح، باب جامع مالا يجوز من النکاح، ۱۱۹/۳، حدیث: ۱۱۵۹)
  - ④... یہ بات ”مساہقت“ سے تعلق رکھتی ہے۔ ”مساہقت کا مطلب یہ ہے کہ چند شخص آپس میں طے کریں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو یہ دیا جائے گا یہ مساہقت صرف تیر اندازی میں ہو سکتی ہے یا گھوڑے، گدھے، فخر میں۔“ (بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۲/۶۰۷)
- نوٹ: مساہقت کی جائز و ناجائز صورتوں کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد 3، صفحہ 605 تا 609 کا مطالعہ کیجئے۔

⑤... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳/۴۲۳، حدیث: ۱۳۰۳۱، بیغیر

⑥... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب القنوت، ۳/۳، حدیث: ۵۰۰۶

## دور نبوت کی رمی کا منظر:

﴿9906﴾... حضرت سیدنا محمد امین بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: میں نے حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو صہبا اونٹنی پر سوار ٹھہر کر عقبہ کی رمی کرتے دیکھا ہے، اس وقت کسی کو مارا گیا نہ دھکا دیا گیا اور نہ ہی ”بٹ جاؤ، بٹ جاؤ“ کی آوازیں تھیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿9907﴾... حضرت سیدنا قاسم بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کا اختلاف آج کے لوگوں کے لئے رحمت ہے۔<sup>(۲)</sup>

**جہنم سے محفوظ آنکھیں:**

﴿9908﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، شَفِیعُ مُعَظَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دو آنکھیں جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی: (۱) وہ آنکھ جو تہائی میں خوفِ خدا سے روئے اور (۲) وہ آنکھ جو راہِ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزارے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9909﴾... حضرت سیدنا عبادہ بن صامیت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم، نُورُ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے پاس ایک بڑی چادر اوڑھے تشریف لائے، اس وقت آپ کے جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔<sup>(۴)</sup>

﴿9910﴾... حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے میت کے ترکے سے اُس کے شوہر اور والدین کے حصے میں دیگر لوگوں سے اختلاف کیا اور فرمایا: ماں کو کل مال کا تہائی دیا جائے گا۔<sup>(۵)۔ (۶)</sup>

①... نسائی، کتاب مناسک الحج، باب الوکوب الی الجمار، واستقلال الحرمہ، ص ۴۹۷، حدیث: ۳۰۵۸

②... طبقات ابن سعد، ۵/۱۳۳، رقم: ۷۳۷، القاسم بن محمد

③... مستدرک حاکم، کتاب الجہاد، باب ثلاثۃ ائین لاسمھا الناب، ۴/۳۰۳، عن ابن ہریرۃ، بتقریر ذلیل

④... مسند الزہار، حدیث عباد بن الصامت، ۷/۱۵۱، حدیث: ۴۷۰۹، بتقریر و تاحر

⑤... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الفرائض، باب فی امر اقربائہ من کم ہی؟، ۷/۳۲۷، حدیث: ۹

⑥... حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جب کسی عورت کے مرنے کے وقت اس کا شوہر اور ماں باپ

## حج کیسے ادا ہو؟

﴿9911﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یغفر ذوالی ذیہن اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اُس وقت حضور نبی کریم، زہرِ وفاتِ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں تھے، اس دورانِ نجد کے رہنے والے کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنایا اس نے پکار کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! حج کیسے ادا ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ منادی کرنے کا حکم دیا: ”حج عرفہ کے دن ہوتا ہے جو غزِ ذلفہ (۱۰ اذہجہ) کی رات نمازِ فجر سے پہلے عرفات آگیا اس کا حج مکمل ہو گیا اور مئی کے تین دن ہیں، جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔“ پھر آپ نے پہلے شخص کے پیچھے ایک اور شخص کو بھیجا اُس نے بھی یہی منادی شروع کر دی۔<sup>(۱)</sup>

﴿9912﴾... حضرت سیدنا جابر ذیہن اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر جدھر اُس کا رخ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

..... ہوں تو شوہر کو نصف ملے گا اور ماں کو باقی کا تہائی۔ (مسند دارمی، کتاب الفرائض، باب فی زوج والیون... الخ۔ ۴/۲۳۳، حدیث: ۲۸۶۵)

مسئلہ: اگر شوہر یا بیوی کا انتقال ہو جائے اور دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ میت کے ماں باپ بھی ہوں تو اس صورت میں باپ تو ماں کے حصہ کو گھٹا دے گا کہ شوہر یا بیوی کے حصہ کے بعد جو بچے گا وہ اس کا تہائی (تیسرا حصہ) پائے گی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھنا چاہیے۔

بپ ماں شوہر

اس کی توضیح یہ ہے کہ شوہر کو نصف ملا اور ماں کو شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچا تھا اس میں سے تہائی ملا حالانکہ ماں کا حصہ کل مال کا تہائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ماں کو کل مال کا تہائی دیتے تو اس کا حصہ باپ کے برابر ہو جاتا جو درست نہیں، اس لئے باپ نے ماں کے حصہ کو گھٹا دیا۔ (بہارِ شریعت، حصہ ۳۰/۱۱۷، مشکوٰۃ)

①... ابو داؤد، کتاب النکاح، باب من لم یدرک عرفۃ، ۲/۲۸۳، حدیث: ۱۹۳۹

②... احناف کے نزدیک: سواری پر نفل نمازِ زیروں شہر یعنی وہ جگہ جہاں سے مسافر پر فطر واجب ہوتا ہے وہاں پڑھنے کی اجازت ہے شہر میں نہیں۔ (ماخوذ از بہارِ شریعت، حصہ ۱۴/۱، ۶۷۱) فرض و واجب و سنت فجر بلا عذر سواری پر جائز نہیں۔ (بہارِ شریعت، حصہ ۱۴/۱، ۶۷۲)

③... بخاری، کتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حیث کان، ۱/۱۵۷، حدیث: ۴۰۰

## کاشانہ اقدس کا ادب:

﴿9913﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، شافعِ اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو شرفِ رُوحیت سے نوازا تو مجھے لوگوں کو بلانے بھیجا، لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں کھانا کھلایا، پھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گھر سے باہر نکلا، چلتے چلتے آپ اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے تک پہنچے، پھر آپ واپس لوٹ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آگیا، دیکھا تو ابھی بھی دو افراد وہاں موجود تھے، اس پر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ (پ: ۲۲، الاحزاب: ۵۳)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ۔<sup>(۱)</sup>

﴿9914﴾... حضرت سیدنا وہب بن کثیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمتِ عالم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔<sup>(۲)</sup>

## سفارش پر اجر و ثواب:

﴿9915﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر سوال کرے تو سلطان و وجہان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے: سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے اور اللہ عزوجل اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9916﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم قربانی کا گوشت کھایا بھی کرتے اور سفر میں ساتھ بھی رکھا کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup>

①... ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورۃ الاحزاب، ۱۴۹/۵، حدیث: ۳۲۳۰

②... ابن ماجہ، کتاب النسک، باب العزق فی رمضان، ۳۵۷/۳، حدیث: ۲۹۹۱

③... بخاری، کتاب الادب، باب ۳، ۱۰۷/۳، حدیث: ۶۰۲۸

④... مسند الشامیین، ۱/۲۱۰، حدیث: ۳۷۶

## غلام کو مارنے کا کفارہ:

﴿9917﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے غلام کو ایسی حد لگائی (یعنی سزا دی) جس کا وہ مستحق نہیں تھا یا اسے طمانچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9918﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے دھنسا، صورتوں کا بگڑنا اور بیتھروں کا برسنہ ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9919﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن یزید اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹھے آقا، دو عالم کے داماد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورۃ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا پڑھنا بڑا برکت اور نفع دینا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9920﴾... حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم، نوری مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (ایک غزوہ کے موقع پر) ارشاد فرمایا: کیا تمہیں کل صبح دشمن پر حملہ کرنا ہے؟ اگر ہاں تو روزہ نہ رکھو اور قوت حاصل کرو اور اگر صبح ان پر حملہ نہیں کرنا تو کل روزہ رکھو۔<sup>(۴)</sup>

## حیا کا زیادہ حق دار کون؟

﴿9921﴾... حضرت سیدنا معاویہ بن خنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم اپنا ستر (ناف سے گھٹنوں سمیت حصہ) کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ حضرت عالم، نوری مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ سب سے اپنے ستر کی حفاظت کرو۔ پھر اگر لوگ مل کر بیٹھے ہوں اور اس بات پر قدرت ہو کہ تمہاری شرم گاہ کوئی نہ دیکھے تو ایسا ہی کرو۔ میں نے عرض کی: اگر ہم میں سے کوئی ایسی تہمتی میں ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا اسے کوئی نہ دیکھے پھر کیا حکم ہے؟

①... مسلم، کتاب الايمان والندب، باب صحبة الممالیک، ص ۹۰۳، حدیث: ۱۶۵۷

②... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الخسوف، ۳۹۰/۴، حدیث: ۴۰۵۹

③... مسند امام احمد، حدیث بریدۃ الاسلامی، ۱۵/۹، حدیث: ۲۳۰۳۶، عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ

④... مسلم، کتاب الصیام، باب اجر الفطر فی السفر... الخ، ص ۵۶۶، حدیث: ۱۱۲۰

ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اُس سے حیا کی جائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9922﴾... حضرت سیدنا عباد بن تمیم اپنے والد ذہن اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید الانبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل عرب پر رونے والو! مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ریا اور مخفی ثبوت کا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟

﴿9923﴾... حضرت سیدنا مصیبتہ الفحضر ذہن اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو لوگ کہنے لگے: یہ سوال رہنے دو۔ رحمت عالم، نذیر مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے پوچھنے دو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9924﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُغُوف رَحِمَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خاکی رنگ والی بکری ذبح کرنا دوسیاہ بکریاں ذبح کرنے سے افضل ہے۔<sup>(۴)</sup>

## چٹائی اور قالین پر نماز:

﴿9925﴾... حضرت سیدنا نافع رَحِمَہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا عابد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چٹائی پر نماز ادا کرتے اور اسی پر سجدہ بھی کرتے تھے۔

﴿9926﴾... حضرت سیدنا عابد اللہ بن عمار علیہ رَحِمَہ اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موٹے قالین پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

﴿9927﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ

①... ابوداؤد، کتاب الجماعہ، باب ماجاء فی الصلوة، ۵۷/۴، حدیث: ۴۰۱۷

②... شعب الایمان، باب فی اخلاص العمل للہ، ۳۳۲/۵، حدیث: ۶۸۲۴

③... مسند امام احمد، حدیث مؤسرة الفجر، ۳۵۰/۷، حدیث: ۲۰۶۱۹، بدون بعض الفاظ

④... مسند الغروس، باب الدال، ۳۹۰/۱، حدیث: ۲۸۹۰

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے سامنے ایک نیزہ نصب کیا گیا تو آپ نے اس کے سامنے نماز ادا فرمائی جبکہ اس کے آگے گدھا تھا۔<sup>(۱)</sup>

## جب مومن کو موت پسند ہوگی:

﴿۹۹۲۸﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دجال پر جو تمہیں سے زیادہ سخت اور کوئی نہیں اور جب وہ نکلے گا تو مومن ہر شے سے بڑھ کر اپنی جان کا نکلتا پسند کرے گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿۹۹۲۹﴾... حضرت سیدنا اُمّ قیس بنتِ محسن رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے رسولِ مَکَرَّم، نبیِ مُکَرَّم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کپڑے کو لگے حیض کے خون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اسے بیری کے پتے ملے پانی سے دھو ڈالو اور کسی لکڑی سے رگڑ دو۔<sup>(۳)</sup>

## اختتامِ مجلس کی دعا:

﴿۹۹۳۰﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ پورا بدلہ دیا جائے تو وہ مجلس کے اختتام پر یا کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھا کرے:

سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱﴾  
وَسَلَّمَ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۲﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ  
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳﴾ (پ: ۲۳، الضف: ۱۸۰ تا ۱۸۳)

ترجمہ کنزالایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب  
کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں  
اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿۹۹۳۱﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دناے غیوب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔<sup>(۵)</sup>

①... الکامل لابن عدی، ۲/۲۸۰، رقم: ۳۰۳۰، تمامہ بن نجیح

②... تاریخ بغداد، ۱۱۱/۱۳، رقم: ۷۰۹۵، مصعب بن المقداد

③... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی دم الحیض یصبی القلوب، ۳۸/۱، حدیث: ۲۴۸

④... تفسیر ابن ابی حاتم، پ: ۲۳، الصافات، تحت الآیۃ: ۱۸۰ تا ۱۸۲، ۱۰/۳۲۳، حدیث: ۱۸۲۲

⑤... ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی صوم الاثنين والخميس، ۱۸۲/۲، حدیث: ۷۴۵

## نماز کی کنجی:

﴿9932﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طہارت نماز کی کنجی ہے، (کھانا، پینا اور سلام وغیرہ امور کو نماز میں) حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کرنے والا کام سلام پھیرنا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9933﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکبیر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہے اللہ عزوجل اُس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9934﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا چہرہ انور عریض ہو جاتا اور غضب و جلال بڑھ جاتا۔<sup>(۳)</sup>

﴿9935﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9936﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا: سورۃ فاتحہ اور اس سے کچھ زیادہ قراءت کے بغیر نماز درست نہیں۔<sup>(۵)</sup>

## بے مثال اخلاقی کریمانہ:

﴿9937-38﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں 10 سال کی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان

①... ابو داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء، ۵۶/۱، حدیث: ۶۱

②... مسلم، کتاب الایمان والنذر، باب تحریم جر القوب... الخ، ص ۱۱۵۵، حدیث: ۲۰۸۵

③... نسائی، کتاب صلاۃ العیدین، باب کیف الخطبۃ، ص ۴۷۴، حدیث: ۱۵۷۵، بغیرِ قلیل

④... مسلم، کتاب البر والصلاۃ، باب تحریم الظلم المسلم... الخ، ص ۱۳۸۷، حدیث: ۲۵۶۳

⑤... ابو داؤد، کتاب الصلاۃ، باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ، ۳۱۳/۱، حدیث: ۸۲۰



صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت بابرکت میں رہا، آپ نے کبھی مجھے کچھ بھول جانے یا کچھ نقصان ہو جانے پر ملامت نہیں فرمائی اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے: ”جانے دو، تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا امام ابو نعیم اصفہانی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ سفیان بن سعید ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ اپنے علم اور روایات کی وسعت میں نہ ختم ہونے والا سمندر اور نہ موڑا جاسکے والا سیلاب تھے۔ یہاں ہم اختصار کے پیش نظر ان کے شیوخ کے تذکرہ سے اعراض کرتے ہوئے ان کی روایت کردہ چند احادیث کریمہ کو بیان کریں گے۔

### زمانہ جاہلیت کے اعمال پر پکڑ:

﴿9939﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا دور جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَحِیْمٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو اسلام میں اچھا رہا اس کی زمانہ جاہلیت کے بُرے اعمال پر پکڑ نہ ہوگی اور جو اسلام میں بُرا ثابت ہوا اس کی زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں کے بُرے اعمال پر پکڑ ہوگی۔“<sup>(۲)</sup>

﴿9940﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سلطانِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جنت تم میں سے ہر ایک سے اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی یوں ہی ہے۔<sup>(۳)</sup>

### تاجروں کو صدقہ کا حکم:

﴿9941﴾... حضرت سیدنا قیس بن الوثری رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں آنا فروخت کیا کرتے تھے اور ہمیں ”سبایمہ“ کہا جاتا تھا، ہمارے پاس شہنشاہِ مدینہ، سلطانِ باقرینہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①...مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳/۳۶۱، حدیث: ۱۳۴۱۷

②...مسلم، کتاب الایمان، باب هل یؤخذ باعمال الجاہلیۃ، ص ۷۴، حدیث: ۱۲۰

③...بخاری، کتاب الرقاق، باب الجنة اقرب...الخ، ۳/۲۳۳، حدیث: ۶۳۸۸

تشریف لائے اور ہمیں اس نام سے بہتر نام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے گروہِ نَجَّار! اس خرید و فروخت میں بے ہودہ بات اور قسم شامل ہو جاتی ہے لہذا اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔“ (۱)

﴿9942﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے ایک عالم حضور نبی کریم، رسولِ محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا پھر ارشاد فرمائے گا: ”میں بادشاہ ہوں۔“ (۲) اس کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیوں ظاہر ہو گئیں پھر آپ (۳) نے یہ آیت تلاوت کی:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَنفُصُ  
جَبِيحًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (پ: ۲۴، الزمر: ۶۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور انھوں نے اللہ کی قدرت کی جیسا کہ اس کا حق تھا اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا۔ (۴)

## وعدے اور قسم پر پٹائی:

﴿9943﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ کون و مکان، نبی آخر

①... مسند امام احمد، حدیث قیس بن ابی غرزہ: ۵/۳۵۶، حدیث: ۱۲۳۸

②... مفسرِ شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مرآۃ المناجیح، جلد ۷، صفحہ 358 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس عالم نے غالباً یہ مضمون توریت شریف یا کسی اور اپنی دینی کتاب سے بیان کیا ہو گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی بلکہ تصدیق فرمائی لہذا اور ست ہے۔ ان چیزوں کو انگلیوں پر رکھنے سے مراد نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی تسخیر ہے یہی بتانا مقصود ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ تم تو مجھ کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہو یعنی مجھ پر پورے پورے قابض ہو، تمہارے اشاروں پر میں کام کرتا ہوں لہذا یہ بالکل واضح ہے اگرچہ آج بھی ہر چیز رب کے قبضہ میں ہے مگر اس دن اس کا ظہور ہو گا۔

③... ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود نے تلاوت کی ہو اس پوپ کی تصدیق کے لیے ”مَا قَدَرُوا اللَّهَ“ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی شان نہ جانی کہ اس کی یہ قدرتیں جانتے ہوئے اس کے لیے اولاد یا شریک مانا ایسی قدرتوں والا اولاد شریک سے پاک ہے کہ اولاد اور شریک اختیار کرنا مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے فانی اور کمزور کو ہتھ نسل اور دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، یوں ہی شریک و اختیار کرتا ہے جو اکیلا کچھ نہ کر سکے۔ (مرآۃ المناجیح، ۷/۳۵۸)

④... معجم کبیر، ۱۰/۱۶۲، حدیث: ۱۰۳۳۲

الزمان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں پھر وہ جو اُن سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو اُن سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے اور قسم ہی اُن کی گواہی ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے وعدہ کرنے اور قسم کھانے پر ہمیں مارا کرتے تھے۔

﴿9944﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: (شریعت کے) کوئی گناہ کفر کے بعد رزقِ حلال کمانا فرض ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9945﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعُ اُمَّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہُ کہا تو ضرور ایک دن یہ اسے نجات دے گا اگرچہ اس سے پہلے اسے کچھ عذاب پہنچے۔<sup>(۳)</sup>

### تین نایاب چیزیں:

﴿9946﴾... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عنقریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں تین چیزوں سے زیادہ کوئی چیز نایاب نہیں ہوگی: (۱)... انسیت دینے والا دوست (۲)... حلال کا پیسہ اور (۳)... سنت جس پر عمل کیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9947﴾... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی غیب دان، شہنشاہِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب ۱۵۰ سال ہو جائیں گے تو تم میں سے کوئی کتے کے پلے کی پرورش و تربیت کر لے گا مگر اولاد کی پرورش و تربیت نہیں کرے گا۔<sup>(۵)</sup>

①... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم، باب فضائل اصحاب النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم، ۵۱۶/۳، حدیث: ۳۶۵۱

②... شعب الایمان، باب فی حقوق الاولاد... الخ، ۳۲۰/۶، حدیث: ۸۷۳۱

③... شعب الایمان، باب فی الايمان بالله، ۱۰۹/۱، حدیث: ۹۷

④... معجم اوسط، ۳۸/۱، حدیث: ۸۸

⑤... معجم کبیر، ۲۸۸/۱۰، حدیث: ۱۰۶۸۵، عن صالح بن علی عنہ ابیہ، مفہوما

## نیکیاں برباد کرنے والا عمل:

﴿9948﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار انبیاء، محبوب کبریائی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ کہیم اللہ عنہ السلام کی طرف وحی فرمائی: ”بے شک تم میرے فیصلے پر رضامندی سے بڑھ کر کسی اور شے سے میرا قرب نہیں پاسکتے اور تکبر سے بڑھ کر تمہارا کوئی عمل تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے والا نہیں۔ اے موسیٰ! (لوگوں سے فرمادو) دنیا داروں کے سامنے عاجزی نہ کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور ان کی دنیا کی خاطر دین کو ہلکانہ کرنا ورنہ میں تم پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دوں گا۔ اے موسیٰ! تم نام گناہ گاروں سے فرمادو کہ تمہیں خوشخبری ہو اور عمل کر کے خود پسندی میں مبتلا ہونے والوں سے فرمادو کہ تم خسارے میں ہو۔“<sup>(۱)</sup>

﴿9949﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم نہ لگائے کہ پھر اپنے شوہر سے اس کی خوبیاں یوں بیان کرے کہ گویا وہ اسے سامنے دیکھ رہا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9950﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت میں لوگوں کے مابین سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہو گا۔<sup>(۳)</sup>

## راہِ خدا کا مجاہد کون؟

﴿9951﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: کوئی شخص بہادری کے لئے جہاد کرتا ہے تو کوئی شخص قومی غیرت کے لئے اور کوئی دکھاوے کی خاطر لڑتا ہے تو ان میں سے راہِ خدا عزوجل کا مجاہد کون ہے؟ خاتم المرسلین: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ صلی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل کے دین کی سر بلندی کے لئے لڑے وہی راہِ خدا عزوجل کا مجاہد ہے۔<sup>(۴)</sup>

①... مستند القریوس، ۸/۱، حدیث: ۵۰۸

②... بخاری، کتاب النکاح، باب لا یتأثر المرأة الا اذا فتنها الزوجها، ۳/۴۳، حدیث: ۵۳۳۰

③... مسلم، کتاب القسامۃ و الحارین، باب الجواز اذا بالدماء... الخ، ص: ۹۳، حدیث: ۱۷۴۸

④... بخاری، کتاب التوحید، باب ولقد سمیت... الخ، ۳/۶۱، حدیث: ۴۳۵۸

﴿9952﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرور انبیاء، محبوب کبریائے اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کسی کو لائق نہیں کہ وہ کہے: ”میں یونس بن مثنیٰ سے افضل ہوں“ (۱)۔ (۲)

## سرگوشی کی ممانعت:

﴿9953﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ کریم و مہربان آقا، دو عالم کے داماد اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم تین ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو افراد آپس میں سرگوشی نہ کرو کہ یہ عمل اسے غمگین کرے گا۔ (۳)

﴿9954﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعِ امّت صَلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور کسی کا تحقّہ زد کرو نہ مسلمانوں کو چوت پیچھاؤ۔ (۴)

﴿9955﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیمٌ صَلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی:

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ  
ترجمہ کنز الایمان: تاکہ ان کے ثواب انھیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ (پط ۲۲، خاطر ۳۰)

①... مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی مَرَّةً اَلْمَنَاجِی، جلد 7، صفحہ 578 پر اس کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی کوئی اپنے کو حضرت یونس عَلَیْہِ السَّلَام سے افضل نہ کہے کیونکہ کوئی ولی خواہ کسی درجے کا ہو نبی کی گردِ قدم کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کی شان تو بڑی ہے۔ تمام جہان کے اولیاء مل کر صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچتے اور اگر ”میں“ سے مراد حضور صَلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہیں تو اس کے مطلب وہی ہیں جو ابھی عرض کئے گئے۔ اور وہ یہ ہیں: یعنی مجھے دوسرے نبیوں پر ایسی بزرگی نہ دو جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو جاوے یا جس سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے یا نفسِ نبوت میں ترجیح نہ دو کہ کسی کو اصلی نبی مانو کسی کو ظلی، بروزی غرضی نبی لہذا یہ حدیث نہ تو اس آیت کے خلاف ہے کہ ”تِلْكَ الْأَمْثَلُ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (۲۵۲: البقرہ: ۲۵۲) اور نہ اس حدیث کے خلاف کہ اَنَا سَيِّدٌ وَلَدِي اَكْثَرُ۔ اپنی طرف سے گھڑ کر مسائل بیان نہ کرو، جو فضیلت قرآن یا حدیث سے ثابت ہو وہ بیان کرو لہذا حدیث واضح ہے، حضور صَلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سید الاولین والا آخرین ہیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۷/ ۵۷۹)

②... بخاری، کتاب التفسیر، باب انا وحبنا الیک... الخ، ۲۱۱/۳، حدیث: ۴۶۰۳

③... مسلم، کتاب السلام، باب تحذیر من اجاعة الاثین... الخ، ص ۱۲۰۱، حدیث: ۲۱۸۳

④... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۶۹/۲، حدیث: ۳۸۳۸

پھر اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ان کا ثواب جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور ”اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے“ یعنی انہیں ایسے لوگوں کی شفاعت کا اختیار دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کی ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

### مقروض سے درگزر کا انعام:

﴿9956﴾... حضرت سیدنا ابوناہل النصارى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک شخص سے حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ دنیا میں مال دار تھا اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا: تم جس مقروض کے پاس مال دیکھو اس سے قرض وصول کرنا اور جسے تنگدست دیکھو اس سے درگزر کرنا شاید اللہ عَزَّ وَجَلَّ بھی مجھ سے درگزر فرمائے۔ تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”میں اس سے درگزر کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔“<sup>(۲)</sup>

﴿9957﴾... اَلْهُمُّ الْمُوْتَمِنِ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم، نَبِيُّ مَجْسَمٍ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال کے وقت آپ کی زرہ تین صاع جو کے بدلے رہن (گروی) رکھی ہوئی تھی۔<sup>(۳)</sup>

### کتے سے بھی زیادہ ذلیل انسان:

﴿9958﴾... حضرت سیدنا عباس بن ربیعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کو فرماتے سنا: اے لوگو! عاجزی اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا ہے کہ جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے عاجزی کرتا ہے اللہ عَزَّ وَجَلَّ اسے بلندی عطا کرتا ہے اور اس سے فرماتا ہے: ”بلند ہو کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے تجھے بلندی عطا فرمائی۔“ تو وہ اپنی نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ عَزَّ وَجَلَّ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے اور اس سے فرماتا ہے: ”دھنکارا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے تجھے پست کیا ہے۔“ تو وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

①... معجم کبیر، ۲۰۱/۱۰، حدیث: ۱۰۳۶۲

②... شعب الایمان، فصل فی انظار العسر... الخ، ۵۳۳/۷، حدیث: ۱۲۳۲

③... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما قبل فی روح النبی صل اللہ علیہ وسلم... الخ، ۲۸۹/۲، حدیث: ۲۹۱۶

④... تاریخ بغداد، ۱۰۹/۲، رقم: ۵۰۳، محمد بن حمامہ

## نجات رحمتِ الہی سے ہی ملے گی:

﴿9959﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ کو بھی؟ ارشاد فرمایا: مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ عزوجل مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ حضرت سیدنا قینصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا زاد ہے: ”اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر اقدس پر رکھ لیا۔“<sup>(۱)</sup> جبکہ حضرت سیدنا محمد بن یوسف فریابی علیہ رحمۃ اللہ النبی سے مروی روایت میں ہے کہ (آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے تعلیمِ اُمت کے لئے ارشاد فرمایا: ”اگر ان (ہاتھوں) کے اعمال کے سبب اس نے میری پکڑ فرمائی تو مجھے ہلاکت میں ڈال دے گا۔“<sup>(۲)</sup> یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔

## جہنم سے بچانے والے اعمال:

﴿9960﴾... حضرت سیدنا عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُؤفٌ رَحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے صدقہ کے ذریعے، اگر وہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے (کہ یہ بھی صدقہ ہے)۔<sup>(۳)</sup>

## غم و پریشانی کے اسباب:

﴿9961﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، مُؤدِّ مُجِئِم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اللہ عزوجل کو ناراض کر کے ہرگز کسی کو راضی نہ کرنا، اللہ عزوجل کے فضل پر ہرگز کسی سے حسد مت کرنا، اللہ عزوجل نے جو تمہیں نہیں دیا اس پر کسی کو ملامت نہ کرنا کیونکہ کسی خواہش رکھنے والے کی خواہش تم تک اللہ عزوجل کا رزق پہنچا سکتی ہے نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی

①... شعب الامان، باب فی الخوف من اللہ، ۴/۶۹، حدیث: ۷۶۶

②... معجم اوسط، ۳/۲، حدیث: ۲۲۹۳

③... بخاری، کتاب الادب، باب طیب الکلام، ۱۰۶/۴، حدیث: ۶۰۳۳

اُسے تم سے روک سکتی ہے۔ بے شک اللہ عزوجل نے اپنے عدل و انصاف سے خوشی اور کشادگی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے جبکہ غم اور پریشانی کو شک اور ناراضی میں رکھا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9962﴾... اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور مُزَنَّت سے منع فرمایا ہے<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

## برباد کرنے والی تین عادات:

﴿9963﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ انصیا، محبوبِ کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بروزِ قیمت تین قسم کے لوگوں سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو گا: (۱)... احسان جتانے والا (۲)... تہبند لگانے والا اور (۳)... جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔<sup>(۴)</sup>

﴿9964﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دونوں عالم کے سردار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیونکر خوش مذاقوں جبکہ صور پھونکنے پر مامور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے صور ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، کان لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کب صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم یہ پڑھا کرو ”حَسْبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔“<sup>(۵)</sup>

①... معجم کبیر، ۱۰/۲۱۵، حدیث: ۱۰۵۱۲

②... یہ شراب کے برتن ہیں ڈنکا کھل کیا ہوا ایک دھوکہ جو جگ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، مزہ ت شراب پینے کا پالہ۔ چونکہ اس وقت شراب حق بنی حرام ہوئی تھی، اگر یہ برتن استعمال ہوتے رہتے تو ممکن تھا کہ انہیں چھوٹی ہوئی شراب پھر یاد آجاتی، اس لئے ان کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا، پھر کچھ عرصہ بعد یہ حرمت منسوخ ہو گئی۔ (ماخوذ از مرقاۃ المفاتیح، ۱/۳۸)

③... مسلم، کتاب الاشربة، باب المبی عن الانتیاء... الخ، ص ۱۱۰۲، حدیث: ۱۹۹۵

④... مسلم، کتاب الامان، باب بیان غلط التحريم اسباب... الخ، ص ۶۷، حدیث: ۱۰۶۱

⑤... مستدرک حاکم، کتاب الاھول، باب یفتظر صاحب الصور مع یوم، ۵/۷۷۵، حدیث: ۸۷۲۱

مشکاۃ، کتاب احوال القیامة، باب النفع فی الصور، ۲/۳۱۰، حدیث: ۵۵۲۷



## سائل کو خالی نہ لوٹاتے:

﴿9965﴾... حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں کچھ عطا کیجئے۔“ تو ارشاد فرمایا: تم مجھ سے سوال کرتے ہو اور اللہ عزوجل مجھے بخل سے منع فرماتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9966﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قوم عاد پر بھیجی جانے والی ہوا میری اس انگوٹھی کے برابر تھی۔<sup>(۲)</sup>

﴿9967﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم، رسول مکرّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، خواہش ہوتی تو کھالیتے اور ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔<sup>(۳)</sup>

## دوسروں کے حقوق ادا کرو:

﴿9968﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور تم ایسے معاملات دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! تو آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم پر جو حقوق ہوں انہیں ادا کرو اور اپنے حقوق اللہ عزوجل سے مانگو۔<sup>(۴)</sup>

**عورت کے لیے جنت میں جانے کا نسخہ:**

﴿9969﴾... حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو اس کے بچوں کے ساتھ دیکھا کہ ایک بچے کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور باقی بچے اس کے ارد گرد چل رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ عورتیں بچے بننے والی، انہیں

①... شعب الایمان، فصل فی المکافاة بالصالح، ۵۱۹/۶، حدیث: ۹۱۲۸، بتقریر ذلیل

②... تفسیر الطبری، سورۃ الاحقاف، تحت الآیۃ: ۲۹۳/۱۱، ۲۵، رقم: ۳۱۴۰۳، قول ابن عباس

③... بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، ۵۳۱/۳، حدیث: ۵۳۰۹

④... سنن کبریٰ بیہقی، کتاب قتال اهل البغی، باب الصبر علی اذى... الخ، ۲۴۱/۸، حدیث: ۱۲۶۱۵

گود میں اٹھانے والی اور ان پر شفقت کرنے والی ہیں، اگر یہ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں سے نمازی عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں۔<sup>(۱)</sup>

## مقتول جب قاتل کو پکڑے گا:

﴿۹۹۷۰﴾... حضرت سیدنا ابو ورداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی سرکار، غیبیوں پر خبردار باذن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن مقتول بیچ راستے میں بیٹھ جائے گا جب قاتل وہاں سے گزرے گا تو وہ اسے پکڑ لے گا اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گا: ”اے میرے رب! اس نے میری نماز اور روزے کو مجھ سے خد کیا تھا۔“ پس قاتل اور قتل کا حکم دینے والے کو عذاب دیا جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿۹۹۷۱﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، شفیع اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو فرماتے: ”ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب عزوجل کی حمد کرنے والے ہیں۔“<sup>(۳)</sup>

## میدان جہاد میں ثابت قدمی:

﴿۹۹۷۲﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم، مہر مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا: اَنَا الَّذِي لَا كَيْدَ اَنَا اِنْ عِنْدِ الْمُطْلَبِ يَتْنِي فِي هَوْلِ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب (جیسے سردار) کا بیٹا ہوں۔<sup>(۴)</sup>

﴿۹۹۷۳﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ریشمی پوشاک پیش کی گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے چھونے اور اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس کی نرمی

①... ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب فی الرافقہ ذی زوجہا، ۲/۹۹، حدیث: ۲۰۱۳، بتغییر قلیل

②... مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب فیمن یقتل مسلماً او امر بقتله، ۴/۵۸۶، حدیث: ۱۳۳۳

③... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا قدم من السفر، ۵/۲۷۶، حدیث: ۳۳۵۱

④... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب بغلة النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضاء، ۲/۴۷۴، حدیث: ۲۸۷۳

پر حیرت کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے رومال اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ نرم ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## باری تعالیٰ کی عطائیں:

﴿9974﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے:

وَاللّٰهُ لَوْ لَا اَللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا  
فَاَلَا لَكُنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَشَبَّتِ الْاَقْدَامَ اِذَا لَاقَيْنَا  
اِنَّ الْاَوَّلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَيْنَا

**ترجمہ:** خدا! اگر اللہ عزوجل کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ عزوجل! تو ہم پر قلبی سکون نازل فرما اور دشمن سے مقابلے کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ بے شک ان کفار نے ہم پر بلا وجہ زیادتی کی، جب انہوں نے فساد کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا۔<sup>(۲)</sup>

﴿9975﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (ان کے اسلام لانے سے قبل غزوہ بدر کے موقع پر) ایک انصاری شخص قیدی بنا کر لائے تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے مجھے قیدی بنایا تھا، مجھے تو اس شخص نے قید کیا ہے جس کے سر کے بال اس انصاری سے اتنے زیادہ جھڑے ہوئے تھے تو آپ نے انصاری سے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل نے کسی مُعْتَزِّل فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔“<sup>(۳)</sup>

## نماز میں اقتدا کا انداز:

﴿9976﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی رحمت، شفیع

①... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ۵۶۰/۲، حدیث: ۳۸۰۲

②... بخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق، وفي الاحزاب، ۵۲/۳، حدیث: ۴۱۰۴

③... مسند امام احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۱/۲۳۹، حدیث: ۹۳۸، بتصرف قلیل

اُنٹ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پیچھے نماز ادا کرتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ اُس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنی پیشانی سجدہ میں نہ رکھ دیتے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9977﴾... حضرت سیدنا سلیمان بن مُرَدَّوہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان، مکی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ احزاب کے دن ارشاد فرمایا: اب وہ ہم سے نہیں بلکہ ہم ان سے لڑیں گے۔<sup>(۲)</sup>

**شفا دہلی دو چیزیں:**

﴿9978﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شفا دہلی دو چیزیں قرآن کریم اور شہد تم پر لازم ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿9979﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سلطانِ انبیاء، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیچھے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور خود جا کر ایسے لوگوں کے گھر جلا دوں۔<sup>(۴)</sup>

## خوفِ خدا پر مغفرت کا انعام:

﴿9980﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رَغُوفِ رَحیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا جس نے کبھی کوئی عملِ خیر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر مجھے بیس کر میرے ڈڑوں کو دو جسے کر کے ایک حصہ صحرائیں اور دوسرا سمندر میں ڈال دینا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صحرا اور دریا کو حکم دیا تو ان دونوں نے اس کے منتشر ڈڑوں کو جمع کر دیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سے فرمایا: تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کی: ”تیرے خوف نے۔“ تو اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی مغفرت فرمادی۔<sup>(۵)</sup>

۱... بخاری، کتاب الاذان، باب السجود علی سبعة اعظم، ۴۸۵/۱، حدیث: ۸۱۱

۲... بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ الخندق، وحی الاحزاب، ۵۳/۳، حدیث: ۳۱۱۰، ۳۱۰۹

۳... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب العمل، ۹۵/۳، حدیث: ۳۳۵۲

۴... مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الصلاة الجماعة، ص ۳۲۷، حدیث: ۹۵۲، بغیر دلیل

۵... مسند امام احمد، مسند ابی سعید، ۲۸/۲، حدیث: ۱۱۰۹۶

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ شخص کفن چور تھا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9981﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شَفِیعُ اُمِّمَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سلام میں پہلے کرنے والا (قطع تعلقی سے) بری ہے۔<sup>(۲)</sup>

**بد سلوک کے ساتھ حسن سلوک:**

﴿9982﴾... حضرت سیدنا مالک بن نضلمہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں کسی شخص کے ہاں جاؤں اور وہ مجھے مہمان بنائے نہ ہی مہمان نوازی کرے پھر وہ میرے یہاں آئے تو کیا اُس سے بدلا لوں؟ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔<sup>(۳)</sup>

﴿9983﴾... حضرت سیدنا ابوالیوب انصاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شَفِیعُ اُمِّمَ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ (یعنی سورہ اٰخلاص) کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿9984﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (رمضان کے) آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو (عبادت کے لیے) جگایا کرتے تھے۔<sup>(۵)</sup>

**زبان رسالت سے خوش آمدید:**

﴿9985﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”پاک اور پاکیزہ شخص کو خوش آمدید۔“<sup>(۶)</sup>

①...مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی سعید، ۱/۳۳۳، حدیث: ۹۹۸

②...شعب الایمان، باب فی معاہدۃ اہل الدین... الخ، ۶/۳۳۳، حدیث: ۸۷۸۶

③...معجم کبیر، ۱۹/۲۷۶، حدیث: ۶۰۶

④...مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب فضل قراۃ قل ھو اللہ احد، ص ۴۰۵، حدیث: ۸۱۱، عن ابی الدرداء

⑤...ترمذی، کتاب الصور، باب: ۲۳، ۲/۳۰۹، حدیث: ۷۹۵

⑥...ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عمار بن یاسر، ۵/۳۳۸، حدیث: ۳۸۲۳

﴿9986﴾... حضرت سیدنا وہب بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: آدمی کے نگہار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ اسے ضائع کر دے جس کی خوراک اس کے ذمہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

## 10 فیصد خرچ میں برابر کا ثواب:

﴿9987﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص نے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا قدم میں حاضر ہو کر عرض کی: میرے پاس سو اوقیہ تھے، میں نے ان میں سے 10 اوقیہ صدقہ کر دیئے۔ دوسرے شخص نے عرض کی: میرے پاس 10 اوقیہ تھے، میں نے ان میں سے ایک اوقیہ صدقہ کر دیا۔ ایک اور شخص عرض گزار ہوا: میرے پاس 10 دینار تھے، میں نے ان میں سے ایک دینار صدقہ کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سب ثواب میں برابر ہو۔<sup>(۲)</sup>

﴿9988﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص گھوڑے کو راہِ خدا میں باندھے تو اس کا چارا اور اس کا بول و براز بھی بروزِ قیامت میزان میں رکھا جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

## کھوٹ اور بیماری کا علاج:

﴿9989﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۃ یس کی تلاوت کی اس کے لئے 10 حج کا ثواب ہے اور جس نے اسے لکھ کر پیتا تو اس کے پیٹ میں ہزار یقین اور ہزار رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔<sup>(۴)</sup>

①... ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی صلۃ الرحم، ۱۸۳/۳، حدیث: ۱۶۹۲

②... مسند البزار، ماہروی ابو اسحق ہمدانی عن حارث بن علی، ۷۷/۳، حدیث: ۸۴۱، بغیر قلیل

③... مسند امام احمد، من حدیث اسماء ابیہ یزید، ۴۴۱/۱۰، حدیث: ۲۷۶۳، عن اسماء بنت یزید

④... شعب الایمان، باب فی تعظیم القرآن، ذکر سورۃ یس، ۲۸۰/۲، حدیث: ۴۳۶۵، عن ابی ابکر الصدیق، بغیر قلیل

﴿9990﴾... حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی خیر پر رہے گی۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ ”اور ستارے ظاہر ہونے تک نمازِ مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی۔“

### محبتِ الہی کا نسخہ:

﴿9991﴾... حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اُسے کروں تو اللہ عزوجل اور لوگوں کا محبوب ہو جاؤں۔ محبوبِ خدا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ عزوجل تم سے محبت فرمائے گا اور لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9992﴾... حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9993﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حبیبِ خدا، محبوبِ کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے، بڑے، آزاد یا غلام کی طرف سے ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور صدقہ فطر دینے کا حکم دیا اور لوگوں نے دوئد (سوادیر) گندم کو اس کے قائم مقام کر لیا۔<sup>(۴)</sup>

### کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا منع ہے:

﴿9994﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ”کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کوئی دوسرا وہاں

①... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصیام، باب تعجیل الافطار، ۳۳۱/۲، حدیث: ۱۳

②... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۳۳۲/۳، حدیث: ۴۱۰۲

③... ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصوم زکاۃ الجسد، ۳۳۶/۲، حدیث: ۱۷۳۵، عن ابی ہریرۃ

④... سنن دارمی، کتاب الزکاۃ، باب فی زکاۃ الفطر، ۳۸۱/۱، حدیث: ۱۶۶۲

بیٹھ جائے۔“ لیکن یہ ضرور ہے کہ تم دوسروں کو جگہ دو اور کشادگی پیدا کرو۔<sup>(۱)</sup>

9995... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خلق کے رہبر، محبوب رب

اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی باندیوں (عورتوں) کو مسجدوں سے نہ روکو<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

9996... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ

تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قبر والوں پر روزانہ ان کے جنت اور جہنم کے ٹھکانے پیش کئے جاتے ہیں۔“<sup>(۴)</sup>

①... بخاری، کتاب الاستئذان، باب اذا قيل لكم تفسحوا... الخ، ۱۷۹/۴، حدیث: ۶۲۷۰

②... شروع میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت تھی مگر بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتفاق سے اس سے ممانعت کر دی گئی، یہی قول حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”جو باتیں عورتوں سے اب پیدا کی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان باتوں کو ملاحظہ فرماتے تو مسجد میں آنے سے انہیں ضرور منع فرمادیتے۔“ (بخاری، کتاب الاذان، باب انظار الناس قیام الامام العالم، ۳۰۰/۱، حدیث: ۸۶۹) اب تو عورتوں کی عریانیٹ اور ان کی آزادی بہت بڑھ چکی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا حال دیکھ کر انہیں مسجد میں آنے سے منع فرما دیا حالانکہ اس زمانہ میں اگر ایک عورت نیک ہے تو ان کے زمانہ مبارک میں ہزاروں عورتیں نیک تھیں اور ان کے زمانہ میں اگر ایک عورت فاسقہ تھی تو اب ہزاروں عورتیں فاسقہ ہیں اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عورت سر اپا شرم کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ کے قریب اپنے گھر کی تہہ میں بیٹی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعہ کے دن کھڑے ہو کر کنکریاں مار مار کر عورتوں کو مسجد سے باہر نکالتے اور حضرت سیدنا امام ابو نعیم رحمہ اللہ تابعی تابعی علیہ و آلہ وسلم نے اپنی مستورات کو جمعہ اور جماعت میں نہیں جانے دیتے تھے اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متفقین نے اگرچہ بوزہی عورتوں کی فخر، مغرب اور عشاء کی جماعتوں میں شرکت کو جائز ٹھہرا تھا لیکن متاخرین نے بوزہی ہو یا جو ان ہر عمر کی عورتوں کو سب نمازوں کی جماعت میں دن کی ہویا رات کی شرکت سے منع فرما دیا اور ممانعت کی وجہ فتنہ کا خوف ہے جو حرام کا سبب ہے اور جو چیز حرام کا سبب ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب فساد زمانہ کے سبب اب سے سیکڑوں برس پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے اور جماعتوں میں شرکت کرنے سے عورتیں روک دی گئیں حالانکہ ان دونوں باتوں کی شریعت میں بہت سخت تاکید ہے تو اس زمانہ میں جب کہ فتنہ و فساد بہت بڑھ چکا ہے بھلا عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ سڑکوں، پارکوں اور بازاروں میں گھومنا پھرتا اور ناخبر محوں کو اپنا بناؤ سنگار و سنگار دکھانا کیونکر جائز و درست ہو سکتا ہے۔ (ماخوذ از فتاویٰ فیض الرحمن، ۲/ ۳۳۶، ۳۳۵)

③... بخاری، کتاب الجمعة، باب: ۳۱۰/۱، حدیث: ۹۰۰

④... مسند الفردوس، ۲۰۵/۲، حدیث: ۵۲۰۴، عن ابن عباس



”ایک روایت میں یہ بھی ہے: ”جب تک دنیا قائم ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔“

## ایک نبی ﷺ کی حیا اور خوفِ خدا:

﴿9997﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان انبیا، محبوب کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو مریض گمان کر کے آپ کی عیادت کیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اللہ عزوجل کے خوف اور اس سے حیا کے سوا کچھ لاحق نہ تھا۔<sup>(۱)</sup>

﴿9998﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار (عید) کرو، اگر چاند بادلوں میں چھپ جائے تو 30 دن شمار کرو۔<sup>(۲)</sup>

## شوہر خرچ نہ دے تو۔۔۔!

﴿9999﴾... اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ابوسفیان بہت کم خرچ کرنے والے شخص ہیں، اگر میں چپکے سے ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں تو کیا اس میں میرے لئے کوئی حرج ہے؟ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتنا لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو دستور کے مطابق کفایت کرے۔<sup>(۳)</sup>

## غلبہ نیند میں نماز کا حکم:

﴿10000﴾... اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں نیند آئے تو اسے اپنے بستر پر سو جانا چاہئے کیونکہ نیند میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے یا اپنے حق میں دعا مانگ رہا ہے۔<sup>(۴)</sup>

①... الفوائد لعمامہ، ۱/۱۲۷، حدیث: ۲۹۲، ۲۹۳

②... مسلم، کتاب الصیام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، ص ۵۳۶، حدیث: ۱۰۸۱

③... بخاری، کتاب البیوع، باب من اجری امر الامصار... الخ، ۳۶/۲، حدیث: ۲۲۱۱

④... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الرجل یلتبس علیہ... الخ، ۳۲۹/۲، حدیث: ۲۲۲۳

﴿10001﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم روزے کی حالت میں اپنی بعض ازواج کا بوسہ لے لیا کرتے تھے <sup>(۱)</sup>۔ <sup>(۲)</sup>

## گھر والوں سے حسن سلوک:

﴿10002﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ حسنِ اخلاق کے بیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں (بیوی بچوں) کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

﴿10003﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے فرمایا کہ قریش کہا کرتے تھے: ہم حرم کے رہنے والے ہیں لہذا ہم مٹی ہی سے واپس لوٹ جائیں گے جبکہ دیگر لوگ عرفات سے لوٹا کرتے تھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی:

ثُمَّ آفَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاصِ النَّاسِ  
ترجمہ کنزالایمان: پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلڑے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ <sup>(۴)</sup>

## سر ڈھانپنے کے مواقع:

﴿10004﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے سر اقدس کو ڈھانپ لیتے اور یوں ہی جب اپنی ازواج سے صحبت فرماتے تو مبارک سر کو ڈھانپ لیتے تھے۔ <sup>(۵)</sup>

①... احناف کے نزدیک: (روزے کی حالت میں) عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو گا اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً (یعنی چاہے انزال و جماع کا ذریعہ نہ ہو) مکروہ ہے۔  
(بہار شریعت، حصہ ۱، ۹۷/۱۰۵)

②... مسند امام احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۶۷/۱۰، حدیث: ۲۶۰۱۲

③... ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۴۷۵/۵، حدیث: ۳۹۴۱

④... مسند طباطبائی، الجزء السادس، عروۃ بن زبیر عن عائشہ، ص ۲۰۷، حدیث: ۱۳۷۱

⑤... سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الطہارۃ، باب تطہیۃ الرأس عند... الخ، ۱۵۵/۱، حدیث: ۳۵۵

﴿10005﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا بیان ہے کہ حضور رحمت عالم ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنی ازواج سے محبت کے وقت مبارک سر کو ڈھانپ لیتے اور وضو کی جگہ میں داخل ہوتے وقت بھی سر اقدس کو ڈھانپ لیتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

### شیطان کے لئے ہتھوڑا:

﴿10006﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ سرورِ دو عالم، شفیع اُمِّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب دعا کرتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو پھیلا کر اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کر کے دعا کرتے اور ارشاد فرماتے: دعائیں شہادت والی انگلی سے اشارہ شیطان کے لئے ہتھوڑا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10007﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمِّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور سورۃ اخلاص، سورۃ نفل اور سورۃ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

### اچھی آواز میں تلاوت کرو:

﴿10008﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ سرورِ دو عالم، ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ یعنی قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔“<sup>(۴)</sup>

﴿10009﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! کنجوسی نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ کنجوسی کی جائے گی اور خرچ کیا کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔<sup>(۵)</sup>

①... سنن کبریٰ للبیہقی: کتاب الطہارۃ، باب تغطیۃ الراس بعد... الخ، ۱/۱۵۵، حدیث: ۴۵۵، دون قولہ: واذا دخل المتوضأ غطی راسہ

②... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، ۳/۳۶۲، حدیث: ۶۰۰۷

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب من کان یقول الدعاء... الخ، ۷/۱۱۱، حدیث: ۱۳

③... مسند امام احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۹/۳۹۵، حدیث: ۲۵۲۶۳، بغیر قلیل

④... ابوداؤد، کتاب الوتر، باب استحباب الترتیل فی القراءۃ، ۲/۱۰۵، حدیث: ۱۶۶۸، عن ہرأ بن عاذب

⑤... مسند الحارث، کتاب زکاة، باب الحف علی الصدقۃ، ۱/۳۹۱، حدیث: ۲۹۶، الکامل لابن عذی، ۸/۳۸، رقم: ۱۸۰۹، معان ابوصالح

﴿10010﴾... اُنّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سر تاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں ان سے آگے نکل گئی پھر جب میرا کچھ وزن بڑھ گیا اور میں نے ایک بار پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو اس بار آپ مجھ سے آگے نکل گئے اور ارشاد فرمایا: عائشہ! یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

### روز جمعہ اور ماہ رمضان کی برکت:

﴿10011﴾... اُنّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ محسن کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے اور اگر جمعہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو باقی دن بھی سلامتی سے گزرتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿10012﴾... اُنّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: اگر جمعہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو سارے دن سلامتی سے گزرتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> کوئی میدان، کوئی پہاڑ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتی ہو۔ ﴿10013﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے استفسار فرمایا: تم نے حجر اسود کو بوسہ کس طرح دیا؟ میں نے عرض کی: میں نے بوسہ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا: تم نے صحیح کیا۔<sup>(۴)</sup>

### بیٹیوں کی خواہش کا لحاظ رکھو:

﴿10014﴾... حضرت سیدنا زبیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کے نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو کسی بُرے اور

①... ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی السبق علی الرجل، ۳/۳۲، حدیث: ۲۵۷۸

②... شعب الایمان، باب فی الصیام، التماس لیلۃ القدر فی الوتر... الخ، ۳/۳۲۰، حدیث: ۳۷۰۸

③... شعب الایمان، باب فی الصیام، التماس لیلۃ القدر فی الوتر... الخ، ۳/۳۲۰، حدیث: ۳۷۰۸

④... معجم کبیر، ۱/۱۲۷، حدیث: ۲۵۷۷

بد صورت انسان سے اس کی شادی کروادیتا ہے حالانکہ انہیں بھی ویسی خواہش ہوتی ہے جیسی تمہاری ہوتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10015﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم راستے میں مشرکین سے ملو تو انہیں سلام میں پہل نہ کرو۔<sup>(۲)</sup>

﴿10016﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمینِ عرب چراگا ہوں اور نہروں والی نہ ہو جائے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10017﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ”دریائے فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا، اس وقت لوگ باہم جنگ کریں گے تو ہر سو میں سے 99 کافر ہو کر قتل ہوں گے۔“<sup>(۴)</sup>

**سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا:**

﴿10018﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص یہ کہے کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10019﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لمیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے: آسمان میں ندا کر دو کہ ”اللہ عزوجل فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔“ اور جب اللہ عزوجل کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ندا کرتے ہیں: ”اللہ عزوجل فلاں بندے کو ناپسند فرماتا ہے تم بھی اسے ناپسند جانو۔“<sup>(۶)</sup>

①...مسند الفردوس، باب الیاء: ۳۸۹/۲، حدیث: ۸۳۷۸

②...سارے کفار کا بھی حکم ہے ذمی ہوں یا حربی کہ ان کو مسلمان بلا ضرورت سلام نہ کرے کہ سلام میں اظہارِ احترام ہے اور کفار کا احترام درست نہیں، مرتدین بد مذہبوں کا حکم بھی یہی ہے ضرورت کے احکام جدا گانہ ہیں۔ (مرآۃ المناجیح: ۹/۳۱۸)

③...مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ: ۶۱۷/۳، حدیث: ۱۰۸۰۱

④...مسلم، کتاب الزکاۃ، باب الترغیب فی الصدقة... الخ، ص: ۵۰۵، حدیث: ۱۰۱۲

⑤...مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی... الخ، ص: ۱۵۷، حدیث: ۲۸۹۳، بخاری، ص: ۲۸۹

⑥...مسلم، کتاب البر والصلة، باب ان فی من قول: هلک الناس، ص: ۱۲۱۲، حدیث: ۲۶۲۳

⑦...مسلم، کتاب البر والصلة، باب اذا احب الله عبدا، ص: ۱۲۱۷، حدیث: ۲۶۲۳، بخاری، ص: ۲۸۹

## لوگوں کی مثال او نٹوں کی طرح ہے:

﴿10020﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں کی مثال ان سوا نٹوں کی طرح ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں پاؤ گے۔“<sup>(۱)</sup>

﴿10021﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک دین خیر خواہی ہے، بے شک دین خیر خواہی ہے، بے شک دین خیر خواہی ہے۔“ عرض کی گئی تیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کس کے لئے خیر خواہی ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے لئے، اس کے رسول کے لئے، اس کی کتاب کے لئے“<sup>(۲)</sup>، مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے“<sup>(۳)</sup>۔“<sup>(۴)</sup>

## شکر گزار کی فضیلت:

﴿10022﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُفُوْتُ رَحِمِ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الطَّائِعُ الشَّاكِرُ وَمِنْ الصَّائِمِ الصَّامِتِ“ یعنی کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر چُپ رہنے والے کی طرح ہے۔“<sup>(۵)</sup>

①... ابن ماجہ: کتاب الفتن، باب من ترویج له السلامة من الفتن، ۳/۳، حدیث: ۳۹۹۰، عن ابن عمر

②... امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کے لئے خیر خواہی سے مراد اللہ عزوجل پر ایمان لانا، شرک سے بچنا، اس کی اطاعت کرنا وغیرہ، اللہ عزوجل کی کتاب کی خیر خواہی سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ مخلوق کے کلام کے مشابہ بالکل نہیں، اللہ عزوجل کے رسول کی خیر خواہی سے مراد ان کی رسالت کی تصدیق کرنا اور ان کے لائے ہوئے احکام پر ایمان لانا ہے۔ (شرح مسند النووی، کتاب الايمان، باب بيان ان الدين النصيحة، ۳/۸۱ ملقطاً)

③... مؤلف شہر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مرآۃ المناجیح، جلد 6، صفحہ 558 پر اس کی شرح میں فرماتے ہیں: اماموں سے مراد یا تو اسلامی بادشاہ اسلامی حکام ہیں یا علماء دین مجتہدین کا ملین اولیاء واصلین ہیں۔ ان کی نصیحت یہ ہے کہ اٹکے ہر جائز حکم کی بقدر طاقت تعمیل کرنا، لوگوں کو ان کی اطاعت جائزہ کی طرف رغبت دینا، آخر مجتہدین کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، (مرقات) علماء کا ادب کرنا۔ عام مسلمانوں کی نصیحت یہ ہے کہ بقدر طاقت ان کی خدمت کرنا، ان سے دینی و دنیا مصیبتیں دور کرنا، ان سے محبت کرنا، ان میں علم و دین پھیلانا، امثال نیک کی رغبت دینا، جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا۔

④... نسائی، کتاب البیعة، النصیحة للامام، ص ۱۹۸، حدیث: ۲۲۰۵

⑤... قرمزی، کتاب الصیام، باب فیمن قال: الطاعم الشاکر، ۲/۳۵۵، حدیث: ۱۶۶۳، ۱۶۶۵، ”الصامت“ بدله ”الصابر“

﴿10023﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ“ یعنی مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔“ (۱)

## قرآن کریم پر اجرت کی مذمت:

﴿10024﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین، شہنشاہ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا فَذَلِكَ حَطْلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ“ یعنی جس نے قرآن مجید پر اجرت لی تو اس کا قرآن کریم سے یہی حصہ ہے (۲)۔“ (۳)

①... ابن ماجہ، کتاب الرہون، باب اجر الاجراء، ۱۹۲/۳، حدیث: ۲۲۲۳، ابن ابی عمر

②... سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: تلاوت قرآن اور ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے، لینے والے دینے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۵۳) یوں ہی سوئم وغیرہ کے موقع پر اجرت پر قرآن پڑھوانا جائز ہے دینے والا لینے والا دونوں گنہگار۔ (بہار شریعت، حصہ ۳، ۱۳۶/۳) البتہ تعلیم قرآن کریم پر اجرت لینا جائز ہے۔ چنانچہ مصدق الشریعہ، بذی الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”تعلیم قرآن وقفہ اور اذان و امامت پر اجارہ جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو قرآن وقفہ کے پڑھانے والے طلبہ معیشت میں مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے۔“ (بہار شریعت، حصہ ۳، ۱۳۶/۳) مصدق الشریعہ حضرت مصدق الشریعہ مزید فرماتے ہیں: ”جس بندہ خدا سے بوسکے کہ ان امور کو محض خالصاً لوجہ اللہ (خاص اللہ) کے لئے انجام دے اور اجر آخری (آخرت کے اجر) کا مستحق بنے تو اس سے بھتر کیا بات ہے پھر اگر لوگ اس کی خدمت کریں بلکہ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ دین کی خدمت یہ کرتے ہیں ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں تو دینے والا مستحق ثواب ہو گا اور اس کو لینا جائز ہو گا کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ اعانت و امداد ہے۔“ (بہار شریعت، حصہ ۳، ۱۳۶/۳) مزید فرماتے ہیں: اجرت پر اطاعت و عبادت اور دینی خدمت کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی امید بیکار ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۳، ۱۳۶/۳) ہاں اگر تعلیم قرآن اور امامت و مؤذن پر اجرت لینا کسی کی مجبوری ہو تو اچھی نیت ہونے پر ثواب کی امید کی جاسکتی ہے جیسا کہ مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر نیت خیر ہو تو دینی خدمت پر تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، دیکھو ان عاملوں (ذکوۃ و صدقات جمع کرنے والوں) کو پوری اجرت دی جاتی تھی مگر ساتھ میں یہ ثواب بھی تھا، چنانچہ مجاہد کو غنیمت بھی ملتی ہے اور ثواب بھی، حضرات خلفائے راشدین سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب نے خلافت پر تنخواہیں لیں مگر ثواب کسی کا کم نہیں ہوا، ایسے ہی وہ علماء و امام و مؤذن جو تنخواہ لے کر تعلیم، اذان، امام کے فرائض انجام دیتے ہیں اگر ان کی نیت خدمت دین ہے تو ان شاء اللہ ثواب بھی ضرور پائیں گے۔ (مرآۃ المناجیح، ۱۸/۳)

③... جمع الجامع، حرف المیم، ۲۰۱/۶، حدیث: ۲۰۱۷

﴿10025﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رَحِمَ اللّٰهُ عَيْنَا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَرَحِمَ اللّٰهُ عَيْنَا سَهْرَتْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَحْنِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اس آنکھ پر رحم فرمائے جو اس کے خوف سے روئی اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس آنکھ پر بھی رحم فرمائے جو راہ خدا میں پھرے کے لئے جاگی۔“<sup>(۱)</sup>

## حق مسلم ضائع کرنا بلاکت ہے:

﴿10026﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاکت ہے اس کے لئے جو مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا اور اس کا حق کم کرتا ہے، اس کے لئے بلاکت ہے، اس کے لئے بلاکت ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿10027﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اس گھر (خانہ کعبہ) کا حج یا عمرہ کیا اور فسق کیا نہ بخش گوئی کی وہ (گناہوں سے) ایسا (پاک) ہو گیا جیسا اس کی ماں نے اُسے جنمنا۔“<sup>(۳)</sup>

## بچھو سے حفاظت کا وظیفہ:

﴿10028﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پوری رات سو نہ سکا، بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی: فلاں شخص کو بچھو نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پوری رات سو نہ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ شام کے وقت ”أَعُوذُ بِكَ يَا اللّٰهُ الشَّامَةِ“ یعنی میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ”کہہ لیتا تو اسے صبح تک بچھو کا ڈنک نقصان نہیں دیتا۔“<sup>(۴)</sup>

﴿10029﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت دن کے وقت میں آئے گی۔“<sup>(۵)</sup>

①...مسند الفردوس، ۴۰۸/۱، حدیث: ۳۰۲۶

②...شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۴۸۸/۱، حدیث: ۷۹۷

③...بخاری، کتاب البصر، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: ”فلا رقت“، ۶۰۰/۱، حدیث: ۱۸۱۹، دارقطنی، کتاب الحج، باب الواقیت، ۳۵۸/۲، حدیث: ۲۶۸۸

④...معجم اوسط، ۴۰۸/۵، حدیث: ۷۰۹۳، عن انس

⑤...مسند الفردوس، ۴۲۱/۲، حدیث: ۷۹۷



## بہترین اور بدترین:

﴿10030﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور، شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بچوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ عزوجل کی طرف بلائے اور اس کے بندوں کو اس کی طرف راغب کرے اور فاسقوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو زیادہ قسمیں کھائے اگرچہ سچا ہو اور اگر جھوٹا ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10031﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیعِ اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر پالی اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر پالی<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

﴿10032﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ والی اُمّت، سرِ اُپارِ حمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی ٹوبہ ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سوجائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود کو نبی ملامت کرے۔<sup>(۴)</sup>



۱... مسند الفردوس، ۱/۳۶۳، حدیث: ۳۶۹۵

۲... مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: کیونکہ اس نے نماز کا وقت پالیا اور اس کی یہ نماز ادا ہو گئی نہ کہ قضاء۔ خیال رہے کہ اس بارے میں احادیث متعارض ہیں۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت نماز صحیح ہے مگر دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے سخت منع فرمایا، لہذا قیاس شرعی کی ضرورت پڑی جو ان میں سے ایک حدیث کو ترجیح دے۔ قیاس نے حکم دیا کہ اس صورت میں عصر درست ہوگی اور فجر فاسد ہو جائے گی کیونکہ عصر میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے وقت مکروہ بھی آتا ہے یعنی سورج کا پیلا پڑنا، لہذا یہ شروع بھی ناقص ہوئی اور ختم بھی ناقص، لیکن فجر میں آخر تک وقت کامل ہے اس صورت میں نماز شروع تو کامل ہوئی اور ختم ناقص، لہذا عصر میں اس حدیث پر عمل ہے اور فجر میں ممانعت کی حدیث پر۔ غرض کہ سورج نکلنے وقت کوئی نماز درست نہیں اور سورج ڈوبنے وقت اس دن کی عصر جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/۳۸۳، مستطاب)

۳... مسلم، کتاب المساجد، باب من اور کبرکۃ من... الخ، ص ۳۰۶، حدیث: ۶۰۸

۴... قرمزی، کتاب الاطعمۃ، باب ما جاء فی کراهیۃ البیتوتہ... الخ، ۳/۳۴۰، حدیث: ۱۸۶۷

## حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک مشہور امام، نمایاں شخصیت، جن کی خوبیوں کا چرچا ہے، عابد و زاہد، روایتوں کی جستجو اور ان میں شدت کرنے والے، روایت اور حدیث میں امیر المؤمنین، سابقہ و موجودہ محدثین کی زینت، روایات کی صحت پر زیادہ توجہ رکھنے والے، گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے بری، بہت حجت اور تحقیق والے حضرت سیدنا ابوبطام شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہیں جو فقر کو گلے لگانے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے حفاظت پر بھر و سار رکھنے والے تھے۔

مقول ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرنے اور پاکدامنی سے غریب ہونے کا نام تَقْوُف ہے۔

### کھال ہڈیوں پر سوکھ گئی:

﴿10033﴾... حضرت سیدنا ابوبکر اکرم اوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ دیکھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کر کے ان کی کھال ان کی ہڈیوں پر سوکھ چکی تھی حتیٰ کہ ہڈی اور کھال کے بیچ گوشت نہیں تھا۔

﴿10034﴾... حضرت سیدنا حمزہ بن زیاد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو گفتگو کرتے سنا ہے، اُن کی زبان میں کافی ثقل تھا اور عبادت کے سبب اُن کی کھال ہڈی پر خشک ہو چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں: اگر میں تمہیں ثقہ راویوں سے حدیث بیان کروں تو تین سے زیادہ سے نہیں کر پاؤں گا۔

### روزوں کا اثر نظر نہ آتا:

﴿10035﴾... عمر بن ہارون کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بلا ناغہ لگاتار روزے رکھتے مگر آپ پر ان کا کوئی اثر نظر نہ آتا تھا جبکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مہینے میں تین دن روزہ رکھتے اور آپ پر ان کا اثر دکھائی دیتا تھا۔

﴿10036﴾... حضرت سیدنا ابو قتیبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حدیث شریف کے متعلق اصحاب حدیث سے بار بار فرمایا: ”اے لوگو! یاد رکھو کہ تم نے جب بھی حدیث پاک

میں پیش قدمی کی تو قرآن کریم سے پیچھے رہ گئے۔“ اور بسا اوقات اپنے سر پر ہاتھ مار کر فرماتے: ”خاک! نہر شعبہ یعنی شعبہ کے سر پر خاک۔“

﴿10037﴾... ابو قحس غزو بن ہشتم کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَ و طویل رکوع کرتے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ آپ بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان دیر تک بیٹھے دیکھتا تو گمان کرتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔

﴿10038﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر میرے پاس تھوڑا سا آنا اور ایک لکڑی ہو تو مجھے کچھ پروا نہیں کہ دنیا کی کون سی چیز میرے پاس نہیں ہے۔

### لوگوں کے لیے آراستہ مت ہو:

﴿10039﴾... حضرت سیدنا ابو نوح قُرَاد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے ایک قمیص پہنے دیکھا تو فرمایا: یہ کتنے میں خریدی؟ میں نے کہا: آٹھ درہم میں۔ آپ نے فرمایا: ”تم پر افسوس ہے! آٹھ درہم کی قمیص پہنتے ہوئے تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ چار درہم کی قمیص خرید کر چار درہم صدقہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔“ میں نے کہا: اے ابو بظام! میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جن کے لئے ہمیں آراستہ ہونا پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا: آخر ہم ان کے لئے آراستہ ہوتے ہی کیوں ہیں؟

﴿10040﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل تھے، جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو اپنے گھر میں داخل ہوتے اور جو ہو سکتا اُسے عطا فرماتے۔

### غریبوں کی دستگیری:

﴿10041﴾... حضرت سیدنا عثمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو بیٹھے وقت کنی مرتبہ یہ فرماتے سنا: ”اگر مجھے تم سے حاجتیں نہ ہوتیں تو میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھتا۔“ اور اُن کی حاجتیں یہ تھیں کہ وہ اپنے غریب پڑوسیوں کے لئے سوال کیا کرتے تھے۔

﴿10042﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شعبہ بن

حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس ہوتا، پس اُس وقت کوئی مانگنے والا آجاتا اور آپ کے پاس اُسے دینے کو کچھ نہ ہوتا تو مجھ سے فرماتے: ”یہی! کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں کہتا ہاں، اور انہیں پیش کر دیتا۔ تو وہ لے کر سائل کو دے دیتے پھر جب اُس کا عوض مجھے لوٹاتے تو میں عرض کرتا: ابو بصرام! یہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے: یہ لے لو۔

## سخی دل انسان:

﴿10043﴾... ابو قحس عمرو بن ثثم کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے کپڑے مٹی کی رنگت والے ہو کر تے، وہ بہت زیادہ نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے اور سخی دل انسان تھے۔

﴿10044﴾... حضرت سیدنا عبد العزیز بن داؤد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب اپنی کھال کھجاتے تھے تو اس سے مٹی جھرتی تھی۔

## بے مثال سخاوت:

﴿10045﴾... حضرت سیدنا ابو محمد حجاج بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک دراز گوش پر سوار جارہے تھے، راستے میں حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ملے اور انہوں نے آپ سے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ نے ان سے فرمایا: ”خدا کی قسم! میری ملکیت میں صرف یہی ایک گدھا ہے۔“ پھر آپ گدھے سے اترے اور گدھا ان کے حوالے کر دیا۔

﴿10046﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد طحطاسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس تھا، اتنے میں حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ روتے ہوئے آئے، آپ نے ان سے پوچھا: ابو سعید! آپ کیوں رورہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی: میرا گدھا مر گیا جس کی وجہ سے میرا جمعہ نکل گیا اور دیگر ضروریات بھی پوری ہونے سے رہ گئیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے وہ گدھا کتنے میں خریدا تھا؟ عرض کی: تین دینار میں۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس تین دینار موجود ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہاں موجود ایک لڑکے سے فرمایا: وہ تھیلی یہاں لے آؤ۔ اُس میں تین دینار تھے، آپ نے وہ تھیلی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا: اس سے گدھا خریدا اور رو نہ نہیں۔

## تمام لوگوں کا کرایہ ادا کرتے:

﴿10047﴾... حضرت سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کشتی میں بیٹھے تو تمام لوگوں کی طرف سے کرایہ ادا کر دیتے تھے۔

﴿10048﴾... حضرت سیدنا نصر بن شمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ مسکینوں پر رحم کرنے والا نہیں دیکھا، جب وہ کسی مسکین کو دیکھتے تو اسے دیکھتے رہتے یہاں تک کہ وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔

## مجلس حدیث میں سائلوں کی خبر گیری:

﴿10049﴾... حضرت سیدنا مسلم بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں اگر کوئی سائل کھڑا ہو تا تو آپ اسے کچھ دے کر ہی حدیث بیان کرتے، ایک دن ایک سائل کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا: حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درہم دینے کا ذمہ لے لیا ہے۔

﴿10050-51﴾... حضرت سیدنا عثمان بن جبلة رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دراز گوش، اس کی زین اور لگام کی قیمت لگائی تو وہ 10 درہم سے کچھ زیادہ بنی۔

## 500 ایکوزمین چھوڑ دی:

﴿10052﴾... حضرت سیدنا محمد بن غزوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے بیان کیا کہ خلیفہ مہدی نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 30 ہزار درہم تحفے میں بھیجے تو انہوں نے وہ درہم تقسیم فرما دیے اور یوں ہی خلیفہ نے آپ کو بھرہ میں پانچ سو ایکوزمین دی تو وہ بھرہ تشریف لائے مگر انہیں کسی شے سے خوشی نہیں ہوئی لہذا انہوں نے وہ زمین بھی چھوڑ دی۔

﴿10053﴾... حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب ہونے کے باوجود فرمایا کرتے تھے: کسی غریب سے حدیث نہ لکھو، وہ تو خود اپنے سسرال اور بھتیجے کے زیر کفالت ہوتا ہے۔

## امیر المؤمنین فی الحدیث:

﴿10054﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ فرمایا کرتے تھے: حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔

﴿10055﴾... حضرت سیدنا یعقوب بن اسحاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ اُن کسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ کے سامنے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا: یہ چھوٹے امیر المؤمنین ہیں۔

## شوقِ حدیث کا عالم:

﴿10056﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا عمرو بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی بارگاہ میں 500 مرتبہ حاضر ہوا اور اُن سے صرف 100 حدیثیں سنیں یعنی ہر پانچ مجلسوں میں ایک حدیث۔

﴿10057﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے کسی بھی شخص سے جتنی احادیث مبارکہ سنیں ہیں اس سے کہیں زیادہ اُن کے پاس چکر لگائے۔

## بیانِ حدیث میں احتیاط:

﴿10058﴾... ابو الولید ضبی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا: بخدا! میں تمہیں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں نے یہ ایک ہی بار سنی ہے۔

﴿10059﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عُیَیْنہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں میری ملاقات حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ہوئی تو میں نے عرض کی: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں حضرت سیدنا اسود بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس ایک حدیث لینے جا رہا ہوں۔

﴿10060﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عُیَیْنہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بارش والے دن ایک دُوم کئے گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے، میں ان سے ملا اور پوچھا: کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا اسود بن قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے ہم سے فلاں سال میں کچھ احادیث طیبہ بیان کی تھیں، میں انہیں سال بھر یاد رکھنے کے لئے دیکھوں گا۔

## راویانِ حدیث سے تصدیق:

﴿10061﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابواسحاق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک ”کُنَّا اَتَيْنَا بَنِي الرَّعِیَّةِ“ (یعنی ہم نے اونٹ چرانے کی بادیاں مقرر کی ہوئی تھیں) آپ نے کس سے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن عطاء سے۔ تو میں نے حضرت عبد اللہ بن عطاء کے پاس جا کر پوچھا: آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے فرمایا: حضرت زیاد بن مخراق سے۔ پھر میں نے ان کے پاس حاضر ہو کر پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت شہر بن حوشب سے۔ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

## حدیث کی خاطر کئی شہروں کا سفر:

﴿10062﴾... نضر بن حَمَّاد بخلی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھ سے یہ حدیث سنی جسے میں نے یوں بیان کیا کہ میں حضرت اسرائیل سے، وہ حضرت ابواسحاق سے، وہ حضرت عبد اللہ بن عطاء رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”ہم نے اونٹ چرانے کی بادیاں مقرر کی ہوئی تھیں، ایک مرتبہ میں وضو کر کے رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جبکہ حضرات صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا اور آپ کو یہ فرماتے سنا: ”جو شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہو اور دو رکعت نماز ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔“ یہ سن کر میں نے کہا: واہ واہ! کیا بات۔ پھر پوری حدیث ذکر کی۔

راوی کا بیان ہے کہ حدیث سن کر حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے تھپڑ مار دیا، میں ایک کونے میں جا کر رونے لگا۔ پھر آپ فرمانے لگے: یہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابنِ ابراہیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: اس لئے کہ آپ نے اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا۔ انہوں ارشاد فرمایا: دیکھو تو سہمی! یہ حضرت اسرائیل از حضرت اسحاق والی سند سے کیا بیان کر رہا ہے؟ میں نے حضرت ابواسحاق سے پوچھا: آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی تو انہوں نے کہا: مجھے حضرت عبد اللہ بن عطاء نے بیان کی اور وہ آگے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا حضرت عبد اللہ بن عطاء نے حضرت

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ اس وقت حضرت مسعر بن کیدام بھی وہاں موجود تھے، کہنے لگے: حضرت عبداللہ بن عطاء کرمہ میں موجود ہیں۔ پس میں ان کے پاس کرمہ پہنچ گیا جبکہ میرا حج کا ارادہ نہیں تھا بلکہ حدیث شریف کا ارادہ تھا، میں نے حضرت عبداللہ بن عطاء سے اس حدیث پاک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا: مجھے یہ حدیث حضرت سعد بن ابراہیم نے بیان کی تھی۔ وہاں حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ حضرت سعد مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ اس سال حج کے لئے نہیں آئے۔ چنانچہ پھر میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور حضرت سعد سے اس حدیث پاک کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ حدیث شریف آپ لوگوں ہی کی طرف سے آئی ہے اور مجھ سے حضرت زیاد بن حرقان نے بیان کی ہے۔

حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: یہ حدیث شریف کیسی ہے؟ پہلے یہ کوئی تھی پھر کی ہو گئی، پھر مدنی ہوئی اور اب بصری ہو گئی، الغرض میں نے بصرہ آکر حضرت زیاد بن حرقان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ حدیث آپ کے معیار کی نہیں۔ تو میں نے کہا: مگر آپ مجھے اس کے متعلق ضرور بتائیں۔ لہذا انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ حدیث شریف حضرت شہر بن حوشب نے، انہیں حضرت سیدنا ابوریحان نے اور ان کو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ پس جب انہوں نے حضرت شہر بن حوشب کا ذکر کیا تو میں نے کہا: انہوں نے اس حدیث کی صحت خراب کر دی۔

نصر بن حماد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک میرے لئے درجہ صحت کو پہنچتی تو یہ مجھے میرے گھر والوں، میرے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پھر میں نے یہ حدیث حضرت ثنی بن معاذ سے ذکر کی تو انہوں نے کہا: حضرت بشر بن مفضل نے مجھے یہ حدیث حضرت شعبہ بن حجاج کے اس قصہ کے ساتھ بیان کی اور اس میں حضرت محمد بن منکدر کا ذکر بھی کیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم

## الفاظ روایت کی اہمیت:

﴿10063﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس حدیث میں ”حَدَّثَنَا“ (یعنی فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی) اور ”أَخْبَرَنَا“ (یعنی فلاں نے ہمیں خبر دی) کے الفاظ نہ ہوں تو وہ گھاس و ترکاری کی مانند ہے۔



﴿10064﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر حدیث میں ”حَدَّثَنِی“ (یعنی فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی) اور ”سَمِعْتُ“ (یعنی میں نے سنا) کے الفاظ ہوں تو وہ دست بدست ہے اور اگر اس میں ”سَمِعْتُ“ اور ”أَخْبَرَنِی“ کے الفاظ نہ ہوں تو وہ گھاس و ترکاری کی طرح ہے۔

﴿10065﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ہر وہ کلام جس میں ”سَمِعْتُ“ کا لفظ نہ ہو تو وہ گھاس و ترکاری کی مثل ہے۔

﴿10066﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن قطان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی صحبت اختیار کی، میں ان کے پاس سے تین سے دس احادیث ہی لے کر لوٹتا تھا اور اکثر اتنی ہی احادیث مبارکہ سناتا تھا۔

### توثیقِ روایت میں شدت:

﴿10067﴾... حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا حمید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آئے اور ان سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ سے وہ حدیث بیان کر دی، آپ نے ان سے کہا: کیا آپ نے یہ حدیث شریف خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا: ”میرے خیال میں سنی ہے۔“ آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا کہ ”میں یہ روایت نہیں لیتا۔“ پھر جب آپ کھڑے ہو کر چلے گئے تو حضرت سیدنا حمید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا: میں نے یہ حدیث حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے سنی ہے مگر انہوں نے مجھ پر سختی کی تو میں نے چاہا کہ میں بھی ان پر سختی کروں۔

﴿10068﴾... حضرت سیدنا زبید بن ہارون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے شرقی بن قحطام کی یہ روایت بیان کی کہ ”امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ (ؓ) کی راتیں عقبہ سے آگے گزرتے تھے۔“ روایت سنا کر فرمایا: اگر میں شرقی بن قحطام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ پر جھوٹ باندھنے والا نہ سمجھوں تو میرا گدھا اور میری اونٹنی مسکینوں پر صدقہ ہے۔

حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ یہاں دو باتیں ہیں: (۱) نیکوں کی صحبت (۲) تلاوت قرآن

(۳) کم کھانا (۴) تہجد کی پابندی (۵) رات کے آخری حصہ میں گریہ و زاری۔ (النبیات للسلفین، باب الخامس، ص ۱۰)

## احادیث گھڑنے والوں پر مقدمات

اظہار حق کی خاطر بے قراری:

﴿10069﴾... حضرت سیدنا فخر بن نسع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو سخت گرمی میں کپڑا لپیٹ کر جاتے دیکھا گیا تو کسی نے عرض کی: اے ابوبسطام! کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں حضور نبی مکرم، شفیع معظم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جھوٹ باندھنے (یعنی حدیث گھڑنے) والے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہوں۔

﴿10070﴾... حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مجھ سے ملے اس وقت اُن کے پاس مٹی کا ایک ڈھیلا بھی تھا، میں نے عرض کی: ابوبسطام! کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ابان بن ابو عیاش کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اُسے قاضی کے روبرو پیش کروں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے عرض کی: مجھے آپ پر اُن کے قبیلے عبدالقیس کا خوف ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے گفتگو کی تو وہ واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد وہ مجھے پھر ملے اور فرمایا: اے ابواسماعیل! میں نے اس معاملے میں بہت غور کیا مگر مجھے خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ملی۔

﴿10071﴾... حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ابان بن ابو عیاش کے متعلق گفتگو کر کے اُس کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی گزارش کی تو انہوں نے فرمایا: وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ ہم نے عرض کی: ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ فرمایا: ٹھیک ہے۔ راوی فرماتے ہیں: ایک دن بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر میں تھا، کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بارش کے پانی میں چلے آ رہے ہیں، آتے ہی مجھے پکارا تو میں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا: بات یہ ہے کہ میں ابان پر مقدمہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی: کیا آپ نے اُس کے خلاف کارروائی سے رکنے کا ذمہ نہ لیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا: مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ پھر وہ چلے گئے۔

﴿10072﴾... حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو دیکھا وہ ہاتھ میں مہر لگانے والی مٹی لیے تیزی سے کہیں جا رہے تھے، میں نے پوچھا:

ابو بسطام! کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں فلاں کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس نے اس اس طرح سے ایک حدیث شریف بیان کی ہے۔ میں نے کہا: ایسی ہی حدیث مجھ سے حضرت سیدنا ابوب سخیانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی بیان کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے منی پھینکی اور واپس چلے گئے۔

﴿10073﴾... حضرت سیدنا عبدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: اے ابو بسطام! کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا: میں جعفر بن زبیر پر مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔

### جھوٹ بولنے پر احتساب:

﴿10074﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کے پاس سے گزرا جو حدیث بیان کر رہا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اس نے جھوٹ کہا، خدا کی قسم! اگر اس سے خاموش رہنا میرے لئے حلال ہوتا تو میں خاموش رہتا۔“ یا اس جیسا کوئی اور جملہ کہا۔

﴿10075﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میرے نزدیک بدکاری کرنا ابان بن ابو عیاش سے روایت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

﴿10076﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میرے نزدیک بدکاری کرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں کہوں: ”قَالَ فُلَانٌ لِّعَنِي فُلَانٌ“ جبکہ میں نے اس سے سنا نہ ہو۔

### روایت حدیث میں متشدد:

﴿10077﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میرا آسمان یا اس محل سے گرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کہوں: ”حکَمَ“ نے کسی چیز کے بارے میں یہ کہا ہے۔“ جبکہ میں نے وہ بات ان سے سنی نہ ہو اور آپ نے یہ بھی فرمایا: میں روایت حدیث کے معاملے میں حرور یہ (کی طرح تشدد) ہوں۔

﴿10078﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے روایت بیان کی پھر اس کا حال بیان کر کے فرمایا: میں اسے اپنی گردن سے نکال کر تمہاری

گردنوں میں ڈالتا ہوں۔

﴿10079﴾... حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: آدمی دینی وسعت میں رہتا ہے جب تک سند طلب نہ کرے۔

## آپ نے یہ حدیث خود سنی یا نہیں؟

﴿10080﴾... حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس روایت کے علاوہ میں نے کبھی حق پوشی سے کام نہیں لیا۔ روایت یوں ہے کہ حضرت سیّدنا قتادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا کہ حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے (کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَہْلَیْہِ وَسَلَمَ سے ارشاد فرمایا): ”اپنی صفوں کو ضرور سیدھا کیا کرو۔“ اس روایت میں حضرت شعبہ نے حضرت قتادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو روک کر یہ نہیں پوچھا کہ ”آپ نے اُن سے یہ حدیث خود سنی یا نہیں؟“ حدیث کے حُسن میں میرے سامنے خرابی آ جاتا مجھے ناپسند گزرا اور حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ایک حدیث شریف کے علاوہ میں نے جب بھی کوئی حدیث سنی بیان کرنے والے سے اوپر والے راوی کے متعلق یہ ضرور پوچھا کہ ”آپ نے اُن سے یہ حدیث خود سنی ہے؟“

﴿10081﴾... شبابہ بن سوّار کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خَصِیْب بن مخمّر پر جرح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: میں نے اسے حمام میں بغیر ازار کے دیکھا ہے۔

## راویانِ حدیث پر جرح:

﴿10082﴾... حضرت سیّدنا یحییٰ بن ابراہیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیّدنا عمران بن حُدَیْر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آتے اور فرماتے: عمران! آؤ ہم رضائے الہی کے لئے کچھ دیر غیبت کریں اور راویانِ حدیث کی برائیاں کریں۔<sup>(۱)</sup>

①... منسر شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مرآۃ المتاجر، جلد 3، صفحہ 109 پر فرماتے ہیں: خیال رہے کہ ذاتی معاملات میں کسی مسلمان کے عیب کھولنا سخت جرم ہے جس کا وبال بہت ہے مگر دینی معاملات میں خود مسلمان کے عیب کھولنا عبادت ہے۔ محدثین حدیث کے راویوں کے عیوب بیان کر جاتے ہیں غیبت یا عیب لگانے کے لئے نہیں بلکہ حدیث کا درجہ معین کرنے کے لئے کہ اس کے راویوں میں چونکہ فلاں عیب ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہے فضائل اعمال میں کام آئے گی، احکام میں کام نہ دے گی۔

## روایات لینے میں احتیاط:

﴿10083﴾... حضرت سیدنا اور قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا: آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایات کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے انہیں تراویح پر وزن کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک پلڑے کو جھکا رہے تھے لہذا میں نے انہیں چھوڑ دیا۔

﴿10084﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: ہم سے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا معاویہ بن قمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے حدیث بیان کی تو میں نے ان سے کہا: آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا: مجھے فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اے شعبہ! کیا آپ اس حدیث تک پہنچنے سے مطمئن ہیں؟

## راویان حدیث پر گہری نظر:

﴿10085﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا: تمہارے دادا نے حارث بن اعور سے فقط چار حدیثیں سنی ہیں۔ میں نے پوچھا: آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا: انہوں نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔

﴿10086﴾... ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزّاق سے کہا: حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اس پر حضرت سیدنا ابو اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزّاق نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا ہے۔

﴿10087﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: حضرت سیدنا ابو اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزّاق نے حضرت سیدنا ابو وائل رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے فقط دو ہی حدیثیں سنی ہیں۔

﴿10088﴾... حضرت سیدنا جریر بن حازم کے بھانجے ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ نے اپنے لئے کن معاملات کو زیادہ سخت پایا؟ آپ نے فرمایا: حدیث کے راویوں کے معاملات میں رخصت سے کام لینے کو۔

## تدلیس سے بیزاری:

﴿10089﴾... حضرت سیدنا عفان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کا بیان ہے: ایک شخص نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سے ایک حرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: آسمان سے زمین پر گر جانا میرے لئے تدلیس کرنے سے زیادہ آسان ہے۔<sup>(۱)</sup>

## استاد سے محبت:

﴿10090﴾... حضرت سیدنا مہنہال بن سحر رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: میری اکثر روایتیں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون، حضرت سیدنا اسود بن شیبان اور حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سے ہوتی ہیں، اگر میں ہر روز حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کی سواری کی رکاب تھامنے پر قادر ہوتا تو ضرور ایسا کرتا۔

﴿10091﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: دیکھ لو کہ کس سے حدیث نقل کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا قثم بن خالد، حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ، حضرت سیدنا اسود بن شیبان اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سے نقل کیا کرو، میری خواہش ہے کہ ہر دن حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کی سواری کی رکاب تھاما کروں۔

﴿10092﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے حدیث کے ذریعے کچھ طلب نہ کیا مجھے اس پر رشک آتا ہے۔

﴿10093﴾... حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ کسی حدیث میں میری مخالفت کون کر رہا ہے سوائے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے کیونکہ آپ حدیث میں مشغول رہنے والے تھے، آپ ایک استاد کے پاس بار بار آکر حدیث کی تکرار کیا کرتے تھے۔ راوی

①... وہ حدیث جس کو راوی اپنے شیخ سے سنے بغیر ایسے الفاظ سے شیخ کی طرف نہایت کرے جس سے سننے کا گمان ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ راوی نے حدیث اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور سے سنی ہو لیکن روایت کرتے وقت ایسے الفاظ ذکر کرے جو شیخ سے سنانے کا ایہام (وہمیدہ) کرتے ہوں جیسے: قال، عن اور آن وغیرہ۔ (اصناف احوال حدیث، ص ۱۳)

کہتے ہیں: یا اسی مفہوم کا کلام فرمایا۔

**باہمی تعظیم و تکریم:**

﴿10094﴾... حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر کرتے تو انہیں ”سَيِّدُ الْمُحَدِّثِیْنَ“ یعنی محدثین کا سردار“ کہتے اور حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب حضرت سیدنا سلیمان بن مغیرہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر کرتے تو انہیں ”سَيِّدُ الْقُرَّاءِ“ یعنی علما کا سردار“ فرماتے۔

**حدیث سنانے میں احتیاط:**

﴿10095﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص نے ان سے حدیث سنانے کی درخواست کی تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے منع فرمادیا، میں نے پوچھا: آپ نے اسے حدیث کیوں بیان نہیں کی؟ فرمایا: یہ قصہ گو لوگ ہیں حدیث میں اضافی باتیں شامل کر دیتے ہیں۔

﴿10096﴾... حضرت سیدنا ابوعبیدہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ روایت حدیث میں ”أَخْبَرَنِي - قَالَ: أَخْبَرَنِي“ جیسے الفاظ پسند کیا کرتے تھے۔

﴿10097﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر لوگوں سے حیثیت ہوتی تو میں ابان بن ابوعیاش کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔

﴿10098﴾... حضرت سیدنا بکر بن بکّار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فجر کی نماز کے بعد کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر میرے پاس آکر فرمانے لگے: کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں؟ بات یہ ہے کہ آج میرا درس ”حدیث قتادہ“ تھا تو وہ حدیثیں میرے ذہن میں آئیں تو میں انہیں یاد کر رہا تھا یہاں تک کہ وہ مجھے یاد آ گئیں۔

**حفظ حدیث کا اہتمام:**

﴿10099﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

کے پاس جا کر دو حدیثیں سنانے کی درخواست کرتا، میری گزارش قبول کرنے کے بعد وہ مجھ سے فرماتے: اور سناؤ؟ تو میں منع کر کے عرض کرتا: پہلے میں انہیں یاد کر کے پختہ کر لوں پھر سنائیے گا۔

### علم حدیث کا شہسوار:

﴿10100﴾... حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ہم سے فرمایا: معقریب تمہارے پاس واسطہ سے شعبہ نامی ایک شخص آئے گا وہ حدیث کا شہسوار ہے جب وہ آئے تو اس سے علم حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ آئے تو ہم نے ان سے علم حاصل کیا۔

﴿10101﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے جس سے بھی لفظ ”حدثنا“ سے حدیث سنی میں اس کا غلام ہوں۔

﴿10102﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مجھے شعر سنانے کا فرماتے تو میں کہتا: میں آپ کو شعر سناتا ہوں، آپ مجھے حدیث سنائیے۔

﴿10103﴾... حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر یہ شاعری نہ ہوتا تو میں حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی روایات تمہیں سناتا۔

﴿10104﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر میں تمہیں حضرت سیدنا طلحہ بن مہزف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ایک سے زیادہ حدیث بیان کروں تو مجھے قید خانے لے جاتا۔

﴿10105﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو تمہیں بتائے کہ میں نے علی بن بنی نمیر سے دو حدیثوں سے زیادہ احادیث سنی ہیں تو اسے جھٹلا دینا۔

﴿10106﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا ابوالاسحاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حارث اغور سے فقط چار حدیثیں سنی ہیں۔

﴿10107﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یحییٰ بن جزار نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فقط تین حدیثیں سنی ہیں۔



﴿10108﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے ابو مُہذِبٍ تمیمی بصری کو حضرت سیدنا ثابت بنانی قَدْ سَمِعْتُہُ الذَّوْاۓ کی مجلس میں دیکھا، اس کا حال یہ تھا کہ اگر اسے کوئی ایک سکہ دے تو وہ اسے 90 حدیثیں سنا دے۔

﴿10109﴾... حضرت سیدنا امیہ بن خالد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: آپ حضرت سیدنا محمد عرزمی اور حضرت سیدنا عبد الملک بن ابوسلیمان رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما سے حدیث بیان کیوں نہیں کرتے حالانکہ وہ حدیث میں اچھے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جواب دیا: اسی وجہ سے تو میں ان سے روایت نہیں کرتا۔

﴿10110﴾... حضرت سیدنا امیہ بن خالد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: آپ حضرت سیدنا عبد الملک بن ابوسلیمان عرزمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا: انہیں رہنے دو۔ میں نے کہا: آپ نے انہیں کیوں ترک کیا ہے، آپ حضرت سیدنا محمد بن عُبَیْنُ اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے تو حدیث بیان کرتے ہیں لیکن عبد الملک سے حدیث بیان نہیں کرتے حالانکہ وہ حدیث میں اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا۔

﴿10111﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو حدیث میں بھول جاتا ہوں تو اسے یاد کرتے کرتے بیمار ہو جاتا ہوں۔

﴿10112﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مُعَزَّزُ لُوگوں سے روایتیں لیا کرو کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔

﴿10113﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: بہت خوب! اگر میں تمہیں ایک ثقہ راوی سے حدیث بیان کر دوں تو پھر تین سے بیان نہیں کرتا۔

﴿10114﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں اور قیس بن ربیع مسجد میں بیٹھے تھے، وہ ابو حصین عثمان بن عاصم سے مروی احادیث بیان کرتے ہی جارہے تھے حتیٰ کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب مسجد ہم پر گر پڑے گی۔

## تفیش حدیث کے ماہر:

﴿10115﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اگر میں کسی حدیث بیان کرنے والے کے پاس جاؤں جس کے پاس چار حدیثیں ہوں تو میں ایسی پکڑ لوں گا جو اس نے نہیں سنی ہوں گی۔

﴿10116﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: کتنے ہی حلوے مجھ سے رہ گئے ہیں۔

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سَلَمَہُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں حاصل نہیں کر سکا۔

﴿10117﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: حدیث کی طلب میں سواریوں پر رہنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔

﴿10118﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: علم کی یہ مشغولیت تمہیں بِرُحْمَہِ اللہِ، نماز اور صلہ رحمی سے روکتی ہے تو کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے۔

## کاش! کسی حمام کا ملازم ہوتا:

﴿10119﴾... شبَابَہُ بن سَوَّار کا بیان ہے: میں حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے وصال والے دن ان سے ملنے گیا تو وہ رو رہے تھے، میں نے کہا: ابو براطام! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خوش ہو جائیے کیونکہ آپ کا تو

اسلام میں بلند مقام ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: مجھے رہنے دو، کاش! میں کسی حمام کا ملازم ہوتا اور حدیث نہ جانتا۔

﴿10120﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: حدیث سے بڑھ کر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں کہ وہ مجھے جہنم میں داخل کر دے۔

﴿10121﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں نے ہر علم والے کو اپنے علم کے سبب ہی کھانا ہوا دیکھا ہے۔

## غریبوں کا خیال:

﴿10122﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے: اگر غریب نہ ہوتے تو میں حدیث

بیان نہ کرتا، میں اس لئے حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ انہیں کچھ دیا جائے۔

﴿10123﴾... حضرت سیّدنا عقیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَکْثَر فرمایا کرتے تھے: اگر میری ضروریات نہ ہوتیں تو میں تمہیں حدیث بیان نہ کرتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کمزور عورتوں کے لئے سوال کیا کرتے تھے (یہی آپ کی ضروریات تھیں)۔

﴿10124﴾... حضرت سیّدنا ابو ولید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّجِید فرماتے ہیں: حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس امام کی مثل کوئی نہ دیکھا یہ مجھے قرآن سناتے ہیں میں اسے یاد نہیں کرتا۔ اور میں انہیں حدیث سناتا ہوں تو وہ اسے یاد نہیں کرتے۔

﴿10125﴾... حضرت سیّدنا ابو داؤد رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک دن ہم حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس تھے اور گھر کی چھت میں ایک تھیلّا لٹکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: کیا وہ تھیلّا دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم! میں نے اس میں عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبْنِ ابِي لَيْثِل عَنْ عَلِيٍّ كَتَبَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ والی سند سے ایسی احادیث نقل کر رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بیان کروں تو تم جموم اٹھو گے، خدا کی قسم! میں تمہیں وہ حدیثیں بیان نہیں کروں گا۔

﴿10126﴾... حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اگر روایت حدیث کے لئے اجازت دینا صحیح ہو تو سفر ختم ہو جائے گا۔

## سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مرویات

یہاں ان احادیث کا ذکر ہو گا جو حضرت سیّدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ائمہ اور محمد نامی بڑے بڑے تابعین سے روایت کی ہیں، ان ہی میں سے حضرت سیّدنا محمد بن منکدر رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی ہیں۔

## سیّدنا جابر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی وراثت:

﴿10127﴾... حضرت سیّدنا جابر بن عبد اللّٰہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ رُوِّفَ رَحِمَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَبَدًا وَسَلَّمَ میرے گھر تشریف لائے، اس وقت میں بیمار تھا اور مجھے ہوش نہیں تھا، آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَبَدًا وَسَلَّمَ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا یا پھر لوگوں نے آپ کے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا،



پہلے دور کعتیں پڑھ لے<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

﴿10132﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: جب فجر طلوع ہوتی تو تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو رکعتیں اتنی مختصر ادا فرماتے کہ میں سوچتی کیا آپ نے ان میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟<sup>(۳)</sup>

## سفر میں روزہ:

﴿10133﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ کیا جس پر سایہ کیا گیا تھا اور اس کے پاس لوگوں کا رش تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو لوگوں نے کہا: یہ روزہ دار ہے۔ ارشاد فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں<sup>(۴)</sup>۔<sup>(۵)</sup>

①... شارح بخاری حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں: ہمارا (یعنی احناف) اور امام مالک وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ اثناءِ خطبہ نہ کسی کلام کی اجازت ہے نہ کسی نماز کی۔ ہمارے دلائل یہ ہیں۔ خواہر زادہ نے اپنی مہسوط میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”امام جب خطبہ کے لئے نکلے تو نماز ہے نہ کلام۔“ عمدۃ القاری میں اسی حدیث کی کتاب الاسرار کے حوالے سے ان الفاظ میں تخریج کی: ”جب تم میں سے کوئی آئے اور امام منبر پر ہو تو نہ نماز کی اجازت ہے نہ کلام کی۔“ شعبہ بن ابی مالک نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خطبہ کے لئے نکلتے تو ہمیں چپ کر دیتے۔ امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، خطبہ کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حضرت علی، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم خطبہ کے لئے امام کے نکلنے کے بعد نماز اور کلام سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”امام خطبہ دے رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔“ ہمارے یہاں صحیح و راجح مفتی ہے، حضرت امام اعظم کا قول ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے اپنے حجرے سے نکلے یا اپنی جگہ سے اٹھے، اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے کے وقت تک نماز ذکر ہر قسم کا کلام ممنوع ہے بلکہ ہر وہ فعل ممنوع ہے جو خطبے کے سننے میں خلل انداز ہو مثلاً پکھا جانا، کچھ لکھنا۔ (زبدۃ القاری، ۲/۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵)

②... صحیح ابن خزمہ، کتاب الجمعة، باب الدلیل علی ان الجالس عند... الخ، ۳/۶۵، حدیث: ۱۸۳۱

③... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب استحباب رکعتی سنة الفجر... الخ، ص ۳۶۵، حدیث: ۷۴۳

④... یعنی ایسے سخت سفر میں ایسا ہے سر و سامانی کا روزہ بھلائی نہیں بلکہ برا ہے اور رب تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے ”یُرِيدُ اللّٰهُ لِيُخْطِئَ الْبَاسِ وَلَا يُرِيدَ لَكُمْ الْغُسْرُ“ (پ: ۲، البقرة: ۱۸۵)۔ “(مرآۃ المناجیح، ۳/۱۷۱)

⑤... بخاری، کتاب الصوم، باب البر الصوم فی السفر، ۱/۶۴۶، حدیث: ۱۹۳۶

﴿10134﴾... حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: مروان نے اپنی وادی حضرت سیدنا نبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنا قاصد بھیجا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم، رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرُكَ فَلْيَتَوَضَّأْ یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے (۱)۔“ (۲)

﴿10135﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، کُودٌ مُجَسِّمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب بارش کے لئے دعا کرتے تو اپنی چادر کو پلٹ دیا کرتے۔ (۳)

**قطع تعلقی کا وبال:**

﴿10136﴾... حضرت سیدنا نجیب بن مطہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“ (۴)

**مسواک کی فضیلت:**

﴿10137﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَلَسَّوَاکَ مَطْهَرٌ لِّفَمِّ مَرْصَاةٍ لِّلرَّبِّ یعنی مسواک منہ صاف کرنے والی (اور) اللہ عزوجل کی رضا کا سبب ہے۔ (۵)

## رشتے کی فریاد:

﴿10138﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اللہ عزوجل کے محبوب، داناتے غیب

①... یہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ یہی حضرت مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ (رضی اللہ عنہ) کا قول ہے، یعنی جو عضو خاص چھوئے مناسب ہے کہ ہاتھ دھوئے جیسے کھانے کے وضو میں تھا۔ (مراۃ المناجیح، ۱/۲۵۱)

②... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من مس ذکر ۵، ۲۷۷/۱، حدیث: ۴۷۹

③... بخاری، کتاب الاستسقاء، باب تحویل الروداء الاستسقاء، ۳۴۶/۱، حدیث: ۱۰۱۱

④... بخاری، کتاب الادب، باب اثر القاطع، ۹۷/۳، حدیث: ۵۹۸۳

⑤... نسائی، کتاب الطہارۃ، باب الترغیب فی السواک، ص ۱۰، حدیث: ۵

سَلَّمَ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت رشتہ کی زبان ہوگی اور وہ عرش کے نیچے کھڑا ہو کر عرض کرے گا: ”اے میرے رب! مجھے کاٹا گیا، اے میرے رب! مجھ پر ظلم ہوا اور میرے ساتھ بڑا سلوک کیا گیا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جواب ارشاد فرمائے گا: ”میتا تو اس پر راضی نہیں کہ جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں گا اور جس نے تجھے توڑا میں اسے توڑوں گا۔“ (۱)

﴿10139﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسالت مآب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ مقدسہ میں ایک صاع غلہ یا ایک صاع جو یا ان جیسی کوئی اور چیز صدقہ فطر میں دیتے تھے۔ (۲)

## شراب سے نفرت کی ایک وجہ:

﴿10140﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، آپ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں شراب پی اور نہ ہی زمانہ اسلام میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو شراب کے نشے میں مدہوش گندگی میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور اسے اپنے منہ کے قریب کرتا جب اس کی بدبو محسوس ہوتی تو دور کر دیتا، آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اسے معلوم نہیں کہ کیا کر رہا ہے بس جب گندگی کی بدبو پاتا ہے تو اسے دور کر دیتا ہے۔

﴿10141﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے بیان کیا کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔“ حضرت سیدنا عُمید اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا: پھر ہم گرم پانی کا کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا: جب حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کوئی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہیں دی جاتیں (۳)۔ (۴)

﴿10142﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدتنا عائشہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ

۱... مسند ابو داؤد الطیالسی، محمد بن کعب عن ابی ہریرۃ، ص ۳۱، حدیث ۲۵۳۳

۲... بخاری، کتاب الوکالۃ، باب صدقۃ الفطر صاعاً عن شعبہ و باب الصدقۃ قبل العید، ۵۰۸/۱، حدیث: ۱۵۰۶، بخاری

۳... آگ کی پکی چیز کھانے کے بعد وضو سے مراد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے نہ کہ نماز کا وضو۔ (ماخوذ از مرقۃ المفاتیح، ۶/۳۶) کیونکہ احناف کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

۴... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء مما غایت النار، ۲۸۰/۱، حدیث: ۲۸۵

وَاللّٰهُ سَلَّمَ رُوئے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے<sup>(۱)</sup>۔

## جہنم کی بھڑک:

﴿10143﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ واریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلْمَحْمُودُ مِنْ قَبِيْحٍ جَهَنَّمُ فَاَطْعُوْهَا بِاَلْبِیْنِ یعنی بخارِ جہنم کی بھڑک سے بے لہذا اسے پانی سے بجھاؤ۔<sup>(۲)</sup>

﴿10144﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نجاشی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تکبیریں کہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿10145﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آیا، اس نے حضور نبی کریم، رُفِیَتْ رَحْمَتُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ہجرت پر بیعت کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال نہ ہوا کہ وہ غلام ہے<sup>(۴)</sup> پھر اس کا آقا اسے لینے آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو چنانچہ اسے دو حبشی غلاموں کے عوض خرید لیا، اس کے بعد کسی سے بھی بیعت کرنے سے پہلے پوچھ لیتے کہ کیا وہ غلام ہے؟<sup>(۵)</sup>

①... بیوی کا بوسہ لینا اور نگل لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو گا اور بیوٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً (یعنی چاہے انزال و جماع کا ذریعہ نہ ہو) مکروہ ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۵۹۹)

②... بخاری، کتاب الصوم، باب الباشرا قلل الصائم، ۶۳۵/۱، حدیث: ۱۹۲۷

③... بخاری، کتاب الطب، باب الحی من فیح جھنہ، ۳/۲۷، حدیث: ۵۷۳۳

④... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب موت النجاشی، ۵۸۲/۲، حدیث: ۳۸۷۹

⑤... منسیر شیعہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رَحْمَةُ اللّٰہِ غَفُورٌ اَمْرُ الْمَنَاجِیْ، جلد 4، ص 253 پر اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: حقیقاً یہ بھگا ہوا غلام تھا اس کا مقصود تھا مولیٰ سے نجات پانا مگر ظاہر یہ کیا کہ مؤمن ہوں مہاجر بن کر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، حضور انور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی اس کی تحقیق نہ فرمائی اور اس سے ہجرت پر بیعت لے لی۔ خیال رہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کھلے چھپے کی اطلاع دی ہے مگر علم کا ہر وقت حضور ضروری نہیں، حافظ کو سارا قرآن یاد ہوتا ہے مگر ہر لفظ ہر وقت سامنے نہیں رہتا لہذا اس سے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بے علمی ثابت کرنا حماقت ہے۔

⑥... مسلم، کتاب المساقا، باب جو از بیع الحيوان... الخ، ص ۸۶۶، حدیث: ۱۶۰۲



## چار مقدس کلمات کی تعلیم:

﴿10146﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی مشغول دعا تھیں پھر آپ نصف نہار کے قریب دوبارہ تشریف لائے تو ان سے ارشاد فرمایا: کیا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم پڑھا کرو؟ (پھر فرمایا: تین مرتبہ سُبْحٰنَ اللہِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(۱)</sup>، تین مرتبہ سُبْحٰنَ اللہِ رَحْمٰنًا نَفِیْسًا<sup>(۲)</sup>، تین مرتبہ سُبْحٰنَ اللہِ زِیْنَةً عَظِیْمًا<sup>(۳)</sup> اور تین مرتبہ سُبْحٰنَ اللہِ وَکَاذِبًا کَلِیْمًا<sup>(۴)</sup> پڑھا کرو۔<sup>(۵)</sup>

﴿10147﴾... حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: آپ کی ہر چیز کی شکایت کی گئی ہے حتیٰ کہ نماز کی بھی (کہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے)۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: میں پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری دو رکعتیں مختصر اور میں نے رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ کے بارے میں مجھے یہی گمان تھا۔

## سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ملنساری:

﴿10148-49﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے مزاح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: یَا أَبَا عُبَیْدٍ مَا قَعَلَ التُّغَیْبُ یعنی ابو عبید! چھوٹی چیز یا کیا ہوا؟ جب نماز کا وقت ہوتا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی

①... (۱) اللہ عزوجل کی پاکی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر (۲) اللہ عزوجل کی پاکی اس کی رضا کے لئے (۳) اللہ عزوجل کی پاکی اس کے عرش کے وزن کے برابر (۴) اللہ عزوجل کی پاکی اس کے کلمات کی سیاحت کے برابر۔

②... مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب التسبیح اول النهار وعند النوم، ص ۱۳۵۹، حدیث: ۲۷۲۶

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نماز ادا فرمانا چاہتے تو ہم آپ کے لیے بالوں سے بنا کچھونا بچھا دیتے اور آپ اس پر نماز ادا فرماتے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10150-51﴾... حضرت سیدنا محمد بن ابو خالد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدِ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن شداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدِ کا بیچ سلم کے معاملے میں اختلاف ہوا تو انہوں نے مجھے حضرت ابن ابی اوفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس بھیجا، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دور اقدس میں گندم، جو، کھجور اور منتقوں کی بیج سلم ان لوگوں سے کیا کرتے تھے جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں۔<sup>(۲)</sup>

اور ایک روایت میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے ادوار کا بھی ذکر ہے۔

﴿10152﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لونڈیوں کی کمائی (یعنی ان کے زنا یا کسی اور حرام ذریعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی) سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۳)</sup>

## چھینک آنے پر دعا اور اس کا جواب:

﴿10153﴾... حضرت سیدنا ابو ایوب الأنصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اَللّٰہُ عَلٰی کُلِّ حَالٍ (یعنی ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر ہے) کہے اور اسے جواب دینے والا یَزَحْنُکُمُ اللّٰہُ (یعنی اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے) کہے پھر چھینکنے والا یُفِیْہِ بِکُمْ اللّٰہُ وَیُضِیْحُ بِاَلْکَلَمِ (یعنی اللہ عزوجل تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کام بنادے) کہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10154﴾... حضرت سیدنا امام شعبی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی الرضی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیٹے (یعنی میت کے والد) کی موجودگی میں داوی کو وارث قرار نہیں دیتے تھے لیکن حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسے وارث قرار دیتے اور فرماتے

①... بخاری: کتاب الادب، باب الانبساط الی الناس: ۱۳۲/۳، حدیث: ۶۱۲۹، باب الکفۃ للصبی قبل ان یولد: ۱۵۵/۳، حدیث: ۶۲۰۳

②... مسند ابو داؤد الطیالسی: عبد اللہ بن ابی اوفی۔ ص ۱۱۰، حدیث: ۸۱۵

③... بخاری: کتاب الاجارۃ، باب کسب البقی والاماء: ۷/۲، حدیث: ۲۲۸۳

④... مسند امام احمد، حدیث ابی ایوب الأنصاری: ۱۴۹/۹، حدیث: ۳۶۳۸

تھے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس دادی کو حصہ دیا گیا اس وقت اس کا بیٹا زندہ تھا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10155﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کئی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وَجَبَ الْغُرُوعُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ يَعْنِي (نماز عید کے لئے) ہر کر بند والی کے لئے نکلنا واجب ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿10156﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

لوگوں کو عیدین کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھائی اور نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔<sup>(۳)</sup>

﴿10157﴾... حضرت سیدنا محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرفات میں

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔

## جنت میں لے جانے والے اعمال:

﴿10158﴾... حضرت سیدنا ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت

﴿۱﴾... (حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دادی کو وہ حصہ) بغیر توارث ویسے ہی عطا فرمایا جیسا کہ حکم قرآن ہے کہ اگر تقسیم میراث کے وقت بعض محروم قرابت دار موجود ہوں تو انہیں کو دے دو، فرمایا: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَمْضُوا حَقَّهُمْ (ترجمہ کنز الایمان: پھر بانیئے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو۔ پ۔ ۳، النساء: ۸) یا میت کا باپ کافر تھا یا غلام کہ میراث کا مستحق نہ تھا اور محروم وارث دوسرے کو محروم نہیں کرتا۔ (مرآۃ المناجیح، ۴/ ۳۷۸)

﴿۲﴾... محفّظ شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآۃ المناجیح، جلد ۱، صفحہ ۴۱ پر فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تمام عورتوں کو عید گاہ کی حاضری کا حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں اور نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعائیں شریک ہو جائیں، مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھیں، سرکارِ خطبہ کے بعد ان کی جماعت میں مخصوص دعا ارشاد فرماتے تھے۔ عہدِ فاروقی سے عورتیں اسی حاضری سے روک دی گئیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/ ۴۱) عورتوں پر نماز عید واجب ہے نہ ہی انہیں نماز عید یا دیگر نمازوں میں کسی نماز کے لئے مسجد آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو ملاحظہ فرماتے تو مسجد میں آنے سے انہیں ضرور منع فرمادیتے۔“ (بخاری، کتاب الاذان، باب انتظار الناس قیام الاحامہ العالم، ۱/ ۳۰۰، حدیث: ۸۶۶)

نوٹ: اس پر تفصیلی حاشیہ ”روایت نمبر 9995“ کے تحت ملاحظہ کیجئے۔

﴿۳﴾... مسند امام احمد، حدیث اخت عبد اللہ بن رواحہ، ۱۰/ ۲۸۸، حدیث: ۳۷۸۲

﴿۴﴾... مسند امام احمد، حدیث جابر بن عبد اللہ، ۵/ ۵۰، حدیث: ۱۳۷۶، بغیر قلیل

میں عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔“ (۱)

﴿10159﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہ اقیاء، رسول خدا ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ عَزَىٰ مُصَابًا قَلْبَهُ مِثْلُ أَجْرٍ لَّعَنِي جَسْنٌ لَّعَنِي“ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کے لئے مصیبت زدہ کے برابر ثواب ہے۔“ (۲)

﴿10160﴾... حضرت سیدنا عذری بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خلق کے رہبر، محبوب رب اکبر ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اتَّقُوا الشَّارَ وَلْيُوشِئِ تَسْوِيَةً لَّعَنِي“ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے ہو۔“ (۳)

### امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ:

﴿10161﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بشیر و نذیر آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اپنا سر پہلے اٹھا لیتا ہے حالانکہ امام ابھی سجدے میں ہوتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عزوجل اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ یا فرمایا: اس کی صورت گدھے کی صورت کر دے؟ (۴)

﴿10162﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ“ یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ عزوجل کا شکر ادا نہیں کرتا۔“ (۵)

### سر کا رمدن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو پھول:

﴿10163﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی نفعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا

۱... بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، ۱/۴۷۱، حدیث: ۱۳۹۶

۲... ابن ماجہ، کتاب الجنازہ، باب ماجاء فی ثواب من عزی مصابیا، ۲/۲۹۹، حدیث: ۱۶۰۲

۳... بخاری، کتاب الاداب، باب طیب الکلام، ۴/۱۰۶، حدیث: ۶۰۲۳

۴... ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب التشدید فیمن یرفع... الخ، ۱/۳۵۳، حدیث: ۶۲۳

۵... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی شکر العرف، ۳/۳۳۵، حدیث: ۳۸۱۱

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے حالت احرام میں مکھی مارنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اے عراق والو! کیا تم مجھ سے مکھی مارنے والے نحرّم کا پوچھتے ہو حالانکہ تم نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نواسے کو شہید کیا ہے جن کے بارے میں پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: ”هَذَا رِیْحَانَتُنَا مِنْ الدُّنْيَا یعنی یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“<sup>(۱)</sup>

## نفی روزوں کی فضیلت:

﴿10164﴾... حضرت سیّدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا: اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کہ اس کے مقابل کوئی عمل نہیں۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ حاضر ہو کر یہی عرض کی تو ارشاد فرمایا: اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿10165﴾... (الف) حضرت سیّدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں ایک غزوہ میں سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھا، میں نے عرض کی: مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا: اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو۔<sup>(۳)</sup>

## شیطانِ عمل کی ممانعت:

﴿10165﴾... (ب) حضرت سیّدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ الفوری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فُتوٰۃ<sup>(۴)</sup> کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: صحابہ کرام نے حضور نبی کریم، رُغُوۡفَ رَحِیْم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔<sup>(۵)</sup>

①... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین، ۵۴۷/۲، حدیث: ۴۷۵۳

②... نسائی، کتاب الصیام، باب ذکر اختلاف علی محمد بن ابی یعقوب، ص ۳۷۱، حدیث: ۴۲۲۰

③... مسند امام احمد، حدیث ابی امامہ، ۴۷۱/۸، حدیث: ۲۲۲۱۱

④... یہ ایک خاص منتر کا نام ہے جو مجنون (آسیب زدہ) کے شفاء کے لیے کہا جاتا ہے یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ نشر، یعنی پھیلانا اس سے ہے اشتہار، چونکہ یہ عمل جناتِ شیطانی کے پھیلنے کی بناء پر ہوتا ہے اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۶/۲۳۷)

⑤... مسند الزہار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ۲۲۳/۱۳، حدیث: ۶۷۰۹

﴿10166﴾... حضرت سیدنا عُبَّادِ بْنِ عَسَاکَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَعْلَانِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند نہیں فرماتا مومن شخص کو<sup>(۱)</sup> اور اُن گھر والوں کو جو گوشت کھانے والے<sup>(۲)</sup> ہوں۔

﴿10167﴾... حضرت سیدنا اور ریس اودوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی کے والد (راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ذکر کر کے بغیر) روایت کرتے ہیں کہ کئی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب حطیم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (حفاظت کے لئے) تلوار لئے آپ کے سر پر کھڑے رہتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10168﴾... حضرت سیدنا طارق بن عَلِی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو بارگاہِ رسالت میں سوال کرتے سنا کہ کوئی شخص حالتِ نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو کیا وہ وضو کرے گا؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10169﴾... حضرت سیدنا محمد بن جابر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شعب بن حجاج رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مقامِ واسط میں مجھ سے ملے اور شرم گاہ چھونے پر وضو والی حدیث سنانے کی فرمائش کی، میں نے انہیں حدیث بیان کی تو انہوں نے مجھ سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بعد کسی کو یہ حدیث بیان نہ کریں۔ میں نے کہا: میں ایسا نہیں کر سکتا۔

## تین دن میں ختم قرآن:

﴿10170-71﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد اللہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے والد حضرت سیدنا عبد اللہ بن

①... مونٹاچو کہ غفلت اور زیادہ کھانے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بات بُری ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب کسر الشہواتین، باب فضل الجوع وذہ الشیخ، ۱۰۱/۳) البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قدرتی طور پر مونٹاچو نا اور ہے اور زیادہ کھانے کے سبب مونٹاچو نا اور یہاں مونٹاچے سے کھانے کے سبب مونٹاچو نا اور ہے نہ کہ وہ جو قدرتی طور پر ہے۔

②... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی فرماتے ہیں: اس سے مراد غیبت کرنے والے ہیں۔ (شعب الایمان، ۳۳/۵، حدیث: ۵۶۶۸) جبکہ امام ابن اثیر جزیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِی کے مطابق اس سے مراد "کثرت سے گوشت خوری کرنے والے" ہیں۔

(جامع الاصول، ۵/۵۲۹، تحت الحدیث: ۵۵۱۹)

③... تاریخ المدینۃ المنورۃ لابن شیبہ، ذکر حرس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ۳۰۰/۱

④... معرفۃ السنن والآثار، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من مس الذکر، ۳۳۳/۱، حدیث: ۲۰۷

مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور رمضان شریف میں تین دن میں پڑھتے تھے۔

﴿10172﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”كَيْلُوا اطْعَامَكُمْ بِمِثَارِ لَكُمْ فِيهِ لَعْنِي غُلَةٌ قَوْلٌ كَرِيهُ كَرِهْتُمْ اِسْمَ اِسْمِ بَارِكْتَ دِي جَاءَ لِي“۔<sup>(۱)</sup>

## دعوت قبول کیا کرو:

﴿10173﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے دعوت دی جائے اسے چاہئے کہ دعوت قبول کرے تو جس نے قبول نہ کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔<sup>(2)</sup>

﴿10174-75﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اذان کے کلمات دو دو بار کہے جاتے اور تکبیر کے ایک ایک بار سوائے اس کے کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہتا تو دو مرتبہ کہتا<sup>(۳)</sup>۔<sup>(4)</sup>

①... ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب ما یرجی فی کیل الطعام من البرکۃ، ۵۱/۳، حدیث: ۲۲۳۱

②... مسلم، کتاب النکاح، باب الامر باجابتہ الداعی الی دعوة، ص ۴۸، حدیث: ۱۳۲۹

ابو داؤد، کتاب الاطعمۃ، باب ماجاء فی اجابۃ الدعوة، ۳۷۹/۳، حدیث: ۳۷۴۱

③... احناف کے نزدیک: اقامت اذان ہی کے مثل ہے (لہذا اقامت کے الفاظ بھی دو دو بار کہے جائیں گے) مگر چند باتوں میں فرق ہے اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں اور اقامت کے کلمات کو جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں، اقامت میں حتیٰ علی الفلاس کے بعد دو مرتبہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بھی کہیں۔ (یعنی زیور، ص ۲۶۶) مفتی شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو یا منسوخ ہے یا اس کی تاویل واجب۔ اگر تکبیر کے کلمات ایک ایک بار ہوتے تو صحابہ کرام حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد یہ عمل چھوڑ نہ دیتے۔ بیہقی شریف میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اقامت ایک ایک بار کہہ رہا ہے، آپ تاراض ہوئے اور فرمایا ”اجعلها مشتی مشتی لا اقولک“ یعنی تیرے ہاں مرے دو دو بار کہہ، اب وہی صورتیں ہیں: یا اس حدیث کو منسوخ مانو یا اس میں یہ تاویل کی جائے کہ یہ دائمی عمل نہ تھا بلکہ کبھی کسی عارضہ کی بناء پر ہو آتھا یا اذان اور اقامت کے لغوی معنی مراد لئے جائیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/۳۰۲، مستحضر)

④... دارمی، کتاب الصلاة، باب الاذان مشی مشی والاقامة مرة، ۲۹۰/۱، حدیث: ۱۱۹۳

## زمین پر بیٹھ کر کھانا:

﴿10176﴾... حضرت سیدنا محمد بن شبیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: کیا محبوب خدا صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں، اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی قسم جس کے سوا کوئی محبوب نہیں۔

امام شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شبیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ملا تو ان سے پوچھا: کیا آپ نے سیدنا حسن بصری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو ایسا ایسا فرماتے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔

## تہائی قرآن کے برابر ثواب:

﴿10177﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرورِ دُورین، رحمتِ کونین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکے گا؟ ارشاد فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ پڑھ لیا کرو۔<sup>(۱)</sup>

﴿10178-79﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے رحمتِ عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس پر قادر ہو سکتے ہو کہ ہر رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکے گا؟ ارشاد فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ پڑھ لیا کرو۔<sup>(۲)</sup>

﴿10180-81﴾... حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ اُمت کے مٹھوار، مکی مدنی سرکار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ﴿۳﴾ تہائی قرآن کے برابر ہے۔<sup>(۳)</sup>

## آگ سے بچو:

﴿10182 تا 88﴾... حضرت سیدنا عادی بن حاتم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمارے سامنے دوزخ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور ناپسندیدگی سے چہرہ مبارک پھیر لیا اور ارشاد فرمایا:

①...مسند امام احمد، حدیث ابی الدرداء، ۱۸/۱۰، حدیث: ۲۷۵۶۵

②...سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ما یستحب للانسان ان یقر اکل لیلۃ، ۱۷۲/۶، حدیث: ۱۰۵۱۱

③...سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ما یستحب للانسان ان یقر اکل لیلۃ، ۱۷۳/۶، حدیث: ۱۰۵۲۳



إَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا كَلِمَةً طَيِّبَةً لِّعَنِي دُورُهَا سَ بَحو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10189﴾... حضرت سیدنا عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں، لوگوں نے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو آپ نے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی اللہ عزوجل سے ملے گا تو وہ فرمائے گا: کیا میں نے تجھے سننے دیکھنے والا نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مال و اولاد سے نہیں نوازا؟ بتاؤ نے آگے کیا بھیجا؟ یہ سن کر وہ اپنے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں دیکھے گا مگر کچھ نہ پائے گا، پس وہ اللہ عزوجل کی رحمت سے ہی آگ سے بچ سکے گا لہذا تم آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے۔<sup>(۲)</sup>

**صدقات کی ترغیب نبوی:**

﴿10190﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ننگے پاؤں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچھ کمبل پوش لوگ آئے ان کا فائدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا پس غریبوں کے غمگسار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب دیتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهُمَا وَبَنَىٰ مِنْهُمَا رِجَالًا كَلِيبًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقْرِبًا ۝ (پ ۳، النساء: ۱)

پھر فرمایا:

①... بخاری، کتاب الاداب، باب طیب الکلام، ۱۰۶/۳، حدیث: ۶۰۲۳

②... ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ الفاتحۃ الکتاب، ۳۴۲/۳، حدیث: ۲۹۶۳، بتغییر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسْطَ نَفْسٌ  
مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ  
بِاتِّعَالُونَ ﴿١٨﴾ (پ: ۳۸، الحشر: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر جان  
دیکھ کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرو بے شک  
اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

انسان اپنے دینار و درہم، اپنے کپڑے اور گندم و جو کے صاع میں سے خیرات کرے حتیٰ کہ فرمایا: کھجور کا  
ٹکڑا ہی سہی۔<sup>(۱)</sup>

﴿10191﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی  
اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: اتَّقُوا اللَّهَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَنَابِلٍ جَنَّمَ سَے پچو اگرچہ نصف کھجور کے ذریعے۔<sup>(۲)</sup>  
دخول جنت کے لیے ایمان شرط:

﴿10192-95﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوبِ خدا، شفیعِ روزِ جزا صَلَّی اللہ  
تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میرا جو امتی  
اللہ عزَّ وَّجَل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر مرے گاہِ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے عرض کی: اگرچہ زنا  
کرے، اگرچہ چوری کرے؟ ارشاد فرمایا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10196﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرورِ کائنات صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے مجھ  
سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر! لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۴)</sup>  
روزہ دار کے منہ کی بو:

﴿10197-98﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے  
کہ اللہ عزَّ وَّجَل کے محبوب صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عزَّ وَّجَل کے ہاں مشک

①... مسند ابوداؤد الطیالسی، احادیث جریر بن عبد اللہ ص ۹۲، حدیث: ۶۷۰

②... بخاری، کتاب الزکاة، باب اتقوا النار... الخ ۱/۴۸، حدیث: ۱۳۱۷

③... بخاری، کتاب الاستئذان، باب من اجاب یلبیک وسعدیک، ۱۷/۴، حدیث: ۶۲۶۸

مسلم، کتاب الایمان، باب من مات لا یشرب الماء لہ شینا... الخ، ص ۶۲، حدیث: ۹۳

④... مسند ابوداؤد الطیالسی، احادیث ابی ذر الغفاری، ص ۶۰، حدیث: ۴۳۴

کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بحالتِ ایمان مرنے والا جنتی ہے:

﴿10199﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبی پاک، صاحبِ لوا اک مَنَّ اللہُ تَعَالٰی

عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: جان لو کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے

مرے گا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رسول ہوں تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا محمد بن جعفر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ”دل سے تصدیق کرنے والا بھی ہو۔“

﴿10200﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ

تَعَالٰی عَنْہُ ایک سواری پر حضور نبی کریم، رُغْوُفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد

فرمایا: لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو تو وہ

جنت میں داخل ہو گا تو حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: مجھ خوف ہے کہ لوگ اس پر تکیہ کر

لیں گے (اور عمل چھوڑ دیں گے)۔ ارشاد فرمایا: تو انہیں یہ خوشخبری نہ دینا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10201﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ کئی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَسَلَّم نے حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: جان لو کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے

انتقال کر جائے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں“ تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10202﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ کئی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: جس نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۵)</sup>

﴿10203﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

①...بخاری، کتاب الصوم، باب فضل الصوم، ۱/۲۲۴، حدیث: ۱۸۹۳

②...مسند ابو داود الطیالسی، ماروی عن قتادہ، ص ۳۶۵، حدیث: ۱۹۶۵

③...معجم کبیر، ۴/۴۰، حدیث: ۷۸، دون قولہ: قال فلا

④...سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ثواب من کان یشہد... الخ، ۶/۲۷۸، حدیث: ۱۰۹۷۱

⑤...سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ثواب من کان یشہد... الخ، ۶/۲۷۸، حدیث: ۱۰۹۷۱

وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے مرا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں تو وہ داخل جنت ہو گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10204﴾... حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیکسوں کے مددگار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور یہ گواہی صدقِ دل سے دی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10205﴾... حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بَشَّیرِ اعظم، شفیع اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو یہ یقین رکھتے ہوئے مرا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ داخل جنت ہو گا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10206﴾... حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو بندہ بھی صدقِ دل سے اسے کہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

## أَمَّتِ مسلمہ کے امین:

﴿10207 تا 11﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دارین، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَآمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَعْنِي هَرَامَةُ كَأَيْكِ أَمِينٍ هِيَ وَأَمِينٌ هِيَ“ اور اس اُمت کے امین ابو عبیدہ بن جرّاح (رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں۔“<sup>(۵)</sup>

﴿10212﴾... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اہلِ نجران نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ہمارے پاس کسی امین شخص کو بھیج دیجئے۔ صادق و امین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے پاس ضرور ایسا امین بھیجوں گا جو واقعی امین ہے، جو واقعی امین ہے، جو واقعی امین ہے۔ پس صحابہ کرام اس

①... مسند ابو داؤد الطیالسی، ماری عن قتادة، ص ۲۶۵، حدیث: ۱۹۶۵

②... تاریخ کبیر للبخاری، باب المہاء، حصان بن کاهل، ۱۳۴/۸، حدیث: ۱۲۳۳

③... مسلم، کتاب الايمان، باب الدلیل علی ان من مات علی... الخ، ص ۳۳، حدیث: ۲۶

④... مسند امام احمد، مسند عثمان بن عفان، ۱۳۸/۱، حدیث: ۴۴۷

⑤... بخاری، کتاب المغازی، باب قصۃ اہل نجران، ۱۳۵/۳، حدیث: ۴۳۸۲

سعاوت کا انتظار کرنے لگے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت ابوالعبیدہ بن جراح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بھیج دیا۔<sup>(۱)</sup>

**قبول نہ ہونے والی نماز اور صدقہ:**

﴿10213﴾... حضرت سیدنا مضعب بن سعد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مرض وصال میں لوگ ان کی عیادت کو آئے اور ان کی تعریف کرنے لگے جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش رہے پھر فرمانے لگے: میں ان لوگوں کی طرح دھوکے میں نہیں رکھوں گا، میں نے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بغیر پاکی کے نماز اور خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں فرماتا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10214 تا 16﴾... حضرت سیدنا اسماءہ بن عمیر بھڑلی اور حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ بغیر طہارت کے نماز اور خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10217 تا 23﴾... حضرت سیدنا ابو رافع رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (یعنی سورۃ اشقاق) میں سجدہ کیا اور فرمایا: میں نے اپنے غلیل صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے، میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ان سے جا ملوں۔<sup>(۴)</sup>

## الْحِجَّاتِ کی تعلیم:

﴿10224﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم ہر دور رکعت کے بعد کیا پڑھیں سوائے یہ کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح و تکبیر کہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کریں، جبکہ سر کا ابو مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھلائی کو ابتدا تا انتہا مکمل جانتے تھے لہذا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر دور رکعتوں کے بعد یہ

۱... بخاری، کتاب المغازی، باب قصۃ اہل نجران، ۱۳۴/۳، حدیث: ۴۳۸۰، ۴۳۸۱، قولہ: امینا حق امین، دون ثلاث مرات

۲... مسند ابی داؤد والطیالسی، مصعب بن سعد عن ابن عمر، ص ۲۵۵، حدیث: ۱۸۷۴

۳... نسائی، کتاب الزکاة، باب الصدقة من غلول، ص ۴۱۵، حدیث: ۴۵۲۱

۴... مسلم، کتاب المساجد، باب مسجد التلاوة، ص ۲۹۲، حدیث: ۵۷۸

نسائی، کتاب الافتتاح، باب السجود فی "الربا بسور ربک"، ص ۱۶۸، حدیث: ۹۶۴

پڑھیں: ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ“ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِہٖ وَسَلِّمْ عَلٰی النَّبِیِّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُہٗ اَللّٰهُمَّ عَلٰی عِبَادِہٖ الصّٰلِحِیْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ پھر تم میں سے جسے جو دعا پسند ہو وہ دعا کرے۔ (۱)۶۶

## خطبہ نماز اور خطبہ حاجت:

﴿10225﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ حاجت اور خطبہ نماز (یعنی تَشْہِد) سکھایا کرتے تھے، (خطبہ حاجت یہ ہے): ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (یا فرمایا: اِنَّ اَلْحَمْدَ لِلّٰہِ نَسْتَعِیْنُہٗ وَ نَسْتَغْفِرُہٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ یَّہْدِی اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ یُّضِلِّہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اُسی سے مدد مانگتے ہیں، اُسی سے معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں سے رب کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ تین آیات تلاوت کرے: 1﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہر گز نہ مرنا مگر مسلمان۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تُقَاتِہٖ  
وَلَا تَمُوْنُ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱﴾

(پ ۳، آل عمران: ۱۰۴)

﴿2﴾...

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اُس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْہَا رُوْجَہَا وَ بَیْٔ  
مِنْہُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَّ نِسًا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ  
الَّذِیْ تَسَّءَلُوْنَ بِہٖ وَاَلَامْرَہٖ اِنَّ اللّٰہَ

کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا ﴿۲﴾ (پ ۴، النساء: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات  
کہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۰)

پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے۔“ (۱)

﴿27-10226﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم ہر

تسبیح... تکبیر کہیں جسک سر کارِ مدینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جب تم  
یہاں لَیَّوْا وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ  
عَبْدُکَاؤُ رَسُوْلُہُ۔“ (۲)

ہم ”اَلَسَّلَامُ عَلٰی اللّٰہِ لَعْنُ اللّٰہِ  
نے ارشاد فرمایا: ”اَلَسَّلَامُ عَلٰی  
ہُد پڑھنے کا حکم دیا: ”اَلتَّحِیَّاتُ  
لَیَّوْا عَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ  
ہلال تریکے  
سے کمانے کے  
50 م-دنی فूल  
سیدنا ابن عمر کا تشہد میر

﴿10231﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسولِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ  
وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس طرح تشہد روایت کرتے ہیں: اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ اَلَسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ  
وَ رَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے یہاں بَرَکَاتُہُ کا اضافہ کیا ہے۔

①...مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۴۲/۲، حدیث: ۳۷۲۰، ۳۷۲۱

②...معجم کبیر، ۴۹/۱۰، حدیث: ۹۹۱۷

③...نسائی، کتاب الطہیق، باب کیف الشہد الاول، ص ۲۰۱، حدیث: ۱۱۶۵

(آگے یوں ہے:) اَسْلَمُوا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر فرمایا: اس مقام پر میں نے وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کا اضافہ کیا ہے۔ (پھر یوں ہے:) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔<sup>(۱)</sup>

## رات میں مسواک کرنا:

﴿10232-33﴾... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ طیب و طاهر آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب تہجد کے لئے رات میں اٹھتے تو مسواک کرتے۔<sup>(۲)</sup>

## وتر میں پڑھی جانے والی سورتیں:

﴿10234-38﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی ازیل اور حضرت سیدنا زید بن ابی اوفی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وتر میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْظٰی، قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ، اُوْر قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

## وتر کی تین رکعتیں ہیں:

﴿10239﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُم بیان کرتے ہیں کہ سرورِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وتر کی تین رکعتیں پڑھا کرتے تھے جس کی پہلی رکعت میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْظٰی، دوسری میں قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ، تیسری میں قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلٰقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10240﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وتر میں سورۃ زلزال، سورۃ عادیات، سورۃ ناکثہ، سورۃ لباب اور سورۃ اخلاص

①... ابو داؤد۔ کتاب الصلاة، باب التشہد، ۳۶۵/۱، حدیث: ۹۷۱

②... بخاری، کتاب التہجد، باب طول القيام فی صلاة اللیل، ۳۸۹/۱، حدیث: ۱۱۳۶

③... ترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فیما یقرأ فی الوتر، ۱۰/۲، حدیث: ۳۶۱، عن ابن عباس

④... دارقطنی، کتاب الوتر، باب ما یقرأ فی رکعات الوتر، ۴۲/۲، حدیث: ۱۶۶۰، عن عائشہ



کی تلاوت کیا کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## نماز جمعہ و عیدین کی قراءت:

﴿10241-45﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جمعہ کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے اور روز جمعہ نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

## جمعہ کے دن فجر کی قراءت:

﴿10246-47﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم روز جمعہ نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10248﴾... حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُوِذْتُ رَجِیم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جب کبھی دو عیدیں (جمعہ و عید) جمع ہو جاتیں تب بھی ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10249﴾... حضرت سیدنا ابو جعفر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ سے کسی نے کہا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ نے فرمایا: رسول پاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔<sup>(۵)</sup>

①...مسند امام احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۱/۱۹۲، حدیث: ۶۷۸، بحقیقہ و تأخر و دون قولہ: و العادیات

②...مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة، ص ۳۳۵، حدیث: ۸۷۹

③...ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاة، باب القراءة فی صلاة الفجر، ۱/۳۵۱، حدیث: ۸۲۳

④...ترمذی، کتاب العیدین، باب فی القراءة فی العیدین، ۲/۶۲، حدیث: ۵۳۳

⑤...مسند ابن الجعد، الحکم عن ابی جعفر، ص ۳۳، حدیث: ۱۵۸

## شریعت میں اختیارِ مصطفیٰ:

﴿53-10250﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آج کے دن کی ابتدا ہم جس چیز سے کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں پھر واپس جا کر قربانی کریں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پالیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا وہ فقط گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا اُسے قربانی سے کچھ تعلق نہیں۔“ یہ سن کر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز سے پہلے جانور ذبح کر چکے تھے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے پاس چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے جو میرے نزدیک سال بھر کی بکری سے زیادہ اچھا ہے۔“ نبی مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اس کی قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی کے لئے کافی نہیں ہو گا۔“<sup>(۱)</sup>

## سفر میں قصر ہے:

﴿58-10254﴾... حضرت سیدنا صفوان بن یحز زحمة اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سفر میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: سفر کی دور کعتیں ہیں تو جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿59-10259﴾... حضرت سیدنا عون ازوی عنہ زحمة اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک فارس کے امیر حضرت سیدنا عمر بن عبید اللہ زحمة اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھ کر سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے کہیں روانہ ہوتے تو واپس آنے تک (قصر کی) دور کعتیں ہی ادا فرماتے۔<sup>(۳)</sup>

﴿60-10260﴾... حضرت سیدنا حکیم بن حذافہ زحمة اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی

①... بخاری، کتاب العیدین، باب الخطبة بعد العید، ۳۳۲، ۳۳۱/۱، حدیث: ۹۹۵، ۹۹۸

②... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی السفر، ۳۳۳/۲، حدیث: ۳۴۹۲

③... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۲/۲۹۵، حدیث: ۵۰۴۲

اللہ تعالیٰ عنہما سے سفر میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: سفر میں دور کعتیں ادا کرنا سرکارِ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10261﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک فارس کے امیر حضرت عمر بن عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مکتوب بھیجا جس میں انہوں نے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سفر کی نماز دور کعتیں ہیں تو جس نے سنت کی مخالفت کی اس نے ناشکری کی۔<sup>(۲)</sup>

﴿10262﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کیں پھر کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10263﴾... حضرت سیدنا عمرو بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الفقار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: سفر میں دور کعتیں سنت ہیں۔

﴿10264﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رؤف کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں دور کعتیں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10265-66﴾... سلمہ بن کھیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے مژدلفہ میں حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر کر فرمایا: حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں اس جگہ نماز پڑھائی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر فرمایا کہ یہاں سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جگہ ایسا ہی کیا تھا۔<sup>(۵)</sup>

۱... مسئلہ امام احمد، مسئلہ عبد اللہ بن عمر، ۳۲۶/۲، حدیث: ۵۲۱۳

۲... مسئلہ امام احمد، مسئلہ عبد اللہ بن عمر، ۳۹۷/۲، حدیث: ۵۰۳۲

مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر، ۳۳۳/۲، حدیث: ۴۲۹۳

۳... بخاری، کتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف القمام، ۵۴۴/۱، حدیث: ۱۶۲۷

۴... مسئلہ امام احمد، مسئلہ عبد اللہ بن عمر، ۳۹۰/۲، حدیث: ۵۵۹۴

۵... مسئلہ امام احمد، مسئلہ عبد اللہ بن عمر، ۳۷۹/۲، حدیث: ۵۵۳۹

مسئلہ ابوداؤد طیالسی، مسند بن جبیر عن بن عمر، ص ۲۵۵، حدیث: ۱۸۷۰

﴿10267﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مالک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں نے مُزْدَلِفَہ میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے ہمراہ نماز ادا کی انہوں نے عشاء کی دو رکعتیں پڑھائیں تو حضرت خالد بن مالک رَحْمَةُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: سرورِ کونین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس جگہ ایسا ہی کیا تھا۔<sup>(۱)</sup>

## قصر مکمل فرض نماز ہے:

﴿10268﴾... حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں، عید الفطر کی نماز دو رکعتیں ہیں، فجر کی نماز دو رکعتیں ہیں اور سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں تمہارے نبی صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان کے مطابق یہ بغیر کسی کمی کے مکمل ہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿10269﴾... حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ساتھ ذُو الْحَلِیْفَہ میں دو رکعت نماز (قصر) ادا کی۔<sup>(۳)</sup>

﴿10270-71﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، ﷺ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ذُو الْحَلِیْفَہ تشریف لائے تو وہاں دو رکعتیں ادا فرمائیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10272﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا، محبوبِ کبریاء صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے گھر سے سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں تک دو دو رکعتیں ادا فرماتے تھے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10273﴾... حضرت سیدنا موسیٰ بن سلمہ بن ہذیل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَلِیُّ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے پوچھا: جب مسجد حرام میں میری نماز باجماعت فوت ہو جائے تو میں کتنی

①...مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۵۳۳/۲، حدیث: ۶۳۰۹

②...نسائی، کتاب تصدیق الصلاة فی السفر، باب ۱، ص ۲۴، حدیث: ۱۳۳۷، "الفجر" بدلہ "النحر"

③...مسند ابو داؤد طیالسی، الافراد، ص ۸، حدیث: ۳۵

④...دارقطنی، کتاب الحج، ۲/۲۷۹، حدیث: ۲۳۰۸

⑤...مسند ابو داؤد طیالسی، سعید بن شعیب عن ابن عباس، ص ۳۵۸، حدیث: ۲۷۳۷

رکعت ادا کروں؟ انہوں نے فرمایا: دو رکعتیں، یہ ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کا عمل ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10274﴾... حضرت سیّدنا ابو اسحاق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ہم شہنشاہ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ نکلے اور آپ کے ساتھ حج کیا، آپ واپس لوٹنے تک دو دو رکعتیں ادا فرماتے رہے۔ میں نے حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے پوچھا: آپ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں کتنے دن قیام کیا؟ فرمایا: دس دن۔<sup>(۲)</sup>

﴿10275﴾... حضرت سیّدنا حارث بن وہب خُزاعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: میں نے منیٰ میں رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کی حالانکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر طرح کا امن تھا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10276﴾... حضرت سیّدنا ابو خنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حبیب کبریٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو پہر کے وقت ہمارے پاس مقامِ بطحاء میں تشریف لائے، وضو فرمایا اور ظہر دو رکعتیں اور عصر بھی دو رکعتیں پڑھائیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10277﴾... حضرت سیّدنا ابو خنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ انہوں نے سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ مقامِ بطحاء میں نماز پڑھی پس آپ نے اپنے سامنے برجھی گاڑ لی اور اس کی طرف رخ کر کے دو رکعتیں ظہر کی اور دو رکعتیں عصر کی پڑھائیں۔<sup>(۵)</sup>

## ارکانِ حج کی تعلیم:

﴿81 تا 10278﴾... حضرت سیّدنا عروذہ بن مُضَرّس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ (حالتِ احرام میں) مُزْدَلِفہ آیا، میں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: میں جبلِ طٰی سے آیا ہوں اور راستے میں جو بھی پہاڑ آیا میں نے اس پر وقوف کیا تو کیا میرا حج ہو گیا؟ ارشاد فرمایا: جس

①...سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب المسافرین ذیل بشیء من مالہ... الخ، ۲۱۹/۳، حدیث: ۵۳۸۵

②...مسلم۔ کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ص ۳۳۹، حدیث: ۶۹۳

③...مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب المناسک، باب فی الصلاة بمنی کہ فی رکعتان امریۃ، ۳۴۰/۳، حدیث: ۳

④...بخاری، کتاب المناسک، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۴۸۸/۲، حدیث: ۳۵۵۳

⑤...معجم کبیر، ۱۱۵/۲۲، حدیث: ۲۹۳

نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ اس جگہ وقوف کیا حتیٰ کہ ہمارے ساتھ لوٹا اور اس سے پہلے وہ عرفات میں رات یا دن میں وقوف کر چکا تھا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں کا میل دور کر لیا۔<sup>(۱)</sup>

**تکبر سے کپڑا لٹکانے کی مذمت:**

﴿10282-83﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے تکبر سے اپنا کپڑا اگھینا اللہ عزوجل اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10284﴾... حضرت سیدنا مسلم بن یساق علیہ رحمۃ اللہ الزرقا کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو اپنا تہ بند گھیسے ہوئے دیکھا تو فرمایا: تم کون ہو؟ اس نے اپنا نسب بیان کیا تو وہ بنو لیث سے تعلق رکھنے والا شخص تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا: اپنے تہ بند کو اونچا کرو کیونکہ میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ”جو محض تکبر کے ارادے سے اپنا تہ بند گھیسے تو اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔“<sup>(۳)</sup>

﴿10285﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم، شافعِ اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے تکبر سے اپنا کپڑا اگھینا اللہ عزوجل اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10286-87﴾... حضرت سیدنا شعبہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محارب بن دثار علیہ رحمۃ اللہ الفقار مسجد میں اس جگہ پر تشریف لارہے تھے جہاں بیٹھ کر فیصلے کئے جاتے ہیں تو میں ان سے ملا اور کپڑا لٹکانے والی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے تکبر سے اپنا کپڑا اگھینا تو اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔“<sup>(۵)</sup> میں نے حضرت محارب بن دثار علیہ رحمۃ اللہ

۱... صحیح ابن جریمہ، کتاب المناسک، باب ذکر وقت الوقوف بعرفہ، ۲/۲۵۹، حدیث: ۲۸۲۰

۲... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب قول النبی: ”لو کنت معذنا علیلا“، ۲/۵۲۰، حدیث: ۳۶۶۵

۳... مسلم، کتاب اللباس، باب تحریر جز الثوب علیلا، ص ۱۱۵۵، حدیث: ۲۰۸۵

۴... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب قول النبی: ”لو کنت معذنا علیلا“، ۲/۵۲۰، حدیث: ۳۶۶۵

۵... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الزینۃ، باب ذکر الاختلاف علی شیعۃ فیہ، ۵/۴۹۳، ۴۹۴، حدیث: ۹۷۳۱، ۹۷۳۲

الْفَقَار سے پوچھا: کیا انہوں نے تہبند کا نام لیا تھا؟ تو جواب دیا: انہوں نے تہبند یا کسی اور کپڑے کو خاص نہیں کیا۔

﴿10288﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ اُمت کے عمخوار آقا صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کپڑا الکا نے والے کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10289﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تہبند کا جو حصہ شخصوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10290﴾... حضرت سیدنا محمد بن زیاد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَبْرَاد بیان کرتے ہیں کہ مروان نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ کو مدینہ کا گورنر بنایا تو جب آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہ کسی شخص کو تہبند گھسینا دیکھتے تو اس کے پاؤں پر مارتے پھر فرماتے: امیر آگے، امیر آگے، اس کے بعد فرماتے: حضرت سیدنا ابو القاسم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے: ”جو اتراتے ہوئے اپنا تہبند گھسینے اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔“<sup>(۳)</sup>

## تدفین کے بعد نماز جنازہ:

﴿92-10291﴾... حضرت سیدنا سلیمان ثَنَبَانِی رَضِیَ اللہ عَنْہُ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَبْرَاد نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے شخص نے یہ خبر دی کہ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک الگ تھلک قبر پر تشریف لائے اور اپنے پیچھے لوگوں کی صف بنائی اور اس قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔<sup>(۴)</sup>۔<sup>(۵)</sup>

①... مسند البزار، مسند ابن عباس، ۳۰۹/۱۱، حدیث: ۵۱۱۴

②... بخاری، کتاب اللباس، باب ما اسفل من الکعبین، ۴۶/۴، حدیث: ۵۷۸۷

③... مسند امام احمد، مسند ابن ہریرہ، ۳۸۱/۳، حدیث: ۹۳۱۶

④... صَدْرُ الشَّيْخِ، بَدْرُ الصَّيْغَةِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رَضِیَ اللہ عَنْہُ سے روایت ہے: میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں، جب تک پھسنے کا گمان نہ ہو اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں اور قبر پر نماز پڑھنے میں دونوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف سے مختلف ہے، گرمی میں جلد پھٹے گا اور جاڑے میں بدتر تر یا شور زمین میں جلد خشک اور غیر شور میں بدتر فریہ جسم جلد لاغر ویر میں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ۸۴/۱۰۴)

⑤... سنن کبیری للبیہقی، کتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما دفن، ۷۶/۴، حدیث: ۷۰۰۶

﴿10293﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی محترم، شہنشاہِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تدفین کے بعد ایک عورت کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی<sup>(1)</sup>۔<sup>(2)</sup>

﴿10294﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرورِ دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے چنے والی ایک عورت کی قبر پر تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔<sup>(3)</sup>

﴿10295﴾... حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔<sup>(4)</sup>

﴿10296﴾... حضرت سیدنا سمرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا زچگی کے سبب انتقال ہوا تو رسولِ پاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور میت کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔<sup>(5)</sup>

۱۔ اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے (بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۴/۸۳۸) مفتیشیر شیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تبریر نماز جائز ہے جب غالب یہ ہو کہ ابھی میت محفوظ ہوگی، گلی پھٹی نہ ہوگی (نیز) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے ولی ہیں، رب فرماتا ہے: اَلنَّبِيُّ اَوْدَىٰ بِاَمْنٍ مِّنْ مِّنِيْنَ مَنْ اَنْفُسِهِمْ (پ ۲۱، الاحزاب ۱۰) اگر ولی کے علاوہ اور لوگ نماز پڑھ لیں تو ولی کو دوبارہ جنازہ پڑھنے کا حق ہے، بعض لوگ ان احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی بنا ہو سکتی ہے مگر یہ غلط ہے، ورنہ تاقیامت ہمیشہ زائرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر پہنچ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھا کرتے۔ ولی کے نماز پڑھ لینے کے بعد اور کسی کو جنازہ پڑھنے کا حق نہیں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو روز تک مسلسل نمازیں ہوتی رہیں مگر جب صدیق اکبر نے جو خلیفۃ المسلمین اور ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ پر نماز پڑھ لی پھر کسی نے نہ پڑھی۔ (مرآۃ المتاج، ۲/۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵)

②...مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۲/۲۶۱، حدیث: ۱۳۳۰

③...مسند عبد بن حمید: ص ۱۷۸، ۱۷۹، رقم: ۹۷: عبد الله بن عامر

④...مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، ٢٨٥/١٣، تحت الحديث: ١٨٥٤، عن أنس

۵...بخاری. کتاب الحیض، باب الصلاة علی النفساء وسنتها، ۱/۱۳۲، حدیث: ۳۴۲



## ہر بھلائی صدقہ ہے:

﴿10297 تا 99﴾... حضرت سیدنا خذیفہ، حضرت سیدنا ابی عباس اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُغُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر بھلائی صدقہ ہے چاہے غنی کے ساتھ کی جائے یا فقیر کے ساتھ۔<sup>(۱)</sup>

**بارگاہِ مصطفیٰ میں مقامِ مرتضیٰ:**

﴿10300 تا 06﴾... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُغُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ ایسا ہو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔<sup>(۲)</sup>

حضری کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عرض کی: کیوں نہیں! میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

﴿10307-08﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مجھ سے ارشاد فرمایا: میں اپنے پیچھے تمہیں اپنے گھر والوں میں چھوڑتا ہوں کہ تم میرے گھر میں میرے نائب ہو۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آپ کے پیچھے آپ کا نائب نہیں بن سکتا۔ ارشاد فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ

①... ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی المعونۃ للمسلم، ۳۷۳/۴، حدیث: ۴۹۶۷، معجم کبیر، ۹۰/۱۰، حدیث: ۱۰۰۴۷

مکارم الاخلاق للطبرانی، باب فضل اصطناع المعروف، ص ۳۵۴، حدیث: ۱۱۲

②... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابی طالب، ص ۱۳۰۹، حدیث: ۴۳۰۴

سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر منزلة علی بن ابی طالب، ۱۲۲/۵، حدیث: ۸۳۳۸

مسند البرز، وتمام روی بکبری بن مسمار عن عامر عن ابیہ سعد، ۳۲۴/۳، حدیث: ۱۱۴۰

③... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر الاختلاف علی عبد اللہ بن شریک، ۱۲۲/۵، حدیث: ۸۴۳۶

سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر منزلة علی بن ابی طالب، ۱۲۲/۵، حدیث: ۸۳۳۶

تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہما السلام سے تھی ہاں! مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿10309-10﴾... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص: رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کو اپنا نائب مقرر کیا تو انہوں نے عرض کی: کیا آپ مجھے اپنے پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون عَلَیْہِمَا السَّلَام تھے۔ مگر سنو! میرے بعد کوئی نبی نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### سیدنا عمار بن یاسر کی خبر شہادت:

﴿10311 تا 16﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم: رُوِّفَتْ رَحِیْمُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت عمار بن یاسر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے ارشاد فرمایا: تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10317﴾... حضرت سیدنا ابو قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت عمار بن یاسر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ سے ارشاد فرمایا: اے سُوَیْر کے فرزند! افسوس کہ تم کو سخت تکلیف پہنچے گی اور تمہیں باغی گروہ شہید کرے گا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10318﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بہتر شخص حضرت ابو قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔

﴿10319﴾... حضرت سیدنا عمرو بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار سے ایک مصری شخص نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ نے لوگوں کی طرف تھانف بھیجی تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ کو

①... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر منزلة علی بن ابی طالب، ۵/۱۲۲، حدیث: ۸۳۳۸، معجم اوسط، ۱۷۹/۳، حدیث: ۲۲۳۸

②... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابی طالب، ص ۱۳۰۹، حدیث: ۲۴۰۳

③... مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقروہ الساعة حتی یمر... الخ، ص ۱۵۵۸، حدیث: ۲۹۱۶

④... مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقروہ الساعة حتی یمر... الخ، ص ۱۵۵۸، حدیث: ۲۹۱۶

اوروں سے زیادہ دیا جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ”عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔“ (۱)

﴿10320﴾... حضرت سیدنا حذلول بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النکریم اور اہل شام کی طرف سے امان میں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو وہ شخص آپس میں جھگڑنے لگے، ایک کہتا: میں نے اسے قتل کیا ہے اور دوسرا کہتا: میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: نہیں، آپس میں جھگڑامت کرو کیونکہ میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ”حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔“ (۲)

## اُمت کے سب سے بہتر لوگ:

﴿10321-22﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النکریم نے فرمایا: اس اُمت میں حضور سید عالم، کُودِ مَجَسَّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے بعد سب سے بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اگر میں تیسرے کا نام لینا چاہتا تو ضرور لے لیتا۔

﴿10323-24﴾... حضرت سیدنا عبد خیر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النکریم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: کیا میں تمہیں اس اُمت میں سرور کو نین، شہنشاہ و ارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے بعد سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی: ضرور بتائیے۔ فرمایا: وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: کیا میں تمہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس اُمت کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

﴿10325﴾... حضرت سیدنا ابو نعیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النکریم کو فرماتے سنا: اس اُمت میں نبی اکرم، شافعِ اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے

①...مسلم۔ کتاب الفتن۔ باب لا تقوہ الساعة حتی یمر... الخ، ص ۱۵۵۸، حدیث: ۲۹۱۶، عن ام سلمة، بصغیر قلیل

②...مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو، ۵۶۴/۲، حدیث: ۶۵۴۹

بعد بہتر حضرت سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔

﴿10326﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَا بَیَان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرمَہ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کو فرماتے ہوئے سنا: کیا میں تمہیں رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

﴿10327-28﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرمَہ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: اس اُمت میں سرور انبیاء، محبوب کبریٰ مصل اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد سب سے بہتر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اگر میں تیسرے کا نام لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔

﴿10329-30﴾... حضرت سیدنا ابو اسحاق سید علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرمَہ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد اس اُمت میں سب سے بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں تیسرے کے بارے میں بتاؤں؟“ لوگوں نے راوی سے پوچھا: ابو اسحاق! سب سے بہتر یا سب سے افضل؟ تو بھجے کرتے ہوئے فرمایا: خ، ی، ر، خیر یعنی بہتر۔<sup>(۱)</sup>

## گستاخانِ شیخین پر غضبِ مرتضوی:

﴿10332﴾... حضرت سیدنا زید بن وہب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سید بن غفلہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرمَہ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کے دورِ خلافت میں ان کے پاس جا کر عرض کی: امیر المؤمنین! میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو حضرت سیدنا ابو بکر و حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایسا ذکر کر رہے تھے جو اسلام میں ان کے شایانِ شان نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً منبر پر تشریف لائے، آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے فرمانے لگے: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو پیدا کیا! حضرت

①... یہاں موجود روایت ﴿10331﴾ کا ترجمہ نہیں کیا گیا عربی متن آخر میں ڈال دیا ہے اہل علم حضرات وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

(از ماب)

سیدنا ابو بکر و حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خالص مومن ہی محبت کرتا ہے اور بد بخت و سرکش ہی ان سے بغض رکھتا ہے، ان کی محبت نیکی ہے اور ان سے بغض رکھنا بدینی و گمراہی ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو بھائیوں، وزیروں، صحابیوں، قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے روحانی باپوں کا برا چرچا کرتے ہیں، جو ان دونوں کو برا کہے میں اس سے بری (بیزار) ہوں اور اسے سزا دوں گا۔

## عربی شعر کا سچا ترین مصرعہ:

﴿10333﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم، ثورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل عرب کا سب سے سچا مصرع یہ ہے: **أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ** یعنی سن لو! اللہ سوا کے سوا ہر چیز فانی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حسنِ اخلاق کی عظیم ترین مثال:

﴿10334﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر مدینے کی کوئی باندی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کام کے سلسلے میں کہیں بھی لے جانا چاہتی تو لے جاسکتی تھی۔<sup>(۲)</sup>

﴿10335﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر مدینے کی کوئی لونڈی رسول اکرم، ثورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام سے لے جاتی تو اپنے کاموں میں آپ کو ساتھ لے کر گھومتی رہتی حتیٰ کہ جب فارغ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔<sup>(۳)</sup>

## با وضو مسجد جانے کی فضیلت:

﴿10336﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لئے جائے اور اس کے علاوہ اس کا

① بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ایام الجاہلیہ، ۵۷۰/۲، حدیث: ۳۸۴۱

② ابن ماجہ، کتاب الہجۃ، باب البراءۃ من الکبر والواضع، ۳/۵۸، حدیث: ۳۱۷۷

③... اخلاق النبی و آدابہ، ص ۱۸، حدیث: ۲۸

اور کوئی مقصد نہ ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا اور ایک خطا مٹاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10337﴾... حضرت سیدنا سفیان ثقفی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز کا حکم دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا (یعنی زبان کی حفاظت کرو)۔<sup>(۲)</sup>

### چار کبیرہ گناہ:

﴿10338﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ رحمتِ کونین، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ چار ہیں: (۱)... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ شریک ٹھہرانا (۲)... ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حرام فرمایا ہے (۳)... والدین کی نافرمانی کرنا اور (۴)... جھوٹی قسم کھانا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10339﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ جب آقائے دو جہاں صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رکوع سے سر اٹھا لیتے تو جب تک آپ کو سجدے میں نہ دیکھ لیتے ہم (سجدہ کے لئے) اپنی کمر نہیں جھکاتے تھے۔<sup>(۴)</sup>

### خود داری کی برکت:

﴿10340﴾... حضرت سیدنا ہلال بن خصفین رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ کے ایک مکان میں ٹھہرا، میں اور وہ ایک مجلس میں تھے تو میں نے انہیں فرماتے سنا: حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دورِ اقدس میں ایک بار مجھے فائق نے اتنا ستایا کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، میری زوجہ نے مجھ سے کہا: کاش! آپ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس جا کر کچھ مانگ لیں کیونکہ فلاں شخص نے بھی ان سے مانگا تو انہوں نے عطا فرمایا تھا۔ میں

①...ترمذی، کتاب السفر، باب ما ذکر فی فضل المشی... الخ، ۱۱۰/۲، حدیث: ۶۰۳

②...سنن کبیری للنسائی، کتاب التفسیر، سورۃ الدخان، ۶/۳۵۸، حدیث: ۱۱۳۸۹

③...بخاری، کتاب الامان والذکر، باب الیمین الفعوم، ۳/۲۹۵، حدیث: ۶۶۷۵، عن عبد اللہ بن عمرو

④...الغوائد لتمام، ۱/۱۲۶، حدیث: ۳۹۰

نے کہا: میں ان سے سوال نہیں کروں گا چاہے میرے پاس کچھ نہ ہو، پھر میں آپ ﷺ کے پاس گیا تو آپ کو خطبہ دیتے پایا اس وقت آپ فرما رہے تھے: ”جو قناعت کرنا چاہے گا اللہ عزوجل اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ عزوجل اسے بچائے گا، جو ہم سے مانگے گا ہم اسے عطا کریں گے یا اس کی غنیمت کریں گے اور قناعت کرنے والا ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے۔“ (۱) یہ سن کر میں واپس آگیا پھر رسول اللہ ﷺ کے بعد میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور پھر دنیا کا مال اتنا آیا کہ انصار کا کوئی گھر نہ ہم سے زیادہ مالدار نہیں تھا۔

﴿10341﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک، صاحب لولاک ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں، جبکہ یہ آپ پر ہی اترا ہے۔ (آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن پاک سنوں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء سے ابتدا کی اور آپ کے سامنے تلاوت کرتا رہا جب میں اس آیت تک پہنچا:

**فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا** ﴿۱﴾ (پ: النساء: ۴۱)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔

تو میں نے دیکھا آپ کی چشمانِ کرم سے آنسو جاری تھے۔ (۲)

﴿10342﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ”روحیں مخلوط لشکر ہیں تو ان میں سے جو جان پہچان رکھتی ہیں وہ محبت کرتی ہیں اور جو احمق رہ چکی ہیں وہ الگ رہتی ہیں۔“ (۳) (۴)

۱... تہذیب الاحوال للطبری، مسند عمر بن الخطاب، السفر الاول، ۱۰/۱، حدیث: ۹

۲... بخاری، کتاب التفسیر، باب کیف اذا جئنا... الخ، ۳/۲۰۵، حدیث: ۳۵۸۲

۳... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب الارواح جنود مجنونة، ۳/۲۱۳، حدیث: ۳۳۳۶ عن عائشة

۴... مفسر شمیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ، جلد ۶، صفحہ 584 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی انسانی روحیں بدنوں میں آنے سے پہلے آپس میں مخلوط تھیں اس طرح کہ سعید روحیں ایک گردہ تھیں اور شقی روحیں دوسرا گردہ مگر سعید آپس میں مخلوط تھیں اور شقی آپس میں مخلوط۔ جب یہ روحیں بدنوں میں آئیں تو ہر روح کو اس روح سے الفت ہو گئی جس کے...

## حج و عمرہ کا ثواب:

﴿10343﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے <sup>(۱)</sup> اور عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

﴿10344﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ کھیل بچھایا گیا تھا <sup>(۳)</sup>۔ <sup>(۴)</sup>

## جہنم سمٹ جائے گا:

﴿10345﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

..... ساتھ پہلے غلط ملکہ جتنی ہے اگرچہ دنیا میں مختلف زمانوں مختلف زمینوں میں رہیں۔ جو وہیں وہاں عالم آراء میں الگ الگ تھیں کہ یہ روح ایک زمرہ کی تھی وہ روح دوسرے زمرہ کی وہ بدن میں آنے کے بعد اگرچہ ایک جگہ رہیں مگر ان میں الفت نہ ہوگی نفرت ہوگی:

ناریاں مرناریاں را طالب اند نوریاں مرنوریاں را مجازب اند

سزنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر الگ رہا، بلقیس یمن میں رہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، ابو جہل مکہ میں رہتے ہوئے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے دور رہا، اویس قرنی (علیہ السلام) دور رہتے ہوئے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے قریب ہو رہے۔ بعد دار اور قرب مزار کچھ نہیں۔

①... یعنی حج مقبول کی جزاء تو یقیناً (ہی) ہے اس کے علاوہ دنیا میں غنا، دعا کی قبولیت بھی عطا ہو جائے تو رب کا کرم ہے ہر ایک جانب میں ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۴/ ۸۸)

②... نسائی، کتاب مناسک الحج، باب الحج المبرور، ص ۳۳۲، حدیث: ۴۶۱۹

③... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ نقی، مرآۃ المناجیح، جلد ۲، صفحہ 487 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس طرح کہ حضرت شقران (رضی اللہ عنہ) غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں یہ کھیل کے اڑھے ہوئے دیکھوں گا، بے تابی میں قبر انور میں کود گئے اور بستر کی طرح اسے زمین پر بچھادیا۔ سرخ سے مراد سرخ دھاری والا ہے نہ کہ خالی سرخ۔ خیال رہے کہ یہ عمل شریف تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا اور کسی نے اس پر انکار نہ کیا لہذا یہ فضل شریف بالکل جائز ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کسی اور کے لیے قبر میں کچھ بچھانا جائز نہیں کیونکہ زمین نہ پیغمبر کا جسم کھا سکتی ہے اور نہ ان کا فن و ہنر لہذا اس میں مال کی بربادی نہیں، دیکھو سلیمان علیہ السلام بعد وفات ایک سال یا چھ مہینہ عصا کے سہارے کھڑے رہے ورنہ آپ کی لائچی کھائی قدم نہ کھایا اور آپ کا لباس نہ گانہ میلا ہوا۔

④... مسلم، کتاب الجنائز، باب جعل القطیفة فی القبر، ص ۴۸۱، حدیث: ۹۶۷



وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جہنم یہی کہتا رہے گا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ حُشّی کہ اللہ ربُّ العزت اپنی شان کے لائق اپنا بے مثل قدم اس میں رکھے گا وہ سٹ جائے گی اور جنت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا حُشّی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک دوسری مخلوق پیدا فرما کر اسے جنت کی اضافی جگہ میں بٹا دے گا۔<sup>(۱)</sup>

## نفاق کی نشانیاں:

﴿10346﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ پیارے آقا صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس میں چار باتیں ہوں وہ منافق ہے اور اگر اُس میں ان میں سے ایک بات ہو تو اُس میں نفاق کی خصلت ہے حُشّی کہ اُسے چھوڑ دے: (۱)... جب بات کرے تو جھوٹ بولے، (۲)... جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، (۳)... جب امانت دی جائے تو خیانت کرے اور (۴)... جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔<sup>(۲)</sup>

## رضائے الہی کے لیے محبت کی فضیلت:

﴿10347﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، رسول محتشم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ سَأَلَكَ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبِّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ“ یعنی جو حلاوت ایمان محسوس کرنا چاہے اسے چاہئے کہ بندوں سے صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے محبت کرے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10348﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنتی خزانوں میں سے ہے؟ وہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ ہے۔<sup>(۴)</sup>

## شانِ غفاری کا ظہور:

﴿10349﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ پیارے آقا صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

①... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۲/۲۸۳، حدیث: ۱۲۲۳۳، بتجویہ قلیل

②... بخاری، کتاب الايمان، باب علامة المنافق، ۲۲/۱، حدیث: ۳۲، ۳۳

③... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ۲۳/۵، حدیث: ۳۳۸۵، عن ابی موسیٰ اشعری

④... مسند ابوداؤد طحاہی، عمرو بن ميمون عن ابی ہریرۃ، ص ۳۲۶، حدیث: ۲۳۹۴

وَاللّٰهُ سَمَّعَ نَے ارشاد فرمایا: اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ضرور ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا جو گناہوں کا ارتکاب کرتے پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی مغفرت فرماتا۔<sup>(۱)</sup>

## ذکر کرنے والوں پر رحمتیں:

﴿10350﴾... حضرت سیدنا ابو سعید و حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ رحمت کو عینِ راحت و ارین مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینہ اترتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## تین بد بخت:

﴿10351﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے غیوب مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کام فرمائے گا نہ ان پر نظرِ رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ خائب و خاسر لوگ کون ہیں؟ آپ مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی بات دہرائی اور پھر ارشاد فرمایا: (۱)... تہبند لاکانے والا (۲)... احسان جتانے والا اور (۳)... جھوٹی یا گناہ والی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10352﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رَغُوفَت رَحِیم مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اتنی نماز پڑھتے کہ تَدْمِیْن شَرِیفِیْن پر درم آجاتا، کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ مَنَّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے سبب آپ کے انگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے؟ ارشاد فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟<sup>(۴)</sup>

①... مستند البزار، حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۳۲۰/۶، حدیث: ۲۳۳۹، عن عبد اللہ بن عمرو

②... مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر، ص ۱۳۴۸، حدیث: ۲۷۰۰، بتقدیر و تاحصر

③... ابوداؤد، کتاب النبیاس، باب ماجاء فی اسباب الازار، ۷/۳، حدیث: ۳۰۸۷

④... بخاری، کتاب التفسیر، باب لیغفر اللہ... الخ، ۳/۳۲۸، حدیث: ۳۸۳۶، عن مغیرہ

## خواہشات کے غلاموں کا حال:

﴿10353﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو آسودہ حالوں کو عزت دیں گے عبادت گزاروں کو ہلکا جانیں گے، قرآن کریم میں سے جو ان کی خواہشات کے موافق ہو گا اس پر عمل کریں گے اور جو خواہشات کے خلاف ہو گا اسے چھوڑ دیں گے پس اس وقت قرآن پاک کے بعض حصے کو مان لیں گے اور بعض کا انکار کر بیٹھیں گے، اس کی کوشش کریں گے جو بغیر کوشش کے مل جاتا ہے یعنی مُقَدَّر مَقْدَر اور مقرر مدت اور نصیب کا رزق اور اس چیز کی کوشش نہیں کریں گے جو کوشش ہی سے ملتی ہے یعنی بھرپور ثواب، مقبول کوشش اور ایسی تجارت جس میں گھانا نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## صابر فقر اور مساکین کا انعام:

﴿10354﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم سب قیامت میں جمع ہو گے تو کہا جائے گا: ”اس امت کے فقر اور مساکین کہاں ہیں؟“ یہ سن کر فقر اور مساکین کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا: تم نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کریں گے: ”اے ہمارے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! تو نے ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کیا تو ہم نے صبر کیا اور تو نے مال و بادشاہی دوسروں کو عطا فرمائی۔“ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”تم نے سچ کہا۔“ اس کے بعد فقر اور مساکین ایک زمانہ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ مالداروں اور بادشاہوں پر حساب و کتاب کی شدت باقی رہے گی۔ لوگوں نے عرض کی: اہل ایمان اس دن کہاں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: ان کے لئے نور کی کرسیاں لگائی جائیں گی، بادل ان پر سایہ کئے ہو گا اور وہ دن ایمان والوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی کم ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10355﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بروز قیامت جمع کئے جاؤ گے اس حال میں کہ آثار و ضو سے تمہارے اعضائے وضع چمک رہے

①... معجم کبیر، ۱۰/۱۹۳، حدیث: ۱۰۴۳۲

②... الزہد لابن المبارک، باب الصدقة، ص ۲۲۶، حدیث: ۶۳۳

ہوں گے تو اس کے سبب میں تمہیں پہچان لوں گا پس تم میں جس سے ہو سکے اپنی چمک زیادہ کرے۔<sup>(۱)</sup>

چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو اپنی کہنیوں اور ٹخنوں کے اوپر تک پانی پہنچاتے اور فرماتے: میں چاہتا ہوں کہ میرے اعضاء وضو کی چمک زیادہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ چمک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔

### بہترین سفارشی:

﴿10356﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کا بہترین سفارشی ہو گا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! اس کا اکرام فرما۔ تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا پھر وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! اس میں اضافہ فرما اور اس سے راضی ہو جا۔ پس اللہ عزوجل کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿10357﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عزوجل اپنے بندے کی تصدیق فرماتا ہے جب وہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کہے اور جب وہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللہ کہے تو اسے (جہنم کی) آگ نہ چھوئے گی۔<sup>(۳)</sup>

### مردار گدھے والی مجلس:

﴿10358﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ ایک مجلس میں جمع ہوں اور پھر اللہ عزوجل کا ذکر کیے بغیر جدا ہو جائیں تو مردار گدھے سے اٹھتے ہیں۔<sup>(۴)</sup> اور یہ مجلس بروز قیامت ان کے لئے حسرت ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

①... بخاری، کتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر... ۱/۱، حدیث: ۱۳۶، بدون بعض الفاظ

②... مسند الفردوس، ۳/۲۲۲، حدیث: ۶۷۷۲

③... جمع الجوامع، حروف المہمزة، ۲/۳۲۲، حدیث: ۶۸۱۷

④... مفتی شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآۃ المناجیح، جلد 3، صفحہ 318 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی گویا یہ غافل لوگ مردار گدھا کھا کر اٹھے جو پلید بھی ہے اور حقیر بھی اور اپنی زندگی میں حماقت میں مشغور بھی ہے اور شیطان کا مظہر بھی کہ اس کے بولنے پر لا حول و پڑھی جاتی ہے غرض کہ اللہ کے ذکر سے خالی مجلس مردار گدھے کی طرح ہے۔

﴿10359﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں جنتی خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لاخول ولا خوف الا بالہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

## سب سے افضل نماز:

﴿10360﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا خمران بن ابان علیہ رحمۃ الرحمن سے فرمایا: تمہیں باجماعت نماز پڑھنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو جمعہ کی فجر باجماعت ادا کر چکا ہوں، کیا تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔“<sup>(۲)</sup>

## قبر کی حرمت:

﴿10361﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دافع رنج و ملال، صاحبِ مود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی شخص کا انگارے پر پاؤں رکھنا قبر پر پاؤں رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔<sup>(۳)</sup>

## مہمانی کا حق:

﴿10362﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہمانی کا حق تین دن ہے اس سے زیادہ صدقہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

..... ہیں اور ان میں شرکت کرنے والے اس مردار کے کھانے والے ہیں۔ اَلْحَنَدُ لِلّٰہِ مَوْسِن کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی وعدے پر ان شاء اللہ کہتا ہے چیمک پر اَلْحَنَدُ لِلّٰہِ، جانی پر لاخول ولا خوف الا بالہ، غم کی خبر پر اِنَّا لِلّٰہِ غرض کہ بات پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، درود ہو اس دافع شر جن و انس پر، صلوٰۃ ہو اس غنوار امت پر جس نے ہماری زندگی سنبھال دی اور ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے آباد کر دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①... مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ، ۵۹۷/۳، حدیث: ۱۰۶۸۵

②... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ۵، ۴۳۳/۵، حدیث: ۳۳۸۵، عن ابی موسیٰ اشعری

③... شعب الایمان، باب الصلوات، فضل الصلاۃ علی النبی، ۱۱۵/۳، حدیث: ۳۰۲۵

④... مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ، ۶۲۴/۳، حدیث: ۱۰۸۳۳، بخاری

⑤... سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الجزیۃ، باب ماجاء فی الضیافۃ ثلاثۃ، ۳۳۱/۹، حدیث: ۱۸۶۹۲

﴿10363﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے کسوں کے مددگار، شفیق روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے جنازے پر 100 لوگ نماز پڑھ لیں اسے بخش دیا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### حاجت پوری نہ ہونا بھی رحمت ہے:

﴿10364﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ دنیا کی حاجات میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عزوجل سات آسمانوں کے اوپر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرا یہ بندہ دنیا کی حاجت میں سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہے اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوں گا لیکن میں اسے اس کی حاجت سے دور رکھوں گا۔ پس صبح کو بندہ انگلیاں کاٹتے ہوئے کہتا ہے: کون میرے آگے آگیا؟ کس نے مجھے مصیبت میں ڈالا؟ حالانکہ یہ محض رحمت ہے جس سے اللہ عزوجل اس بندے پر مہربانی فرماتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

### ایمان والا محبوب الہی ہے:

﴿10365﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ، سراپا جو دو کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی دوسرے سے زیادہ کمانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سال سے زیادہ بارش برسانے والا ہے لیکن اللہ عزوجل جہاں چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے اور اللہ عزوجل مال و دولت محبوب کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی مگر ایمان صرف محبوب کو عطا فرماتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

### اُمت پر شفقت و کمال مہربانی:

﴿10366﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے اللہ عزوجل! میں بشر ہوں اور بشر کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے

①... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی من صلی علیہ جماعۃ من المسلمین، ۲/۲۱۳، حدیث: ۱۴۸۸

②... توت القلوب، شرح مقام التوکل ووصف احوال المتوکلین، ۲/۱۸۱ بنحو


③... الفتاویٰ لابن حبان، ۵/۳۳۰، رقم: ۲۴۲۱، علی بن حمید السلولی

پس اگر میں کسی غیر مستحق مسلمان کو لعنت<sup>(۱)</sup> کروں تو اسے اس کے حق میں کفارہ اور رحمت بنادے۔<sup>(۲)</sup>

10367... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چاہتا ہے وہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔<sup>(۳)</sup>

فرمان مصطفیٰ: اللہ عزوجل بندے کی اس نلڑکی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں وہ رکوع و سجود کے درمیان

بیٹھ بیٹھ نہ کرے (مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ ۳/۶۱۷، حدیث: ۱۰۸۰۳)



۱... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 868 صفحات پر مشتمل کتاب ”اصلاح اعمال“ جلد 1 صفحہ 424 پر ہے: سوال: حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خلاف دایا سب و شتم یا لعنت کیسے کر سکتے ہیں جو ان کا مستحق نہ ہو؟ جواب: اس کا جواب وہی ہے جو علمائے رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، مختصر یہ ہے کہ اس کی دو وجہیں ہیں: (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے لعنت کا مستحق نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک اور امر باطن میں اس کا مستحق اور اہل نہیں تھا۔ لیکن ظاہر میں وہ اس (لعنت وغیرہ) کا مستحق تھا۔ لہذا احکامِ شریعت ہونے کے اعتبار سے شہناو دو جہاں، رحمتِ عالمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس شخص کے بارے میں لعنت کا استحقاق ظاہر ہو گیا جبکہ امر باطن میں وہ اس کا مستحق و اہل نہ تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے پر مامور ہیں اور پوشیدہ معاملات کو اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو برا بھلا کہنا یا اس کے خلاف دعا کرنا وغیرہ اس سے مقصود ملامت نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا تعلق اہل عرب کی عادت سے ہے کہ وہ اپنے کلام میں بغیر کسی نیت کے ایسے الفاظ ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ فرمایا: ”خیر ادا یاں باتھ خاک آلود ہو۔“ ایک جگہ ارشاد فرمایا: ”خیر عمر دراز نہ ہو۔“ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث شریف میں یہ فرمایا: ”اللہ عزوجل اس کا پیٹ نہ بھرے۔“

اور اسی طرح دیگر الفاظ کہ اہل عرب ان سے حق تعالیٰ دعا کا ارادہ نہیں کرتے تھے پس (ارادہ نہ ہونے کے باوجود) حضور نبی کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی بات درجہ قبولیت کو نہ پہنچ جائے اس لئے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ میرے ان الفاظ (یعنی کسی کے خلاف دعا وغیرہ) کو اس کے لئے رحمت، بخشش، قرب، پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنادے اور حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی بات کا صدور و شواہد و ثبوت (یعنی بھی بکھار ہی ہو) کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بخشش بات کرتے نہ لعنت کرتے اور نہ ہی اپنی ذات کے لئے انتقام لیتے تھے۔“

۲... شرح مشکل الآثار، بیان مشکل ماہوی عن رسول اللہ من قبلہ: ای المسلمین جلد ۲... الخ، ۱۵/۴۷۳، حدیث: ۶۰۰۹، عن ابی ہریرہ

۳... شعب الایمان، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی قراءۃ القرآن من الصحف، ۴۰۸/۳، حدیث: ۲۲۱۹

## حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ

بلند مراتب سے عظمت پانے والے، قابل احترام، صحابہ کرام اور بزرگوں کے طریقے پر مضبوطی سے عمل پیرا، پوری زندگی پاک دامن مَعْقُورِ لُؤْگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے، اپنی زبان کو لگام لگا کر اور شکلف منہ بند کر کے بری باتوں سے محفوظ رہنے والے، بہت میل ملاپ اور جھگڑے کو ترک کرنے کی بہترین نصیحتیں کرنے والے ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو سلمہ مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ بھی ہی۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ حق کی نصیحت کرنے والے اور اپنے رب کی عبادت میں دل و جان سے کوشاں رہنے والے تھے۔

### اسلاف کی نظر میں مقام و مرتبہ:

﴿10368﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سچائی کا سرچشمہ تھے۔

﴿10369﴾... حضرت سیدنا ابو معمر قُطَيْبِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے پوچھا: آپ کے دیکھے ہوئے لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ۔ اور حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس کو افضل پایا ہے تو آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا عرو بن مرہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو۔

﴿10370﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں دیکھا۔

﴿10371﴾... حضرت سیدنا شام بن عروہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے کوہ میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے زیادہ افضل کوئی نہ دیکھا۔ اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے ایسا کوئی نہیں ملا جسے میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ پر فضیلت دوں۔

﴿10372﴾... حضرت سیدنا نعمان بن عبد السلام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: کیا آپ نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا: بالکل کی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: یقیناً تم ان جیسی فضیلت والی شخصیت سے



کبھی نہیں ملے ہو گے۔

## سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ الرَّحْمَہُ کی عقیدت:

﴿10373﴾... حضرت سیدنا عباس بن یزید رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر خیر کرتے سنا۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا: مجھے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ آپ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی کنیت ”ابو سبکھ“ ذکر کرتے تھے اور نام لینے سے حیا فرماتے تھے کیونکہ آپ نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسا کبھی کوئی نہیں دیکھا۔

﴿10374﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میرے دور میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسا کوئی نہ تھا۔

## وصال مبارک پر آسمان والوں کی خوشیاں:

﴿10375﴾... حضرت سیدنا مُضْعَب بن مُقْدَام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضور نبی کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور دونوں ایک جگہ آ جا رہے ہیں (جیسے کسی کا انتظار ہو)، حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا حضرت مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہو گیا؟ ارشاد فرمایا: ہاں اور آسمان والے ان کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں۔

﴿10376-77﴾... حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق میں سے کوئی بھی حضرت سیدنا ابویوب سختیانی رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے افضل ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔

## علم و تقویٰ کے جامع:

﴿10378﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن ضیف رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن عبید رَحْمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ابویوسف! آپ نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی ہے آپ نے سب سے بہتر کسے

پایا؟ فرمایا: حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو۔ میں نے کہا: شعیبان اللہ! آپ نے حضرت سیدنا محمد بن سقر، حضرت سیدنا موسیٰ جہنی اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابوسلیمان عَلَیْہِمُ الرِّضْوٰہ سے بھی ملاقات کی ہے جبکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے تو ان سے علم حاصل کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا علی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کھڑے تھے کہ آپ کے منہ سے سفیان نکلا تو آپ بیٹھ گئے پھر فرمایا: بیٹا! حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور علم کے جامع تھے۔ میں نے کہا: ان کے بعد سب سے بہتر کسے پایا؟ تو حضرت سیدنا علی بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو۔ ﴿10379﴾... حسن بن عمارہ کا بیان ہے: اگر جنت میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسے لوگ ہی داخل ہوئے تو یقیناً جنتی بہت تھوڑے ہوں گے۔

﴿10380﴾... حضرت سیدنا معن بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں: میں نے دن میں جب بھی حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو دیکھا تو یہی کہا کہ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔

### علماء کی وفات:

﴿10381﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے: جب حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہوا تو مجھے ایسا لگا گویا قند ملیں اور چراغ بجھا دئے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی وفات علماء کی وفات ہے۔

﴿10382﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ کوفہ کی سب سے بڑی مسجد کی قند ملیں بجھا دی گئیں پس حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہو گیا۔

﴿10383﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے فرمایا: لوگ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ اگر حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے اصحاب کو پالیتے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار بھی انہیں میں ہوتا۔

### چار افضل نوجوان:

﴿10384-85﴾... حضرت سیدنا وکیع بن جراح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا

ابن ابوسلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: چار نوجوان ہم میں سب سے افضل تھے۔ میں نے کہا: ذرا ٹھہریے تاکہ میں انہیں لکھ لوں۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس، حضرت سیدنا مغیرہ بن ایوب، حضرت سیدنا خلف بن حوشب اور حضرت سیدنا مسعر بن کدام عَلَیْہِمُ الرِّضْوۃ۔

## خوف آخرت:

﴿10386﴾... حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو دیکھا (خوف خدا کے باعث ایسا لگتا تھا) گویا آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

﴿10387﴾... حضرت سیدنا احمد بن یونس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو دیکھا ہے ان کی پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا نشان تھا۔

## وصال کے وقت خوف کی کیفیت:

﴿10388﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن آدم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے وصال کے وقت ان کے پاس آئے، انہیں غمگین پا کر کہا: آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم! میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی مر جاؤں۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے بٹھاؤ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے اپنی بات دہرائی تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: سفیان! اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنے عمل پر یقین ہو گا لیکن خدا کی قسم! مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے بلند پہاڑ پر ہوں جس سے اترنے کا راستہ ہی مجھے معلوم نہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی رونا لگے اور پھر کہا: آپ مجھ سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھتے ہیں۔

﴿10389﴾... حضرت سیدنا ابو نعیمہ حَضْرَتُہُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کوفیوں کے نزدیک حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا مقام و مرتبہ ایسا ہی ہے جیسا بصریوں کے نزدیک حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ہے۔

## یقین جیسا شک:

﴿10390﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں: لوگوں نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی روایت میں شک ہے۔ آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شک دوسروں کے یقین جیسا ہے۔

﴿10391﴾... حضرت سیدنا امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شک مجھے کسی اور کے یقین سے زیادہ محبوب ہے۔

## لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ:

﴿10392﴾... حضرت سیدنا علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: حضرت سیدنا ہشام و سثوئی اور حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کون زیادہ ثقہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔

﴿94-10393﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو (علم حدیث میں پختگی کی وجہ سے) مُضخف کہا کرتے تھے۔

## تدلیس سے اجتناب:

﴿10395﴾... حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں کوفہ آیا تو میں نے یہاں ایسا کوئی نہ دیکھا جو تدلیس<sup>(۱)</sup> نہ کرتا ہو ہاں! حضرت سیدنا مسعر بن کدام اور حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اس سے بری تھے۔

﴿10396﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تدلیس پست ہمتی ہے۔

①... اصول حدیث کی اصطلاح میں تدلیس یہ ہے کہ جس سے روایت سنی راوی اس کا نام لینے کے بجائے اس کے اوپر والے شیخ سے ایسے لفظ کے ساتھ روایت کرے جو اس سے سننے کا وہم پیدا کرے اور وہ جھوٹ بھی مانہ ہو جیسے وہ کہے: ”عن فلان یعنی فلاں سے روایت ہے اور قال فلان یعنی فلاں نے کہا۔“ (مقدمة الشیخ، ص ۱۶)

## بوقتِ اختلاف رہنما:

﴿10397-98﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں: جب کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو جاتا تو اس کے بارے میں ہم حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا کرتے تھے۔

﴿10399﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن داود رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: ہمارے ساتھی حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ادب و احترام ایسا ہی کیا کرتے تھے جیسا حضرت سیدنا امام اعش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کیا کرتے تھے۔

## ہر شخص حدیث سننے کا اہل نہیں:

﴿10400﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: آپ فلاں کو حدیث سناتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں ایک کو حدیث سناؤں اور دوسرے کو چھوڑ دوں۔

﴿10401﴾... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں: علم حدیث میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیروی کی جاتی تھی، ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے کہا: آپ فلاں کو حدیث بیان کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: ایک کو حدیث سنانا اور دوسرے کو چھوڑ دینا میرے لیے آسان ہے اور ہر شخص حدیث کے لیے چاق و چوبند نہیں ہو سکتا۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ایک شخص نے مجھے آپ کے پاس سفارش کرنے کو کہا ہے کہ آپ اسے حدیث سنا دیا کریں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس سے کہنا کہ آجائے۔ میں نے عرض کی: کیا میں بھی اس کے ساتھ آجاؤں؟ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم تو ہمارے پاس ہی رات گزارو۔

## کہیں ظلم و زیادتی نہ ہو جائے:

﴿10402﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نہیں جانتا کہ اپنے پاس آنے والے ان دو افراد کے ساتھ کیا معاملہ کروں جن میں سے ایک کی بات مجھ پر آسان و ہلکی ہو اور دوسرے کی بوجھ ہو۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کہیں ظلم نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے۔

## سجدوں کی کثرت:

﴿10403﴾... خالد بن غمزد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی پر بکری کے گھٹنے جیسا نشان تھا اور اگر وہ تمہاری طرف دیکھیں تو آنکھوں میں نقص کی وجہ سے تم سمجھو گے وہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں۔

﴿10404﴾... حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، آنکھ میں خرابی تھی اور جو آپ کے پاس بیٹھ کر حدیث لکھتا آپ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔

## تعریف کرنے والے کو جواب:

﴿10405﴾... حضرت سیدنا ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا: تم میری تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو لوگوں کو مزدوری پر رکھتا اور حاکم کے تحفے قبول کرتا ہوں۔

## علم و ادب کی خوبی:

﴿10406﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: علم خاندانوں کی بزرگی ہے جو بندے کے نسب سے خرابی کو دور کرتا ہے اور جسے خاندان پست کرے ادب اُسے بلند کرتا ہے۔

﴿10407﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ابو جعفر کے پاس گیا تو اس نے کہا: اگر تمام لوگ آپ کی طرح ہوتے تو میں باہر نکل کر ان کے ساتھ چلتا۔

﴿10408﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ابو جعفر کے پاس جا کر

کہا: ہم تمہارے والد کی جگہ ہیں اور تم ہمارے بیٹے کی جگہ ہو۔ (یہ اشارہ ہے کہ اُمّ الفضل بلالیہ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہا میری ماؤں میں سے ہیں جو تمہارے باپ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں اس لئے ہمارا تمہارا رشتہ باپ بیٹے جیسا ہے) اس پر اس نے کہا: میری پسندیدہ ماں کی وجہ سے ہی آپ میرے مقرب ہیں اگر تمام لوگ آپ کی طرح ہوتے تو میں راستے پر ان کے ساتھ چلتا۔

### منصب قبول نہ کیا:

﴿10409﴾... حضرت سیدنا حکم بن ہشام رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خلیفہ ابو جعفر نے مجھے عہدہ دینے کے لئے بلایا تو میں نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ امیر کی اصلاح فرمائے، میرے گھر والے یہ چاہیں کہ میں دو درہم کی کوئی چیز خرید لاؤں تو میں کہتا ہوں: مجھے پیسے دو میں تمہارے لئے خرید لاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں: نہیں، بخدا! ہم نہیں چاہتے کہ آپ کچھ خریدیں۔ جب میرے گھر والے مجھے دو درہم کی چیز خریدنے کی ذمہ داری دینے پر راضی نہیں تو امیر المؤمنین مجھے عہدہ کیوں دے رہیں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی اصلاح فرمائے، ہم آپس میں رشتہ دار اور حقدار ہیں۔ شاعر نے کہا:

تُشَارِكُنَا فَرِيْشٌ فِي تَقَاعَا وَفِيْ اخْتِسَابِهَا شَرَكُ الْعِيَانِ  
بِنَا وَلَكِنَّ نِسَاءً يَتَّقْنَ هِلَالًا وَمَا وَلَدَتْ نِسَاءً يَتَّقْنَ اَكْبَانَ

**ترجمہ:** بنو ہلال اور بنو ابان کی عورتوں کی اولاد (یعنی حضرت سیدنا صفیہ بنت خُزَیْمہ اور اُمّ الفضل بنت حارث رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی والدہ) کے سبب قریش طاقت اور خاندانی شرافت میں شرکتِ عنان کی طرح ہمارے شریک ہیں۔ (یعنی ہم لوگ برابر ہیں)۔ یہ سن کر اس نے کہا: خدا کی قسم! ہمیں عرب میں اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ چنانچہ اُس نے آپ کو جانے دیا۔

﴿10410﴾... حضرت سیدنا سعید بن عفیر رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خلیفہ ابو جعفر نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، آپ رَضِیَ اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا: اے مسعر! ہمیں کچھ کاموں میں آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ نے کہا: امیر المؤمنین اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک درہم کی چیز بھی دوسرے کی مدد سے خریدتا ہوں تو میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں اور میں آپ کے نزدیک

اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آپ میری رشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور مجھ سے صلہ رحمی کریں، تاہم بنو جعدہ نے کہا:

تُشَادِرُنَا فِی قُرْبَانِیْ فِی تَقَاہَا وَفِیْ أَحْسَابِهَا شَرَّكَ الْعَتَانِ  
بِہَا وَذَلَّتْ نِسَاءُ بَنِیْ هِلَالٍ وَمَا وَذَلَّتْ نِسَاءُ بَنِیْ آبَانِ

**ترجمہ:** بنو ہلال اور بنو ابان کی عورتوں کی اولاد (یعنی حضرت سیدنا صفیر بیٹ خزن اور ائمہ الفضل بیٹ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی والدہ) کے سبب قریش عاقبت اور خاندانی شرافت میں شرکتِ عنان کی طرح ہمارے شریک ہیں۔

راوی کا بیان ہے کہ پھر خلیفہ نے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کو چار ہزار درہم اور چار درہی اور ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا اور خیال رکھتا رہا۔

## ہر رات نصف قرآن کی تلاوت:

﴿10411-12﴾... حضرت سیدنا محمد بن مسعر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں: میرے والد صاحب نصف قرآن کی تلاوت کئے بغیر نہ سوتے تھے، جب اتنی تلاوت کر لینے تو اپنی چادر تہہ کر کے اس پر (سر رکھ کر) تھوڑا سا آرام کرتے پھر اس شخص کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ اسے تلاش کر رہا ہو اور آپ کو مسواک اور طہارت کی طلب ہوتی پھر کمرہ عبادت کا رخ کرتے اور فجر تک عبادت کرتے رہتے۔ آپ اپنی اس کیفیت کو پھپھانے کی بہت کوشش کیا کرتے تھے۔

﴿10413﴾... حضرت سیدنا شعب بن حجاج رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں: مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ أَخَذَ عَلَیْہِہ إِلَّا مِسْعَرَ یعنی حضرت مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا مواخذہ نہ ہوا ہو۔

## لوگوں کے لیے طلبِ علم:

﴿10414﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے فرمایا: جو اپنی ذات کے لئے علمِ حدیث حاصل کرنا چاہے وہ تھوڑا حاصل کرے اور جو لوگوں کے لئے حاصل کرنا چاہے وہ زیادہ حاصل کرے کیونکہ لوگوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔

﴿10415﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے فرمایا: اپنے لئے علم حاصل کرنے والے کو علم کفایت کر جاتا ہے اور اگر تم لوگوں کے لئے علم حاصل کرتے ہو تو ہمیشہ مصروف ہی رہو گے۔



﴿10416﴾... حضرت سیدنا ابن سناک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو لوگوں کے لئے حدیث حاصل کرنا چاہے تو وہ خوب محنت کرے کیونکہ لوگوں کی تکلیف بہت شدید ہے اور جو اپنے لئے حدیث حاصل کرنا چاہے تو وہ اسے کفایت کر جائے گا۔ حضرت سیدنا شعب بن حجاج رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو آپ کے پاس ہی موجود تھے کہنے لگے: اگر یہ حدیث ہوتی تو اسے لکھا جانا چاہیے تھا۔

### بہت بڑی ذمہ داری:

﴿10417﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کاش! حدیثیں میرے سر پر رکھی شیشیاں ہوتیں جو گر کر ٹوٹ جاتیں۔

﴿10418﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو مجھ سے بغض رکھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مُخَذَّرِت بنا دے۔

﴿10421﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: طلبِ حدیث تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے تو کیا تم باز آتے ہو۔

﴿10422﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جس کا نفس اسے غمگین رکھتا ہے معاملہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔

### بد مذہب سے بیزاری:

﴿10423﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نقل کرتے ہیں کہ (حضرت سیدنا عمار بن دینار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں مکہ مکرمہ کے سفر میں ابن حطان خارجی کے ساتھ تھا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی حتیٰ کہ ہم واپس آ گئے۔

﴿10424﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں شُک سے پاک حلال صرف اسے ہی جانتا ہوں کہ کوئی شخص نہرِ فرات پر آکر اپنے چلو سے پانی پئے یا تمہارا نیک دوست تمہیں کوئی تحفہ دے دے۔

﴿10425﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیَان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو آپ کے عیب بتائے جائیں؟ فرمایا: نصیحت کرنے

والا بتائے تو پسند ہے، ملامت کرنے والے کا بتانا پسند نہیں۔

## والدہ کا ادب:

﴿10426﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ اشجعی علیہ رحمۃ اللہ النول فرماتے ہیں: حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے رات کے وقت ان سے پانی مانگا وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حاضر ہوئے تو والدہ سوچکی تھیں چنانچہ وہیں مشکیزہ اٹھائے کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

## ذکر اللہ کی برکت:

﴿10427﴾... حضرت سیدنا ابن سہاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: کیا آپ کا وصال نہیں ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا: آپ نے کون سے عمل کو سب سے زیادہ نفع مند پایا؟ فرمایا: اللہ عزوجل کے ذکر کو۔

﴿10428﴾... حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس فقط وعظ سننے کی غرض سے جایا کرتا تھا، جب مغرب کا وقت ہو جاتا تو میں ان سے کہتا: کاش! آپ مزید گفتگو فرماتے۔ تو آپ فرماتے: اگر تم مجھ سے کچھ نہ کہتے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہوتا، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے ذکر اللہ کے لئے کہو اور میں نہ کروں۔

﴿10429﴾... حضرت سیدنا قتبیسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی ڈاڑھ کھینچ کر نکال لینا کسی حدیث کا پوچھنے سے زیادہ پسند تھا۔

## ملاقات پر طواف کو ترجیح:

﴿10430﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں نکرہ مرہ آیا تو وہاں حضرت امام زہری علیہ رحمۃ اللہ النول بھی تھے، میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ ان سے ملاقات کروں یا طواف؟ پھر میں نے ان سے ملاقات کے بجائے طواف کو اختیار کر لیا۔

﴿10431﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں (طلب حدیث کے لئے) مسجد سے آگے

نہیں گیا۔

## غمگین آواز سننے کا شوق:

﴿10432﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: میرا جی کرتا ہے کہ میں غم میں رونے والی کی آواز سنوں۔

﴿10433﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10434﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: ایمان گھٹنا بڑھتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10435﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: حروفِ ابجد کے ذریعے تقدیر کو جھٹلانا بے دینی ہے۔

## جنت و دوزخ کی سفارش:

﴿10436﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: جنت اور جہنم انسان کی دعا سنتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو جنت کہتی ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے جنت عطا فرما۔ جب وہ کہتا ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو جہنم کہتا ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے پناہ عطا فرما۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کسی کا ذکر نہ کرے تو فرشتے کہتے ہیں: لوگ دو عظیم چیزوں سے غافل ہو گئے۔

## خود داری پانے کا نسخہ:

﴿10437﴾... حضرت سیدنا ابواسامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: سر کہ و ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے۔

﴿10438﴾... حضرت سیدنا ابواسامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: اے حماد! اگر تم روٹی اور ترکاری پر صبر کرو تو یہ بہت سے لوگ مل کر بھی تمہیں

①... اس مسئلے سے متعلق رقم نمبر 9442 کے تحت حاشیہ ملاحظہ کیجئے۔

②... اس مسئلے سے متعلق رقم نمبر 9456 پر حاشیہ ملاحظہ کیجئے۔

غلام نہیں بنا سکتے۔

﴿10439﴾... حضرت سیدنا محمد بن بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو سرکہ و ترکاری پر صبر کرے اسے غلام نہیں بنایا جاسکتا۔

## نصیحت آموز اشعار

کم کھانا:

﴿10440﴾... عبدالعزیز بن ابان کا بیان ہے: میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو فرماتے سنا:

وَجَذْتُ الْجَوْذَاءَ يَغْرُدُهَا وَغَيْثُهَا  
وَقُلْتُ الطَّعِيمَ عَوْتُ لِلْمُصَبِّ عَوْتُ لِلْسُبَاتِ

**ترجمہ:** مجھے بھوک لگتی ہے تو اسے ایک روٹی اور سہ فرات کا چلو بھریانی دور کر دیتا ہے، کم کھانا نمازی کے لئے مددگار ہوتا ہے جبکہ زیادہ کھانا نیند کے لیے مددگار ہوتا ہے۔

سکون و وقار والی مجلس:

﴿10441﴾... حضرت سیدنا محمد بن اسحاق سران رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا محمد بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی شان میں یہ اشعار سنائے:

مَنْ كَانَ مُتَمَسِّكًا جَلِيسًا صَالِحًا  
فَلْيَأْتِ حَلَقَةً صَنِيعَ بَنِ كَذَّابٍ  
فِيهَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَأَهْلُهَا  
أَهْلُ الْعَفَافِ وَعِلَّةُ الْأَقْوَامِ

**ترجمہ:** جو نیک ہم نشین کا مستلاشی ہو وہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں آجائے جس میں سکون و وقار ہے اور وہاں بیٹھنے والے نیک اور بلند درجہ لوگ ہوتے ہیں۔

﴿10442﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ شعر کہے:

لَنْ يَلْبِثَ الْقَرْنَاءُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا  
لَنْ يَكُنْ عَلَيْكَ لَيْلٌ يَكُنْ عَلَيْهِمْ وَهَارُ

**ترجمہ:** ساسنچی ایک دوسرے سے جدا ہونے میں ہرگز توقف نہیں کرتے وہ رات اور دن ہیں جو پلٹ پلٹ کر ان پر آتے رہتے ہیں۔

## ایک اعرابی کے اشعار:

﴿10443﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بیان کیا کہ وہ ایک دن جنگل کی طرف گئے تو وہاں ایک اعرابی دھوپ میں بیٹھا یہ اشعار کہہ رہا تھا:

جَاءَ الشَّمْسُ وَكَيْسٌ عِنْدِي وَرَهْمٌ  
وَلَقَدْ يُخَضُّ بِبِغْلِ ذَاكَ النَّسِيمِ  
قَدْ قَطَعَ النَّاسُ الْجَنَابَ وَغَيَّبَهَا  
وَكَاثِفٌ يَفْتَاءُ مَكَّةَ مُخِرِمِ

**ترجمہ:** سردی کا موسم آگیا اور میرے پاس ایک درہم بھی نہیں اور مسلمان اس جیسی چیز (یعنی مال) سے مفلس ہوتا ہے۔ لوگوں نے جبے وغیرہ کاٹ کر الگ لیے ہیں جبکہ میں گویا کہ صحن مکہ میں حالت احرام میں ہوں۔  
آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس کے اشعار سن کر اپنا جبہ اتارا اور اسے دے دیا۔

## درس قناعت:

﴿45-10444﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک مرتبہ یہ اشعار کہے:

أَقْبَلَ مِنَ الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ  
وَأَصْبَحَ لِرَبِّ الزَّمَانِ إِنْ عَمَّا  
مَا لِأَمْرِي فَوْقَ مَا يَجْزِي الْقَضَاءُ بِهِ  
قَالَهُمْ قُضِيَ وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ صَبَا  
يَا رَبِّ سَاعَ لَهُ فِي سَعْيِهِ أَمَلٌ  
يَقْضَى وَلَمْ يَقْضِ مِنْ تَأْمِينِهِ وَطَرَا  
مَا ذَاكَ طَعَمَ الْغَنَى مَنْ لَا قُنُوءَ لَهُ  
وَلَنْ تَرَى قَتَبَا مَا عَاشَ مُفْتَقِرًا  
وَالْعَرْفُ مَنْ يَأْتِيهِ تُخَدُّ عَوَاقِبُهُ  
مَا ضَاعَ عَرْفٌ وَإِنْ أَوْلَيْتُهُ حَصِيرًا

**ترجمہ:** (۱)۔ زمانے میں جو کچھ درپیش ہو اس کا سامنا کر اور حوادثِ زمانہ کی وجہ سے شوکر کھا چکا ہے تو صبر کر۔ (۲)۔ کوئی شخص تقدیر سے ماورا نہیں پس رنج و غم تو فضل ہیں اور بہترین انسان وہی ہے جو صبر کرے۔ (۳)۔ بہت سے کوشش کرنے والوں کی کوشش میں ختم ہونے والی امید ہوتی ہے لیکن وہ اپنی امید میں سے کوئی ضرورت پوری نہیں کر پاتے۔ (۴)۔ قناعت نہ کرنے والا غنا کی لذت نہیں پاسکتا اور تم اسے قناعت والا ہرگز نہ پاؤ گے جس نے فقر کی زندگی نہیں گزاری۔ (۵)۔ جو بھی بھلائی کرے اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے، بھلائی ضائع نہیں ہوتی اگرچہ تم پتھر کے ساتھ کرو۔

## غافلوں کو نصیحت:

﴿10446﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

هَٰذَا ذِكْرٌ يَا مَغْرُورٌ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ وَلَيْلُكَ كَوْمٌ وَالزَّوْءَى لَكَ لَا زَمْرٌ  
وَتَتَعَبُ فِيهَا سَوْفَ تَكْرَهُهُ فِيهِ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِينُ الْبَهَائِمُ

**ترجمہ:** (۱)... اے دھوکے میں مبتلا شخص! تیرا دن خطاؤں اور غفلتوں میں گزر رہا ہے جبکہ رات سوتے ہوئے، تیری بلاکت یقینی ہے۔ (۲)... جس چیز میں تو مشغول ہے عنقریب اس کا انجام تجھے ناپسند ہوگا، چوپائے دنیا میں ایسی ہی زندگی جیتے ہیں۔

﴿10447﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

تَقْفَى الدَّادَةَ وَمِنْ نَّالَ صَفْوَتَهَا مِنْ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْإِثْمُ وَالْعَارُ  
تَبْقَى عَوَاقِبُ شَيْءٍ مِنْ مَعْبِيَّتِهَا لَا غَيْرَ فِي لَذْوٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ

**ترجمہ:** (۱)... جس نے خالصتاً حرام سے لذت پائی اس کا مزہ ختم ہو جائے گا شرمندگی اور گناہ باقی رہ جائیں گے۔ (۲)... انجام کار حرام کی سزائیں باقی رہ جاتی ہیں، اس لذت میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم ہو۔

## جنازے میں اشعار:

﴿10448﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جنازے میں اکثر یہ اشعار کہا کرتے تھے:

وَتُحَدِّثُ زَوْعًا لَدَى كُلِّ قَرْوَةٍ وَنُسْرًا نَسِينَا وَلَمْ يَأْتِنَا أَمْنٌ  
فَإِنَّا وَلَا نُكْفِرُ إِنْ بَدَا رَبِّنَا كَمَا الْبُهْدَى لَا تُدْرِى مَتَى يَوْمُهَا الْبُهْدَى

**ترجمہ:** (۱)... ہر بلاکت کے وقت گھبراہٹیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس امان نہیں آتی ہوتی۔ (۲)... ہماری مثال قربانی کے جانوروں کی سی ہے جنہیں اپنی قربانی کے دن کا پتا نہیں ہوتا پس ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناشکری نہیں کرنا چاہئے جو ہمارا رب ہے۔

## گھر تو قبر ہی ہے:

﴿10449﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ شعر کہا کرتے تھے:

وَمُصَیِّبٍ ۖ فَإِذَا يُنَادِيكَ ۚ وَآذَانَكَ ۚ وَآذَانَكَ ۚ لَمْ يَسْكُنْ  
ترجمہ: رہائش کے لئے مضبوط گھر تعمیر کرنے والے قبر میں چلے گئے اور اپنے گھر میں نہ رہ سکے۔

## بیٹے کو نصیحت:

﴿51-10450﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے بیٹے کدام کو نصیحت کرتے ہوئے یہ اشعار کہے:

إِنِّي مَتَّخِثٌ يَا كِدَامُ نَصِيحَتِي قَاسِمُ مَقَالِ أَبِي عَلِيَّكَ شَفِيعِي  
أَمَّا النِّزَاجَةُ وَالْبِرَاءُ فَدَعُوهُمَا خُلُقَانِ لَا آرِضَاهُمَا لِصَدِيقِي  
إِنِّي بَلَوْتُهُمَا فَلَمْ أَخْذُ مِنْهُمَا لِلْبِجَارِ وَلَا لِلرَّفِيقِ  
وَالْجَهْلُ يُزِدُنِي بِالنَّفَقِ فِي قَوْمِهِ وَغَرَّ قَوْمُهُ فِي النَّاسِ أَتَى عَزِيزِي

ترجمہ: (۱)... اے کدام! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنے مہربان والد کی بات غور سے سنو۔ (۲)... ہنسی مذاق اور جھگڑے سے باز رہنا ان عادتوں کو میں کسی دوست کے لئے اچھا نہیں جانتا۔ (۳)... میں نے ان عادتوں کو برتا ہے کسی بڑوسی یا ساتھی کی یہ عادتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگیں۔ (۴)... جہالت فوجوان کو اس کی قوم میں رسوا کر دیتی ہے چاہے اس کی جڑیں لوگوں میں کتنی ہی مضبوط ہوں۔

﴿10452﴾... ابو الولید صہبی کا بیان ہے کہ ایک انتہائی ضعیف الغیر دیہاتی خم دار لاٹھی کا سہارا لیے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس گیا، اس نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نماز کی حالت میں پایا، حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی نماز لمبی ہوئی تو وہ تھک کر بیٹھ گیا، جب حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نماز سے فارغ ہوئے تو اس بوڑھے نے کہا: نماز کے ارکان بقدر کفایت ہی ادا کر لیا کریں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: وہ بات کرو جو تمہیں نفع دے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا: میری عمر ۱۱۰ سال سے کچھ زائد ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس عمر کا کوئی حصہ تمہارے لیے نصیحت بھی بنا ہے، اپنے اوپر غور کرو۔ اس پر اس نے یہ اشعار کہے:

أُحِبُّ النَّوَاتِ فِي مِبَاهِئِ عُرَّتِي وَفِيهِ عَنِ الْأَوَاجِئِ طَنَامِ

مُسْتَرَاتٍ حُبِّ مَظْهَرَاتٍ عَدَاوَةٍ تَوَاضَعٌ كَالْتَضَعُ وَهْنٌ صِحَاخٌ

**ترجمہ:** مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جن کی آنکھوں میں چمک ہو اور اپنے خاوند سے دوری برتیں، محبت دل میں چھپائیں اور ناگواری کا اظہار کریں، وہ تمہیں مریض دکھائی دیں گی حالانکہ وہ تندرست ہوں گی۔

حضرت سیّدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کیا تمہارے لئے اسی کام میں فضیلت ہے؟ اس نے کہا: بخدا! تمہارے بھائی نے 40 دن سے تو کوئی حرکت نہیں کی مگر یہ کہ وہ ایک جھاگ بھینکنا سمندر ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت سیّدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مسکرا نے لگے اور فرمایا: اشعار اچھے بھی ہیں اور برے بھی اور یہی عرب کا دیوان ہیں۔

﴿10453﴾... حضرت سیّدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

وَلَمْ أَرْ كَالْذَّيَا بِهَا اغْتَرَّ أَهْلُهَا وَلَا كَالْعَيْنِ اسْتَوَحَّشَ الذَّهْرَ صَاحِبُهُ

وَلَا كَالْعَيْنِ يَغْشَى السَّيِّئُ عِبَادَهُ مِنَ النُّوْتِ خَافَ الْيُؤُسُ أَوْ نَاوَدَ هَارِبُهُ

**ترجمہ:** (۱)... اور میں نے دنیا جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے چاہنے والے اُس سے دھوکا کھاتے ہوں اور نہ ایسا یقین دیکھا کہ یقین والا زمانے سے وحشت زدہ ہو۔ (۲)... اور نہ ہی یہ دیکھا کہ بادشاہ غلاموں سے ڈرتا ہو، غربت سے ڈرتا یا اس سے بچاؤ کرنے والے کا غافل ہونا بھی موت ہے۔

## مریض مریض کی عیادت کیسے کرے؟

﴿10454﴾... ابو ولید صَدِیقِی کا بیان ہے کہ ہم حضرت سیّدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آئے تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نماز پڑھ رہے تھے، جب انہیں ہماری موجودگی کا احساس ہوا تو نماز مختصر کر کے ہماری جانب متوجہ ہوئے اور یہ شعر کہنے لگے:

أَلَا تِلْكَ عِرْقٌ قَدْ اغْرَضَتْ تَرَفُّعُ دُونَ طَرَفًا غَضِيضًا

تَقُولُ مَرِيضٌ فَمَا عُدَّتْنَا وَكَيْفَ يَعُودُ مَرِيضٌ مَرِيضًا؟

**ترجمہ:** کیا وہ دھوکا کھاتے ہیں جو تم نے کیا؟ میرے سواہر ایک کو بھٹکے بچے لے اٹھا کر بھی دیکھ لیا اور شکوہ کرتے ہو کہ میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہ کی، مریض مریض کی عیادت کیسے کر سکتا ہے؟



﴿10455﴾... حضرت سیدنا سعد بن صلت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک سپاہی کو کسی پر ظلم کرتے دیکھا تو گھر کی چھت پر گئے جا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے اللہ کے بندے! تو ظالم ہے۔ سپاہی نے کہا: اگر سچے ہو تو نیچے آؤ ذرا۔

### خود داری:

﴿10456﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ میرے پاس آئے اور ایک شخص کے بارے میں کلام کرنے لگے جسے میں حدیث بیان کرتا تھا، میں نے کہا: ابو سلمہ! آپ کسی کو ہمارے پاس بھیج دیتے۔ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حاجت تو ہمیں تھی (پھر کسی اور کو کیوں بھیجے)۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس تھا، آپ نے ایک شخص کو اعلیٰ قسم کا عمدہ لباس پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا تم اصحاب حدیث میں سے ہو۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: جو حدیث طلب کرنے والا ہو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔

### حجام کی خدمت بلا عوض نہ لی:

﴿10457﴾... نجید حجام کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اوپری منزل سے میرے پاس آتے، ان کے پاس پانی سے بھری چھوٹی صراحی اور روٹی ہوتی، آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے: اے نجید! اس روٹی کے بدلے میرے بال کاٹ دو، مونچھیں تراش دو، واڑھی کا خط بنا دو، گدڑی صاف کر دو اور پچھنے بھی لگا دو۔ تو میں کہتا: ابو سلمہ! اس روٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے: کیوں نہیں، کیا تم میری بات مانتے ہو یا نہیں؟ میں کہتا: ٹھیک ہے، پھر میں روٹی لے لیتا اور آپ کے بال کترتا، مونچھیں تراشتا، گدڑی صاف کرتا، واڑھی کا خط بناتا اور پچھنے بھی لگاتا۔ بعد فراغت آپ فرماتے: یہ صراحی مجھ پر انڈیل دو پھر وہ اپنے پچھنے والی جگہ دھو کر چلے جاتے۔

﴿10458﴾... حضرت سیدنا ابو نعیم آخول رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب ہم حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا جنازہ لے کر چلے تو سر راہ میں نے خود پسندی میں مبتلا ہو کر کہا کہ لوگ میرے پاس آکر حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی احادیث کا سوال کیا کریں گے، جب قبر تک پہنچا تو حضرت سیدنا

محمد بن بشر غبذی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ میرے پاس آکر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی ایسی سترہ روایات بیان کیں جن میں سے سوائے ایک کے میں نے کوئی روایت نہیں سنی تھی، (اور وہ روایت یہ ہے:)

حضرت سیدنا عروہ بن رُزَیْہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے روایت ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جنات نے فوج کیا تھا۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ حدیث میرے رجسٹروں میں موجود تھی مگر مٹ چکی تھی لہذا میں نے اسے حدیث مسعر میں شامل نہ کیا پھر میں جنازے سے پیر و کار بن کے لوٹا گویا مرغ نے مجھے ٹھونگ مار دی ہے۔

## سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مرویات

حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بڑے بڑے تابعین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات لی ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جن کا نام پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نام کے موافق ہے وہ حضرت سیدنا ابو عون محمد بن عبد اللہ ثقفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا جابر بن سترہ اور حضرت سیدنا محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احادیث روایت کی ہیں۔

## فضیلت عثمان بن عفان عَلَی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

﴿10459﴾... حضرت سیدنا محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ابھی میرے والد آئیں گے وہ تمہیں بتائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ تشریف لائے اور ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا: اَمُّوْا وَاَعِمُّوْا الصَّلٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا اَمُّوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسِنُوْا وَاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿١﴾ (پ، ۷، المائدہ: ۹۳)

ترجمہ کنزالایمان: ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

﴿10460﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن شہزاد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: شراب کم ہو یا زیادہ اصلاً حرام ہے اور ہر نشہ آور مشروب بھی۔

## میدانِ جنگ میں فرشتے:

﴿10461﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم سے روایت ہے کہ رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ بدر کے دن مجھ سے اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ایک کی دائیں جانب جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَام اور دوسرے کی دائیں جانب میکائیل عَلَیْہِ السَّلَام تھے اور ایک بہت بڑے فرشتے اسرافیل عَلَیْہِ السَّلَام بھی جنگ میں شریک اور صف میں موجود تھے۔“ (۱)

## والدین کا حق:

﴿10462﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکارِ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں جہاد کی اجازت لینے حاضر ہوا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے استفسار فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ان کی خدمت میں رہو (۲)۔“ (۳)

**پورا رمضان باجماعت نماز کی فضیلت:**

﴿10463﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُفُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے رمضان المبارک کے شروع سے آخر تک باجماعت نمازیں ادا کیں

①...مسند البزار، وھاروی ابو صالح الحنفی، عن علی بن ابی طالب، ۳۰۳/۲، حدیث: ۷۲۹

②...مفسر شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدُ مَرَاۃُ الْمُنَاجِح، جلد 5، صفحہ 340 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: غالب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو اس کی خدمت کی حاجت تھی۔ وہ اکیلا بیٹا خدمت گار تھا اور جہاد اس وقت فرض عین نہ تھا فرض کفایہ تھا، ایسی صورت میں ماں باپ کی خدمت جہاد پر مقدم ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو جہاد مقدم ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نقلی جہاد کے لیے بغیر والدین کی اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر جہاد فرض ہو تو بہتر ہے کہ ان سے اجازت لے لے لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں تو بھی چلا جاوے۔ اگر وہ منع کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے یہ حکم مؤمن والدین کے لیے ہے۔ کافر ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں خواہ جہاد فرض ہو یا نقل۔ خیال رہے کہ مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی نقلی عبادت کے لیے نہ جاوے جیسے نقلی حج، نقلی عمرہ، زیارت وغیرہ حتیٰ کہ اگر مسلمان ماں باپ اجازت نہ دیں نقلی روزہ بھی نہ رکھے۔

③...بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الجہاد باذن الابویں، ۳۱۰/۲، حدیث: ۳۰۰۳، عن عبد اللہ بن عمرو، بتغییر

اس نے شبِ قدر سے اپنا حصہ پالیا۔“<sup>(۱)</sup>

﴿10464﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہانکتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”اس پر سوار ہو جاؤ۔“ اس نے عرض کی: ”یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”افسوس ہے تم پر! ارے سوار ہو جاؤ۔“<sup>(۲)</sup>

## گوشت کا بہترین حصہ:

﴿10465-66﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بہترین گوشت یا (فریانا): پاکیزہ گوشت پیٹھ کا گوشت ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10467﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھالتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا سر کٹے کا سر کر دے؟

﴿10468﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لیے ایک برتن میں نمینہ بنائی جاتی تھی۔<sup>(۵)</sup>

﴿10469﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور رحمتِ عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سفر میں مرنے والا شہید ہے۔<sup>(۶)</sup>

## غیب دان نبی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم:

﴿10470﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نبی غیب دان صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (مُزَوَّلَہ سے) انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ روانہ ہوئے اور لوگوں کو بھی سکون کا حکم دیا اور وادیِ محسّر میں

①... تاریخ بغداد، ۳/۱۲، رقم: ۲۰۴۹۰، احمد بن الحسن بن محمد، بقیہ قلیل

②... قربانی کے جانور پر مجبور اور ضرورۃً سوار ہونا جائز، بلا ضرورت منع ہے۔ (ماخوذ از مراثی النبی، ۴/۱۶۰)

③... بخاری، کتاب الاطعمہ، باب ما جاء فی قول الرجل: ویلک، ۴/۱۲۲، حدیث: ۶۱۵۹

④... ابن ماجہ، کتاب الاطعمہ، باب اطایب اللحم، ۴/۳۰۸، حدیث: ۳۳۰۸، شعب الایمان، اکل اللحم، ۵/۸۹، حدیث: ۵۸۹۱

⑤... مسلم، کتاب الاشربة، باب البقی عن الانتیابی فی الزفت... الخ، ص ۱۱۰۶، حدیث: ۱۹۹۹

⑥... الکامل لابن عدی، ۵/۳۶۵، رقم: ۱۰۲۵، عبد اللہ بن محمد بن الغیرۃ

سواری کو تیز کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے رمی کریں اور فرمایا: تم لوگ مناسک حج سیکھ لو شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کروں۔<sup>(۱)</sup>

### سجدے کا سنت طریقہ:

﴿10471﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سجدے میں اپنے ہاتھ و راندے کی طرح نہ بچھاؤ اور اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگا کر اپنے بازو پہلوؤں سے جدا رکھو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ہر عضو نے سجدہ کر لیا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10472﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کون سی چیز میرے لئے قرآن جیسے ثواب کا ذریعہ ہے؟ ارشاد فرمایا: ”مُتَحَنِّنُ اللَّهِ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یعنی اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بڑا ہے۔“ اس شخص نے عرض کی: یہ تو اللہ عزوجل کے لئے (حمد و ثناء) ہے، میرے لئے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہا کرو: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي“ یعنی اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت اور عافیت نصیب فرما۔<sup>(۳)</sup>

### بہترین بندے:

﴿10473﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج اور نئے و پرانے چاند پر اللہ عزوجل کی یاد کے لیے نظر رکھتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10474﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم، نورِ مجسم

۱... نسائی، کتاب مناسک الحج، باب الركوب الى الجمار واستغلال الحرم، ص ۳۹۷، حدیث: ۳۰۵۹

سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الحج، باب الامر بالسكينة، ۳۲۵/۲، حدیث: ۳۰۱۶

۲... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود والتهنئة... إلخ، ۳۲۵/۱، حدیث: ۶۳۵

۳... مسند امام احمد، بقیة حدیث عبد اللہ بن ابی اوفیٰ، ۵۲/۷، حدیث: ۱۹۱۵۹

۴... سنن کبریٰ للبيهقي، کتاب الصلاة، باب مراعاة أدلة المواقيت، ۵۵۸/۱، حدیث: ۱۷۸۱

مَنْ اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جب سائے ڈھلنے لگیں اور ہوائیں چلنے لگیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرو کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کا وقت ہے (جن کے متعلق ارشاد فرمایا):

﴿فَاِنَّهٗ كَانَ لِنَدْوَايِیْنِ عَفْوَ مَرًّا﴾ (پ: ۱۵، ہی: اسرائیل: ۳۵) ترجیحہ کنز الایمان: توبہ شک و توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔<sup>(۱)</sup>  
 ﴿10475﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، پھر آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات کا حق زوجیت ادا کیا اور پھر حالتِ احرام میں صبح کی۔<sup>(۲)</sup>

## غیر نافع علم کی مثال:

﴿10476﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس علم سے نفع نہ اٹھایا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جسے راہِ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

## جنت واجب کرنے والا عمل:

﴿10477﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شَفِیْعُ الْمُذْنِبِیْنَ، رَحْمَۃُ لِلْعٰلَمِیْنَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کا جنازہ ۱۰۰ مسلمان پڑھیں اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔<sup>(۴)</sup>  
 حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَیْسَی سُنَد سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازے کی تعریف کی گئی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: (جنت) واجب ہو گئی، تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے گواہ ہو۔<sup>(۵)</sup>  
 ﴿10478-79﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو غلے کی تجارت کرتا

①... شعب الایمان، باب فی الصلوٰات، فضل الاذان والاقامة، ۱۲۳/۳، حدیث: ۳۰۷۳، سن علی

②... معجم اوسط، ۸۳/۱، حدیث: ۲۳۷

③... تاریخ ابن عساکر، ۶۸/۲، رقم: ۳۱۸۰، حدیث: ۵۷۷۵، عبد اللہ بن ابی ابراہیم بن یوسف

④... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فیمن صلی علیہ جماعۃ من المسلمین، ۲/۲۱۳، حدیث: ۱۳۸۸، بخاری

⑤... مستد امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳/۳۹۳، حدیث: ۱۲۰۳۸، بخاری

ہو، اس کے علاوہ کوئی تجارت نہ کرے تو غلطی کرے گا یا ظلم کرے گا۔<sup>(۱)</sup>

## آخرت کے مقابلے میں دنیا:

﴿10480﴾... حضرت سیدنا مسثور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے؟<sup>(۲)</sup>

## سیدنا عی بن حاتم رضی اللہ عنہ:

﴿10481﴾... حضرت سیدنا عی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر عرض کی: ”امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں، تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کافر تھے، تم نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے پیٹھ پھیر لی تھی اور تم نے اس وقت وفا کی جب لوگوں نے بے وفائی کی۔“ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ”خدا تم کو سلامت اور خوش رکھے تم اسلام لائے جب لوگ کافر تھے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿10482﴾... حضرت سیدنا قحط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ناک میں پانی چڑھاؤ تو مبالغہ کرو مگر روزے میں ایسا نہیں کرنا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10483﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا: اے فلاں! تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہ یعنی میں اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں نے اسی لئے تمہارا حال پوچھا تھا۔

حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں خیر خیریت معلوم کرتے رہتے تھے حالانکہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے ہوتے تھے۔

① شرح السنة، کتاب البیوع، باب الاحتکار، ۳/۳۳۳، تحت الحديث: ۲۱۲۱

②... البعث والنشور للبيهقي، باب قول الله عزوجل: يوم يأت لا تملك... الخ، ص ۳۳۳، حديث: ۶۰۷

③... مسند البزار، وماروى عمرو بن شرحبيل عن عمر، ۱/۲۶۹، حديث: ۳۲۶

④... مسند امام احمد، حديث لقيط بن صبرة، ۵/۵۱۷، حديث: ۱۶۳۸۰

## بیمار کے لیے وظیفہ نبوی:

﴿10484﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیمار بیٹے ”صالح“ کے پاس آکر فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْحَنِي اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِّي اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ لِعَنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں جو علم و بزرگی والا ہے، اللہ عزوجل پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ! مجھ پر رحم فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے میرے چچا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثر اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سکھائے اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے۔

﴿10485﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیدائے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كُلُّ مُسْكِي حَرٍّ أَلْعَنَ بِرِئْشَةٍ أَوْ رِئْشَةٍ حَرَامٍ ہے۔<sup>(۱)</sup>

کبھی عہدہ نہ مانگنا:

﴿10486﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمن! کبھی منصب طلب نہ کرنا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10487﴾... حضرت سیدنا قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا فَتَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِينَكُمْ یعنی جب اہل شام خراب ہو گئے تو تم میں کوئی خیر نہ ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

## ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے:

﴿10488﴾... حضرت سیدنا ابو رُمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس گھر (بیت اللہ) کے سامنے میں تشریف فرما تھے، اس وقت آپ

①... ابن ماجہ، کتاب الاشریۃ، باب ما اسکر کثیراً وقلیلہ حرام، ۶۹/۴، حدیث: ۳۳۹۳

②... بخاری، کتاب الايمان والادب، باب قول اللہ تعالیٰ، ۲۸۱/۳، حدیث: ۶۶۲۲

③... مسند امام احمد، حدیث معاویہ بن قرقہ، ۳۰۵/۵، حدیث: ۱۵۹۶۶



کی مبارک زلفیں کانوں کی لو کو چھو رہی تھیں، آپ نے دو سبز چادریں پہنی ہوئی تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا: کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ والد صاحب نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: تمہارے جرم میں اس کی اور اس کے جرم میں تمہاری پکڑ نہ ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے میرے والد کے ساتھ میری مشابہت دیکھی تو خوش ہو کر مسکرانے لگے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10489﴾... حضرت سیدنا انس، بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرور کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک قربانی کے اونٹ کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک یا چلانے والے سے ارشاد فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی: یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ ارشاد فرمایا: افسوس ہے تم پر! ارے سوار ہو جاؤ۔<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

## اولیاء اللہ کی پہچان:

﴿10490﴾... حضرت سیدنا ابو سعید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں عرض کی گئی: ”اولیاء اللہ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ جنہیں دیکھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ یاد آ جائے۔“<sup>(۴)</sup>

﴿10491﴾... بنو عذرہ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس نے حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرِہَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ الکَرِہِم کو حج و عمرے کا ایک ساتھ تعبیر کہتے ہوئے سنا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بلکیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: کیا حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرِہَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حج و عمرہ کے لئے طوافِ وسعی دو دو مرتبہ کی تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرِہَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔

①... ابو داؤد، کتاب الدیات، باب لا یؤخذ احد... الخ، ۲۲۳/۳، حدیث: ۳۴۹۵، بیقہر

②... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تو مجبور ہو جائے تو ہدیٰ پر معروف طریقے پر سوار ہو، جب تک دو سری سوار ہی نہ ملے۔ (مسلم، کتاب الحج، باب جواز رکوب البدنة... الخ، ص ۹۸۸، حدیث: ۱۳۲۳)۔ ہدیٰ کے جانور پر بلا ضرورت سوار نہیں ہو سکتا نہ اس پر سامان لاد سکتا ہے اگرچہ نفل ہو اور ضرورت کے وقت سوار ہو یا سامان لاد اور اس کی وجہ سے اس میں کچھ نقصان آیا تو اتنا محتاجوں پر تصدق کرے۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۲۱۳)

③... بخاری، کتاب الوصایا، باب ہل یقتضی الوقف بوقفہ، ۲۳۸/۲، حدیث: ۲۷۵۳

④... مسند البزار، مسند ابن عباس، ۲۵۱/۱۱، حدیث: ۵۰۳۳، عن ابن عباس

## امام نماز مختصر پڑھاتے:

﴿10492﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ مختصر و مکمل نماز پڑھانے والے تھے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10493﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم (نماز میں) رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دعا کرتے سنا: رَبِّ قِنِّیْ عَذَابَ اَیَّامِ یَوْمِ تَبْعَثُ عِبَادَکَ یعنی اے میرے پروردگار! تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ محبوب خدا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دائیں جانب والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔  
﴿10494﴾... حضرت سیدنا ابن مَعْقِلٌ مُرْنِیْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت دارین، سرور کوئین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس دو قمیصیں ہوں تو ان میں سے ایک اپنے بھائی کو پہنا دے یا ایک صدقہ کر دے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10495﴾... ابو حمزہ ثمالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا محمد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَنْوَلِیْ سے پوچھا: کیا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ ”رحمت دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک ایک بار وضو کیا۔“ انہوں نے کہا: جی ہاں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10496﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک رات میں اپنی تمام ازواج سے صحبت کے بعد ایک ہی غسل فرماتے۔<sup>(۵)</sup>

①...مسلم، کتاب الصلاة، باب امر الائمة بتخفيف الصلاة في تمام، ص ۳۴۳، حدیث: ۴۶۹

②...مسند امام احمد، حدیث البراء بن عازب، ۴۳۸/۶، حدیث: ۱۸۵۳۶

③...مسند حارث، کتاب الزہد، باب الايفار، ۹۹۹/۲، حدیث: ۱۱۰۴، دون قولہ: اعاد

④...یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں دو یا تین بار دھوئے کا ذکر ہے کیونکہ ایک بار یا دوبار دھونا بیانِ جواز کے لیے ہے اور تین بار دھونا بیانِ استحباب کے لئے۔ بابائی کم ہونے پر ایک دوبارہ اعشاء دھوئے اور پانی کافی ہونے پر تین بار۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/ ۲۸۵)

⑤...مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳۷۰/۳، حدیث: ۱۲۹۲۵

## مل کر کھانے میں احتیاط:

﴿10497﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں: نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ بِالنَّثْرِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ لِيَحْضُرَ نَبِيَّ كَرِيمٍ، رءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا فِيهِمْ وَكُجُورًا فِيهِمْ مَلَأَ كَهَانَهُ مِنْ مَنَعٍ فَرَمَا بِهِ، حَتَّى تَبْكَ سَاحِلُهَا مِنَ الْوَدَاعِ وَالْوَدَاعُ نَظَرٌ فِيهِمْ وَكُجُورٌ فِيهِمْ... ﴿10498﴾ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں غسل کے بعد اپنی زوجہ سے گرمی حاصل کرتا ہوں۔

## تشہد کی تعلیم:

﴿10499﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام کو یوں تشہد سکھایا: ”الشَّحَادَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْكَلَامُ عَلَيْنَا أَهْلُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْكَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِيَحْضُرَ نَبِيَّ كَرِيمٍ، رءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا فِيهِمْ وَكُجُورًا فِيهِمْ مَلَأَ كَهَانَهُ مِنْ مَنَعٍ فَرَمَا بِهِ، حَتَّى تَبْكَ سَاحِلُهَا مِنَ الْوَدَاعِ وَالْوَدَاعُ نَظَرٌ فِيهِمْ وَكُجُورٌ فِيهِمْ... ﴿10500﴾ حضرت سیدنا خضران بن ابان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے وضو کاپانی رکھا کرتا تھا، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کامل وضو کرے جیسا کہ اللہ عزوجل نے اس پر فرض کیا ہے پھر وہ پانچوں نمازیں پڑھے تو یہ نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔“ ﴿10501﴾ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ

## گناہوں کا کفارہ:

﴿10500﴾ حضرت سیدنا خضران بن ابان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے وضو کاپانی رکھا کرتا تھا، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کامل وضو کرے جیسا کہ اللہ عزوجل نے اس پر فرض کیا ہے پھر وہ پانچوں نمازیں پڑھے تو یہ نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔“ ﴿10501﴾ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ

①... بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب القرآن فی الصمر، ۵۴۰/۳، حدیث: ۵۴۳۶

②... مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء والصلاۃ عقبہ، ص ۱۴۳، حدیث: ۴۳۱

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (حج کے موقع پر) مُؤَدِّلَهُ<sup>(۱)</sup> سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔<sup>(۲)</sup>

## خوش نصیب مال دار:

﴿10502﴾... حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے روایت ہے کہ میں ایک رات باہر نکلا تو حضور نبی اکرم، ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دیکھا، میں چاند کی چاندنی میں آپ کے پیچھے چلنے لگا، آپ میری طرف مڑے اور پوچھا: کون ہو؟ میں نے عرض کی: ابو ذر۔ ارشاد فرمایا: بے شک زیادہ مال والے قیامت کے دن کم نیکیوں والے ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھلائی سے نوازا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اور وہ ایسے ایسے خرچ کرتے ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

## توبہ مومن کو مُعْطَر کرے گی:

﴿10503﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، ﷺ رَزَّوَقَتْ رَحِمَہُ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن توبہ کو حسین صورت اور عمدہ خوشبو میں لایا جائے گا، اس کی خوشبو صرف مسلمان ہی سونگھ پائے گا۔ کافر کہے گا: ہائے میری خرابی! تیرے پاس وہ آئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عمدہ خوشبو آ رہی ہے جبکہ ہمیں نہیں آ رہی۔ توبہ ان کافروں کو مخاطب کر کے کہے گی: اگر تم دنیا میں مجھے قبول کر لیتے تو آج میں تمہیں معطر کر دیتی۔ کافر کہے گا: میں تجھے ابھی قبول کرتا ہوں۔ اس وقت آسمان سے فرشتہ نداوے گا: اگر تم ساری دنیا، تمام سونا چاندی اور دنیا کی ہر چیز پیش کر دو تب بھی تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر توبہ ان سے دور ہو جائے گی اور فرشتے بھی ان سے دور ہو جائیں گے پھر ان کے پاس جہنم پر مامور فرشتے آئیں گے اور جس میں عمدہ خوشبو پائیں گے اسے چھوڑ دیں گے اور جس میں نہ پائیں گے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔<sup>(۴)</sup>

①... مُؤَدِّلَهُ ”مٹی“ سے عرقات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان ہے۔ (فتح الرحمن، ص ۶۶)

②... سنن کبیری للبیہقی، کتاب الحج، باب الدخ من المزدلفۃ قبل طلوع الشمس، ۲۰۳/۵، حدیث: ۹۵۲۰

③... مسلم، کتاب الزکاة، باب الخیر غیب فی صدقۃ، ص ۷۹، حدیث: ۹۳

④... الموضوعات لابن جوزی، ۱۱۹/۳

## والدین کی خدمت جہاد ہے:

﴿10504﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت لینے آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟“ اس نے عرض کی: ”جی ہاں۔“ ارشاد فرمایا: ”تمہارا جہاد ان کی خدمت میں ہے۔“<sup>(۱)</sup>

﴿10505﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقائے دو جہان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رات کی نماز دو رکعتیں ہیں<sup>(۲)</sup> اور اگر تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو (دو رکعتوں کے ساتھ ملا کر) ایک رکعت اور پڑھ لو (جو اس نماز کو طاق بنا دے گی)۔“<sup>(۳)</sup>

## ایک دعائے نبوی:

﴿10506﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رضوٰۃ ربہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں یوں کہا کرتے تھے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّتَ اَمِنْ فَضْلِكَ وَلَا تَخْرُ مِنْ اَرْضِكَ وَلَا تَرْفُقُ مَنَا وَلَا تَرْفُقُ مَنَا وَاجْعَلْ عَنَانًا فِيْ اَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيْ عَيْنِكَ“ یعنی اے اللہ عزوجل! ہمیں اپنا فضل عطا فرما، ہمیں اپنی عطائے محروم نہ کرنا اور جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں دل کی تو نگری اور جو تیرے پاس ہے اس کا شوق عطا فرما۔“<sup>(۴)</sup>

﴿10507﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو رضائے الہی کی خاطر حج کے لیے نکلا اللہ عزوجل اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور جس کے لیے وہ دعا کرے اس کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔“<sup>(۵)</sup>

①... معجم اوسط، ۸/۲، حدیث: ۲۳۱۰، عن عبد اللہ بن عمر

②... یعنی بہتر یہ ہے کہ نماز تہجد دو رکعتیں پڑھے، چار یا زیادہ کی نیت نہ بنائے۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۶۹)

③... اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک رکعت دو رکعتوں کے ساتھ پڑھے یہ ایک رکعت تمام نماز کو طاق بنا دے گی یہ مطلب نہیں کہ علیحدہ ایک رکعت پڑھے۔ یہاں وتر نفویٰ معنی میں ہے یعنی ساری تہجد کو وتر طاق بنانے والی وہ ایک رکعت ہے جو دو کے ساتھ ملا دی جائے یہ مطلب نہیں کہ وتر ایک ہی رکعت ہو جاتی ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۶۹، مستطاب)

④... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب صلاۃ اللیل مثنیٰ... الخ، ص ۷۷، حدیث: ۷۹۷

⑤... مسند الفردوس، ۱/۳۸۲، حدیث: ۱۹۷۲

⑥... بشارۃ المحبوب بتکفیر الذنوب، الحجاج لہل المغفرة والرحمة، ص ۴۵، حدیث: ۱۱۶

## تبرک کا احترام:

﴿10508﴾... حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت وادی بطحا تشریف لے گئے، پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا۔ لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے اوپر ملنے لگے پھر آپ نے ظہر اور عصر کی دو دور کعتیں پڑھیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿10509﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صبح سے سواری کو درمیانی رفتار سے ہی چلتے دیکھا یہاں تک کہ منی پہنچ گئے۔

## نماز میں شک ہو تو کیا کیا جائے؟

﴿10510﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا، بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو درستی تلاش کرے پھر دو سجدے (سہو) کے کرے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10511﴾... حضرت سیدنا قطیبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے متعلق کوئی بات کہی تو حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوت شدہ لوگوں کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے تو پھر تم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے متعلق غلط بات کیوں کہتے ہو جبکہ وہ وصال فرما چکے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## شفاعت سے عرومی:

﴿10512﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم

①... بخاری، کتاب الرضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، ۸۸/۱، حدیث: ۱۸۷

②... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة، باب ما جاء فیہ من شک فی صلاتہ فتحرى الصواب، ۶۵/۲، حدیث: ۱۲۱۲

③... مسند عبد اللہ بن المبارک، باب من الفتن، ص ۱۵۶، حدیث: ۲۵۳

مَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد (مَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْکَ وَسَلَّم) ! شفاعت کر کے اپنے جس امتی کو چاہو جہنم سے نکال لو۔ پس اس دن میری شفاعت اس شخص پر حرام ہوگی جو اللہ عزّوجلّ سے اس حال میں ملا کہ اس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی ہو۔<sup>(۱)</sup>

### پانچویں نہ بننا:

﴿10513﴾... حضرت سیدنا ابوبکرؓ نے تَفَنُّع بن حارث رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ سَيِّدُ الْمُرْسَلِیْنَ، رَحْمَةُ الرَّحْمٰلِیْنَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ولّٰثْنِیْن ہے: اس حال میں صبح کرو کہ عالم ہو یا طالب علم ہو یا بات کو غور سے سننے والے ہو یا علم سے محبت کرنے والے ہو پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: آپ نے ہمیں جو پانچواں بتایا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں۔ حضرت سیدنا عطاء رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: پانچواں وہ ہے جو علم و علما سے بغض رکھے۔

### نمازِ چاشت کی فضیلت:

﴿10514﴾... حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے پھر چاشت کی دو رکعت نماز پڑھے تو اس کے لئے پورے حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

﴿10515﴾... حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہِ رسالت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے ہر مسلمان کو نصیحت کرنے کا پابند کیا، لہذا میں تم سب کے لئے ناصح ہوں۔<sup>(۳)</sup>

### بڑائیوں سے حفاظت کی دعا:

﴿10516﴾... زیاد بن علاقہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ رَسُوْلِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

... تخریج نہیں ٹائی۔

①... معجم صغیر، جزء ۲، ص ۹، حدیث: ۷۸۷

②... مسند امام احمد، حدیث جریر بن عبد اللہ، ۷/۷۳، حدیث: ۱۹۲۷۸

دعائیں یہ کلمات کہا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَقْدَاءِ یعنی اے اللہ عزوجل مجھے بُرے اخلاق، بُری خواہشات اور بُرے امراض سے محفوظ فرما۔<sup>(۱)</sup>

﴿10517﴾... حضرت سیدنا قطبہ بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فجر کی نماز میں یہ تلاوت کی:

وَالْحَلَّ بِسَبِّ لَهَا طَعْمٌ قَبِيْذٌ ۝  
(پ: ۲۶، ق: ۱۰)  
(پکا ہوا تڑپھل)۔

﴿10518﴾... حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیبِ لیب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِیْ اِلٰی نَفْسٍ طَرَفَۃَ عَیْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنْیْ صَاحِبَ مَا اَعْطَیْتَنِ اِذَا اَعْطَیْتَہُ فَاِنَّہٗ لَا یَاْزِیْ لَنَا اَعْطَیْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ یعنی الہی ایک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، جب تو مجھے کوئی بھلائی عطا فرمائے تو پھر اس عطا سے مجھے محروم نہ کرنا کیونکہ جو تو دے اے کوئی روک نہیں سکتا اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہ دے گی۔<sup>(۲)</sup>

﴿10519﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن یزید انصاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مُعَلِّمِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں کسی سے پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو وہ شک نہ کرے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10520﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

وَ اٰتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّہٖ (۲، البقرہ: ۱۷۷)  
پھر ارشاد فرمایا: مال خرچ کرو خواہ تندرست ہو اور زندگی کی امید ہو خواہ مال خرچ نہ کرنے والے ہو اور فقر و فاقہ کا ڈر ہو۔

## افضل نماز کون سی ہے؟

﴿10521-22﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: فَضْلُ صَلَٰۃِ النَّیْلِ عَلٰی صَلَٰۃِ النَّہَارِ

①... معجم کبیر، ۱۹/۱۹، حدیث: ۳۶

②... المنقذ والغرق، ۱۶۵۹/۳، حدیث: ۱۱۳۶، رقم: ۱۰۱۹، والعباس بن مرداس الاصبہانی

③... مجمع الزوائد، کتاب الامان، باب فی الاسلام والامان، ۳۱۶/۱، حدیث: ۱۷۴



كَفُّسَلِّ صَدَقَةِ النَّبِيِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَاءِيَّةِ یعنی رات کی نماز کو دن کی نماز پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی پوشیدہ صدقے کو علانیہ صدقے پر ہے۔

## خوف خدا کا حق:

﴿24-10523﴾... فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (پ: ۴، آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، رسولِ مَحْتَشَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے بھلایا نہ جائے اور اس کا شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے۔<sup>(۱)</sup>

## فضل و رحمت کا سوال:

﴿10525﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے کسی کو ازواجِ مطہرات کے پاس کھانا لینے بھیجا۔ اس نے کسی کے پاس کچھ نہ پایا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بارگاہِ الہی میں دعا کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔“ اتنے میں بھی ہوئی بکری بارگاہِ رسالت میں تحفہ پیش کی گئی۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل ہے اور اس کی رحمت کا ابھی ہمیں انتظار ہے۔“

﴿10526﴾... حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں: میں حضور نبی کریم، رَزَوْدَفِ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو انتہائے سحر کے وقت اپنے پاس آرام کرتے پاتی تھی۔

﴿10527﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پیلو کے پھل کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا: ان میں سے کالے کالے چُنو جب میں بکریاں چراتا تھا تو اسے توڑتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کیا آپ بکریاں چراتے تھے؟ ارشاد فرمایا: ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿10528﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہم پیلو کے پھل توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان میں سے کالے کالے کھن کو (پھر پچھلی روایت کے مثل ذکر کیا)۔<sup>(۲)</sup>

﴿10529﴾... حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے: ”میں نے جو بھی نماز پڑھی، اس امید پر پڑھی کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔“

### سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوف خدا:

﴿10530﴾... حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ کو سجدوں میں یہ دعا کرتے سنا: ”رَبِّ بِنَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا فَلَنْ أَكُونَ ظَلِيلاً لِّأَلْمُحْمِمْذِينَ“ یعنی اے میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! تیرے فضل و انعام سے میں مجرموں کا ہرگز مددگار نہ ہوں۔ پھر فرمایا: میں نے جو بھی نماز پڑھی، اس امید پر پڑھی کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔

پھر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے: میرے والد آپ کے والد پر غالب آگئے اس طرح کہ انہوں نے آپ کے والد صاحب سے فرمایا: ابو موسیٰ! کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی معیت میں کیے ہوئے عمل کے سبب برابری کے طور پر جھوٹ جاؤ اس طرح کہ نہ تمہیں ان اعمال کا کوئی فائدہ ہو نہ نقصان؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: نہیں، میں نے تو قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل برابری کے طور پر مجھے چھٹکارا دلادے، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا: آپ کے والد میرے والد سے زیادہ سمجھدار ہیں۔

①...طبقات ابن سعد، ذکر ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العتم، بمكة، ۱/۱۰۱

②...طبقات ابن سعد، ذكر ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العتم، بمكة، ۱/۱۰۱

﴿10531﴾... اُنم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ ”تم ضرور جان جاؤ گے کہ افضل عبادت انکساری و تواضع ہے۔“

### والد کو پانی پلانے کا اجر:

﴿10532﴾... (الف) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ نبی رحمت، ساقی کوثر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا اللہ عَزَّوَجَلَّ بروز قیامت اسے آبِ کوثر سے 70 مرتبہ پلائے گا۔<sup>(۱)</sup>

### تسبیح چھوڑنے کا نقصان:

﴿10532﴾... (ب) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کسی جانور کا شکار ہونا یا کسی درخت کا کاٹنا جانا اس کے تسبیح چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10533﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: اپنے دلوں میں ایمان تازہ کرتے رہا کرو، جو حرام میں مبتلا ہو وہ حرام سے حلال کی طرف چلا جائے اور جو احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کا ثواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضلِ کرم پر ہے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتے اس پر دس دس رحمتیں نازل کرتے ہیں اور جو ایسی دعائیں مانگے جس میں گناہ اور قطعِ رحمی نہ ہو تو وہ قبول کر لی جائیں گی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے پر جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے سوائے عورت، غلام، بچے اور مسافر کے۔ جو کسی کھیل یا تجارت کی وجہ سے اس سے غافل رہا اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس کی کوئی پروا نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔<sup>(۳)</sup>

①... جمع الجوامع، ۷/۷۷، حدیث: ۲۲۱۱۰

②... مسند الفردوس، ۳/۳۹، حدیث: ۶۷۰۵، عن عمر بن الخطاب، بغیرِ قلیل

③... تاریخِ اصحابان، ۲/۲۳۲، رقم: ۱۵۳۲، محمد بن اسماعیل بن سلیمان

جمع الجوامع، ۷/۷۷، حدیث: ۲۲۸۷۸

﴿10534﴾... حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک

صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نماز میں صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے تھے جیسے نیزے یا تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10535﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَاللّٰهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَمِنْهُ إِلَّا فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ! میں قریش سے ضرور جہاد کروں گا۔ یہ بات آپ

نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی پھر کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا: اِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَرْبٌ فَلَا تُجَاهِدُوا<sup>(۲)</sup>

## کعبۃ اللہ میں نماز:

﴿10536﴾... حضرت سیدنا مہاک حُفَظِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الَّذِي بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”اس میں نماز

پڑھو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے عنقریب کوئی ایسا آدمی آئے گا جو

تمہیں اس سے منع کرے گا تو تم اس کی بات نہ ماننا۔“ پھر میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عنہما کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: تم پورے کعبے کو سامنے رکھنا اور اس کے کسی بھی

حصے کو اپنے پیچھے نہ رکھنا (یعنی اندر نماز نہ پڑھنا)۔

﴿10537﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے

غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نماز خوف میں ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی پھر دوسرے گروہ کو ایک

رکعت پڑھائی۔

﴿10538﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قِيَامَتٌ قَرِيبٌ أَجْلِي هُوَ اور لوگوں کی حرص دنیا پر بڑھتی چلی جا رہی ہے جبکہ دنیا ان

سے دور ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔<sup>(۳)</sup>

①...مسند امام احمد، مسند الکوفيين، حديث النعمان بن بشير، ۳/۶۸، حديث: ۱۸۴۰۳

②...ابو داود، كتاب الايمان والنذر، باب الاستفتاء في الميمن بعد السكوت، ۳/۱۲، حديث: ۳۲۸۵، عن عكرمة

③...الزهري لابن ابي عاصم، باب ما احب ان لي بر كفي الفجر الدنيا، ص ۱۱۴، حديث: ۲۷۹

## امیر کی اطاعت کرو:

﴿10539﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”جہذا لکیرم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے قریب سے ہوں گے، ان کے نیک لوگ نیک لوگوں کے امیر اور بُرے لوگ بُرے لوگوں کے امیر ہوں گے، ہر ایک کا حق ہے تو تم ہر حق دار کو اس کا حق دینا اور اگر تم پر کان اور ناک کٹنا کوئی حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات سنا اور اطاعت کرنا جب تک تمہیں اس کے اسلام اور گردن مارنے کے درمیان اختیار مل جائے پس اگر تم میں سے کسی کو اس کے اسلام اور گردن مارنے کے درمیان اختیار ملے تو اسے چاہئے کہ اس کی گردن اڑا دے۔ اس کی ماں اس پر روئے! اسلام رخصت ہو جانے کے بعد اس کی دنیا ہے نہ آخرت۔“ (۱)

## قرض اچھی طرح ادا کیجئے:

﴿10540﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ (۲)

﴿10541﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی اور ہم حضور کے سامنے ٹنڈی کھاتے تھے۔ (۳)

## ادنیٰ مسلمان بھی ذمہ دے سکتا ہے:

﴿10542﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تمہارے قریب سے مروی ہے کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے کہ ایک ادنیٰ مسلمان بھی ذمہ دے سکتا ہے جو کسی مسلمان کی عہد شکنی کرے اس پر اللہ عزوجل، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کے قرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ (۴)

①... معجم اوسط، ۳۵۳/۲، حدیث: ۳۵۲۱

②... بخاری، کتاب الوکالة، باب وكالة الشاهد والعاب جائز، ۸۰/۲، حدیث: ۳۳۰۵

③... ٹنڈی حلال ہے حضور کے سامنے صحابہ کرام نے کھائی ہے مگر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کبھی نہ کھائی بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے میں نے اسے کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں، ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ خشکی کے بے خون جانور سارے حرام سوا ٹنڈی کے۔ (مرآۃ المناجیح، ۵/۶۶۳)

④... بخاری، کتاب الجزیة والمواعظ، باب اثم من عاهد ثم غدر، ۳۷۰/۲، حدیث: ۳۱۷۹

﴿10543﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صور کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

### سب سے زیادہ نفع مند:

﴿10544﴾... حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل پر ایمان لانے کے بعد آدمی کے لیے سب سے بڑا نفع خوش اخلاق، محبت کرنے اور بچے جننے والی بیوی ہے اور اللہ عزوجل کے ساتھ کفر کے بعد آدمی کے لیے بڑا نقصان بد اخلاق اور زبان دراز بیوی ہے۔ کچھ عورتیں اس غنیمت کی طرح ہوتی ہیں جس میں سے کچھ نہ جائے (یعنی مردان سے پورا پورا نفع اٹھاتا ہے) اور کچھ عورتیں اس غلام کی طرح ہوتی ہیں جس سے فدیہ دیا جاتا ہے (یعنی مردان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے)۔<sup>(۲)</sup>

### اہل عرب کی ہلاکت:

﴿10545﴾... حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مرتبہ فرمایا: رب کعبہ کی قسم! میں جانتا ہوں اہل عرب کب ہلاک ہوں گے، اس وقت جب ایسے شخص کو ان کا حاکم بنایا جائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہیں پائی اور نہ ہی دور جاہلیت کے کسی معاملے کا حل نکالا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10546﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا صَلَاحَ لِمَنْ تَغْتَفِ یعنی ادھر ادھر دیکھنے والے کی کوئی نماز (کامل) نہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10547﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، وائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نَبِیْتُ اللہ پر لڑنے سے لشکر کبھی باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ ان میں سے

①... قرمذی، کتاب التفسیر، باب ۴۰، ۱۲۵/۵، حدیث: ۳۴۵۵

②... سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب النکاح، باب استحباب الفروج بالودود والود، ۱۳۲/۷، حدیث: ۱۳۴۷۹

③... شعب الایمان، باب فی التعمسک بما علیہ الجماعة، فصل فی فضل الجماعة، ۶۹/۶، حدیث: ۷۵۲۵

④... معجم صغیر، جزء ۱، ص ۶۳، حدیث: ۷۳۰۷۳، عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ

ایک گروہ کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

## سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی:

﴿10548﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: سرکارِ دو عالم، شفیع اُمم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ﷺ سے زیادہ دلیر، بہادر، سخی اور حسین و جمیل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔

## نمازوں کے بعد کا ایک ورد:

﴿10549﴾... حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ مکتوب بھیجا کہ میں نے محبوبِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ﷺ کو ہر نماز کے بعد یہ کہتے سنا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَأُ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ عزوجل! جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیرے مقابلے پر کسی دولت مند کو دولت نفع نہیں دیتی۔<sup>(۲)</sup>

## فضیلتِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ:

﴿10550﴾... حضرت سیدنا نزال بن سبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ہم نے زندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا اور ہم نے کوئی خطا نہیں کی۔

﴿10551﴾... حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ﷺ نے اندھیری رات کے کلڑوں کی طرح چھا جانے والے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اور لوگ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے جانے لگیں گے۔ کسی نے پوچھا: کیا تمام لوگ ہلاک

①... سنن کبریٰ للسنائی، کتاب الحج، باب حرمة الحرم، ۳۸۵/۲، حدیث: ۳۸۶۱، "قلہ" بدلہ "قلتی"

②... بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلا، ۴۹۳/۱، حدیث: ۸۳۳

ہو جائیں گے؟ فرمایا: ان کے لیے قتل کافی ہو گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10552﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے فرمایا: عراق پر مامور ہمارا ذلیل عامل ہلاک ہو، عراق پر مامور ہمارا ذلیل عامل ہلاک ہو! جس نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں شراب اور خزیروں کی قیمتوں کو شامل کیا حالانکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے کہ اللہ عز وجل یہود پر لعنت فرمائے ان پر چربی حرام کی گئی تو یہ اسے پگھلا کر بیچنے لگے۔<sup>(۲)</sup>

### نوجوان کو نصیحت:

﴿10553﴾... کریم بن یزید قراری کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا: اے میرے بھتیجے! میں تمہیں عمل پر حریص نوجوان دیکھتا ہوں پس تم پاکدامنی کو لازم پکڑ لو عمل تم کو لازم پکڑ لے گا، کم کھاؤ عمل زیادہ کر سکو گے اور رشوت سے بچو کہ جھگڑے کے وقت تمہاری پیٹھ مضبوط رہے گی۔

### عزت و شرف والی خصلت:

﴿10554﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹیوں کی موت (کے بعد تدفین کا عمل) عزت و شرف والے کاموں میں سے ہے۔<sup>(۳)</sup> کجور کھا کے نماز عید کو جانا سنت ہے:

﴿10555﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10556﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①... مسند امام احمد، مسند سعید بن زید، ۴۰۱/۱، حدیث: ۱۶۳۷

②... مسند حمیدی، احادیث عمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۱۵۵/۱، حدیث: ۱۳

③... معجم اوسط، ۶۱۶/۱، حدیث: ۲۲۶۳

④... مستدرک، کتاب صلاة العیدین، ۵۹۲/۱، حدیث: ۱۱۲۸



وَاللَّهُ يَسْتَعِذُّ بِكَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ آخِرُ الْحَقِّ خَالِدٌ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاقِئِ الدَّخَانِ أَنَّهَا آتِيَةٌ فَنَزَلَتْ بِهَا السُّورَةُ الْاٰلِیُّمُ الَّذِیْ اَنْزَلْنَاهَا فِی الْاَوَّلِ وَفِی الْاٰخِرِ وَفِی الْاَوَّلِ وَمَا اَشْبَهَتْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ اِنَّ اللَّهَ اَخِیْرُ الْحَقِّ خَالِدٌ

﴿10557﴾ اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ ثناء کاشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں کہ جب سرکارِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پیمہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے احرام باندھا تو میں نے آپ کو خوشبو لگائی طوافِ کعبہ سے قبل جب آپ نے احرام کھولا اس وقت بھی میں نے آپ کو خوشبو لگائی۔<sup>(1)</sup> -<sup>(2)</sup>

﴿10558﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اُجھٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم، رُؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو عصر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتے دیکھا ہے۔<sup>(4)</sup>

﴿10559﴾... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور صاحب الشّج والعرج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فجر وعصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔<sup>(5)</sup>

شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا:

﴿10560﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔<sup>(6)</sup>

۱...مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقول اذا رفع رأسه من الركوع ۶، ص ۴۲۷، حدیث: ۴۷۶

۲... یعنی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ کے احرام کا ارادہ فرماتے تو میں خوشبو تیار رکھتی، آپ غسل فرما کر بغیر سلعے کپڑے پہن کر خوشبو ملتے، پھر نفل پڑھ کر تلخیص کہتے۔ بقرعید کے دن حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کر کے کچھ حلال ہو جاتا ہے، پھر طواف زیارت کر کے پورا حلال ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی عورت سے صحبت بھی جائز ہو جاتی ہے، فرماتی ہیں کہ میں ناقص حل پر ہی خوشبو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کو لگا دیتی تھی، اس کے بعد آپ زیارت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بحالت احرام خوشبو لگانا حرام ہے مگر احرام سے پہلے کی خوشبو کا ہاتھانترے خواہ خوشبو کا جرم باقی رہے یا نہ۔ (مراۃ الحج، ج ۲/ ۱۰۳، مشکوٰۃ)

③...مسلم. كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. ص ٦٠٤. حديث: 1189

④...ترمذی، کتاب الصلاة، باب ما جاء في الإبريق قبل العصر، ٣٣٤/١، حديث: ٢٢٩.

5... أبو داود، كتاب الطلوع، باب من رخص فيهما إذا... الخ، ٣٤/٢، حديث: ١٢٤٥.

6...مسلم. كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في المنام، ص 1233، حديث: 2266، عن أبي هريرة

## سب سے زیادہ پیاری بات:

﴿10561﴾... حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمیٰ علیہ رحمۃ اللہ النبی سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: جب تمہیں رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اسے سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ باقی رہنے والی اور سب سے پیاری بات سمجھو۔

## سوئے وقت کی دعا:

﴿10562﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رَحْمۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ، شَفِیعُ الْمُنِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جب اپنے بستر پر جاؤ تو کہو: اَللّٰہُمَّ اَسَلَمْتُ وَجْہِیْ اِلَیْکَ لَا مُشْجَا وِیْکَ اِلَّا اِلَیْکَ اَمْسَتْ بِکَ سَیَّابُکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَبَنَیْتُکَ الَّذِیْ اَزْسَلْتُ یعنی الہی! میں تیری جانب متوجہ ہوں، تیرے سوا کوئی نجات کی جگہ نہیں، میں تیری اتاری کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔<sup>(۱)</sup>

## جنگ ایک دھوکا ہے:

﴿10563﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الْحَرْبُ خَدَعَةٌ یعنی جنگ دھوکا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10564﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا، شفیع روز جزا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بچنے لگو یا کرتے تھے اور اجرت دینے میں کسی کی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

## خَيْرُ الْبَرِيَّةِ:

﴿10565﴾... حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (یعنی اے مخلوق میں سب سے بہتر انسان!) کہہ کر پکارا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①... مستند ابن الجعد، من حدیث ابی اسحاق السبعی عن ہیرة بن یریم، ص ۷۸، حدیث: ۲۳۳

②... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الحرب خدعة، ۳۱۸/۲، حدیث: ۳۰۳۰

③... مسلم، کتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحب التداوی، ص ۱۴۱، حدیث: ۱۵۷۷

نے ارشاد فرمایا: یہ میرے والد ابراہیم ہیں<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

﴿10566﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرور کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو اگرچہ 20 درہم میں۔<sup>(۳)</sup>

## دنیا میں جنت کا باغ:

﴿10567﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدنا اُمِّ سلمہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں قائم ہیں اور میری قبر اور میرے منبر کا درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔<sup>(۴)</sup>

## سورۃ ملک کی فضیلت:

﴿10568﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں لکھا ہے: جس نے ہر رات سورۃ ملک پڑھی تو اس کے مال میں اضافہ ہو گا اور وہ خوشحال ہو گا، یہ سورت روکنے والی ہے جو عذابِ قبر کو روکتی ہے، جب مردے کے سر کی جانب سے عذاب آنے لگتا ہے تو اس کا سر کہتا ہے: میری طرف سے ہٹ جا کہ یہ میرے ذریعے سورۃ ملک تلاوت کیا کرتا تھا، جب اس کے پیٹ کی جانب سے عذاب آنے لگتا ہے تو پیٹ کہتا ہے: میری طرف سے ہٹ جا کہ اس نے مجھ میں سورۃ ملک محفوظ کر رکھی ہے اور جب پاؤں کی

①... یعنی لَفْظَ خَيْرِ النَّبِيِّتِ حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام پر سبوتا ہے کہ وہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے ظلیل بھی ہیں اور حضراتِ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کے والد بھی، تعجب بنانے والے بھی، مکہ بنانے والے بھی، میری اصل بھی۔ حضورِ انور (صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کا یہ فرمانِ عالی تو اضعاف میں ورنہ حضور صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیشہ کے لیے خَيْرِ النَّبِيِّتِ ہیں، حضرت ظلیل اپنے زمانہ میں خَيْرِ النَّبِيِّتِ تھے لہذا یہ حدیث اِن احادیث کے خلاف نہیں ”اَنَّا سَيِّدُ الْوَلَدِ اَدَمَ (میں اولادِ آدم کا سردار ہوں) اَدَمُ وَهْنُ سَوَاعِثِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (آدم اور تمام بنی آدم بروز قیامت میرے لواءِ حم کے نیچے ہوں گے)“ وغیرہ کہ اِن احادیث میں واقعہ کا ذکر ہے اور یہاں تو اَضْعُف وَاَعْسَا کا اظہار جیسے کوئی بڑا آدمی اپنے سے ماتحت کا احترام کرے اور کرانے۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/۵۰۵)

②... مسند الزہار، ابراہیم النخعی عن انس، ۵۱/۱۳، حدیث: ۷۳۹۰

③... ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب العبد یسرق، ۳/۲۳۳، حدیث: ۲۵۸۹

④... سنن کبیری للضہالی، کتاب الحج، باب المذبح، ۳۸۸/۳، حدیث: ۴۲۸۷، ۴۲۹۰

جانب سے عذاب آنے لگتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں: ہماری طرف سے ہٹ جاؤ کہ ہم پر کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ سورت تورات شریف میں بھی پونہ لکھی ہوئی ہے۔

﴿10569﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کا بیان سورہ نساء کی ابتدا سے تیسویں آیت کے اختتام تک ہے۔

### رحمت خداوندی:

﴿10570﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم، مگر مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ابن آدم کی نیکی دس گنا ہے اور میں اسے بڑھاتا ہوں جبکہ گناہ ایک ہی ہے اور میں اسے مناتا ہوں اور جو زمین بھر خطاؤں کے ساتھ مجھ سے ملے گا میں اس سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا جب تک وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔<sup>(۱)</sup>

### ظالم حکمرانوں سے کیسا طرزِ عمل رکھیں؟

﴿10571﴾... حضرت سیدنا عتب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شہنشاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم نو افراد تھے جن میں پانچ عربی اور چار عجمی تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب میرے بعد تم پر کچھ حاکم مقرر ہوں گے، جس نے ان کے پاس جا کر ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ میرے حوض پر آئے گا اور جو ان کے پاس نہ گیا اور ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کی اور نہ ہی ان کے ظلم پر ان کی مدد کی تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے تعلق ہے اور وہ میرے حوض پر آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

### قبولیتِ دعا میں جلد بازی کی ممانعت:

﴿10572﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا

①... تاریخ ابن عساکر، ۳۱۸/۱۲، حدیث: ۳۹۶۹، رقم: ۱۲۴۰، حرب بن محمد بن علی بن حبان

②... نسائی، کتاب البیعة، باب ذکر الوعد لمن اعان امیر علی الظلم، ص ۷۸۹، حدیث: ۴۲۱۲

یوں کہہ کر جلد بازی نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔<sup>(۱)</sup>

## تکلیف میں بھی رحمت:

﴿10573﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی مسلمان کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ”میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اس کے لئے ہر دن اور رات میں وہ عمل لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔“<sup>(۲)</sup>

﴿10574﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ ”وَالشَّيْطَانِ وَالزَّيْتُونِ“ کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

﴿10575﴾... ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وراشت میں درہم و دینار چھوڑے نہ کوئی لونڈی غلام۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ”نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ۔“

## والدین کا رتبہ:

﴿10576﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا، وہ اسلام لا چکا تھا، کہنے لگا: میں والدین کو روتا چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِذَا جِئْتَ الْيَتِيمَ فَأَصْحَبْهُمَا كَمَا ابْنَيْتَهُمَا ان کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں ویسے ہی ہنسنا دیکھو نہ لایا ہے۔“ اور آپ نے اسے بیعت نہ فرمایا۔<sup>(۳)</sup>

## جنت و دوزخ نگاہوں کے سامنے:

﴿10577﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت، مالک کو ثرو

①... مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب بیان انہ يستجاب للداعي... الخ، ص ۱۶۳، حدیث: ۲۷۳۵

②... مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو، ۶۳۸/۲، حدیث: ۲۸۸۷

③... ابن حبان، کتاب البر والاحسان، ذکر ما یحب علی المرء من بر الوالدین... الخ، ۳۲۶/۱، حدیث: ۲۲۲

جنت مَلِی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میرے سامنے جنت لائی گئی اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کا کوئی خوش لے لیتا اور میرے سامنے جہنم لایا گیا، میں نے اس میں لاشی والے کو دیکھا جو اپنی لاشی سے حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا وہ جہنم میں اپنی لاشی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا (اگر پکڑا جاتا تو) وہ کہتا: یہ کپڑا میری لاشی میں انک گیا تھا اور میں نے جہنم میں بی بی والی عورت کو دیکھا، جب وہ آگے بڑھتی تو وہی بی بی اسے نوچتی ہے اور اگر پیچھے ہٹی تو پیچھے سے نوچتی۔ اس عورت نے اس بی بی کو قید سے آزاد کیا نہ ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کے لئے چھوڑا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔<sup>(۱)</sup>

﴿10578﴾... حضرت سیدنا حسن بن علی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لیبیب مَلِی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اٰوِلٰی عِلْمِیْ وَ اٰخِرِیْ وَ اَمِنْ رُزْعَتِیْ وَ اَسْتَغْوِرُکَ وَ اَنْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ یَّحِلُّ عَلٰی وَ اَرِیْ فِیْہِ ثَارِیْ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری خطائیں معاف فرما، مجھے خوف سے امن عطا فرما، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس میں مجھے میرا بدلہ دکھا۔<sup>(۲)</sup>

**سیدنا ابو بکر و عمر رَضِیَ اللہ عَنْہُمَا کا جنتی مقام:**

﴿10579﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرورِ دو عالم، کَرِیْمُ مَجِسَّم مَلِی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نیلے درجے والے بلند درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ آسمان کی بلندی میں سرخ ستارے کو دیکھتے ہیں ابو بکر و عمر (رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا) ان ہی بلند درجے والوں میں سے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

**چہرے پر مارنے کی ممانعت:**

﴿10580﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور رحمتِ عالم، نورِ مجسم مَلِی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو تو وہ چہرے پر مارنے سے بچے۔<sup>(۴)</sup>

①... نسائی، کتاب الکسوف، باب الغزو فی السجود فی صلاۃ الکسوف، ص ۲۵۸، حدیث: ۱۳۹۳، جمع الجوامع، ۲۷/۳، حدیث: ۷۰۷۶

②... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب ما کان یسألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۲/۳۳، حدیث: ۹

③... ابن ماجہ، المَدَقَّة، باب فضل ابی بکر الصدیق رَضِیَ اللہ عَنْہُ، ۱/۳۷، حدیث: ۹۶، تاریخ ابن عساکر، ۱۸۶/۳۳، حدیث: ۹۷۲۰

④... مسلم، کتاب البر والصلة، باب النبی عن ضرب الوجه، ص ۱۳۰۸، حدیث: ۲۶۱۲، عن ابی ہریرۃ

﴿10581﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مُعَلِّم کائنات، شاہ موجودات صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے علم دین سیکھنے میں صبح اور شام کی وہ جنتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10582﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ خدا، شاہِ اقیان، صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے جب کسی عورت سے نکاح کیا یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے کیا جو حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَام میرے پاس لے کر آئے۔<sup>(۲)</sup>

### زبانِ رُوحِ اللہ سے تفسیرِ بسمِ اللہ:

﴿10583﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی والدہ نے انہیں مکتب بھیجا تا کہ مُعَلِّم آپ کو تعلیم دے تو اس نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام سے کہا: ”بِسْمِ اللہ“ لکھو۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: ”بِسْمِ اللہ“ کا کیا مطلب ہے؟ معلم نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: با سے مراد بھاءُ اللہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جمال) ہے، سین سے مراد اس کی سناء (یعنی رفعت و بلندی) ہے اور میم سے مراد اس کا ملک (یعنی بادشاہت) ہے جبکہ لفظ ”اللہ“ سے سارے جھوٹے معبودوں کا بھی معبودِ حقیقی مراد ہے۔ الرحمن سے مراد دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا ہے اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔

حروفِ ابجد میں الف سے مراد اَلَّا اللہ (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں) ہیں، جیم سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جمال ہے، دال سے مراد اَوَّلُ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

حروفِ ہَوُز میں حا سے مراد ہَاوِیَہ (یعنی دوزخ کی آگ)، واو سے مراد وَیْلُ لَیْلِی النَّارِ (جہنمیوں کی غربی) ہے اور زاء سے مراد ”زائی“ نامی جہنمی وادی ہے۔

حروفِ فُطَلٰی میں حاء سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ حلیم ہے، طاء سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر حق لے کر اس کے حقدار کو

①... جامع صغیر: ص ۵۳۵، حدیث: ۸۸۷۲

②... الکامل لابن عدی: ۱/۳۹۵، رقم: ۱۲۹، اسماعیل بن یحییٰ بن عبید اللہ التیمی

دینے والا ہے اور یا سے مراد اُمّی اَہْلِ الشَّارِ یعنی جہنمیوں کی درناک آوازیں ہیں۔

حروف کَلَمُن میں کاف سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کافی ہے، لام سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ علیم ہے، میم سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کَلْب (یعنی بادشاہ) ہے اور نون سے مراد ”نَوْنُ الْبَحْرِ“ یعنی (اللہ علم و قدرت کا) سمندر ہے۔

حروف سَعْفُص میں سین سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ سلامتی والا ہے، عین سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ عالم ہے، فاء سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ فرد (یعنی اکیلا) ہے اور صاد سے مراد ہے اَللّٰهُ الْعَصَدُ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ بے نیاز) ہے۔

حروف فَرْشَت میں قاف سے مراد وہ پہاڑ ہے جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور اس سے آسمان سر سبز و شاداب ہیں، را سے مراد لوگوں کا اسے دیکھنا ہے اور شین سے مراد ”شَیْنُ اللّٰهِ“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت ہے اور تا سے مراد تَشَتَّ اَیْہَا (دنیا کا لازمی طور پر ختم ہونا) ہے۔<sup>(۱)</sup>

## انجانی نیکی کا صلہ:

﴿85-10584﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار، غیبوں پر خبردار باذن پروردگار صَیِّ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ پر بے جا خرچ کیا کرتا تھا حالانکہ وہ ایک مسلمان تھا، جب وہ کھانا کھا لیتا تو اپنا بچا کچھا کھانا کوڑے دان میں پھینک دیا کرتا تھا، ایک عابد وہاں آتا تھا اگر اسے روٹی کا کوئی ٹکڑا ملتا تو اسے کھا لیا کرتا تھا اور اگر کوئی گوشت لگی ہڈی مل جاتی تو اس کا گوشت اتار کے کھا لیتا۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اس کے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا۔ ادھر وہ عابد جنگل کی طرف نکل گیا اور وہاں کی سبزی اور پانی پر گز بسر کرنے لگا پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی روح قبض فرمائی تو اس سے فرمایا: کیا تجھ پر کسی کا احسان ہے کہ میں اسے اس کا بدلہ دوں؟ اس نے کہا: نہیں میرے مولیٰ۔ ارشاد فرمایا: پھر تیرا گزر اوقات کیسے ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا: میں ایک بادشاہ کے کوڑے دان کے پاس آتا پس اگر مجھے وہاں روٹی کا کوئی ٹکڑا یا کوئی ترکاری ملتی تو اسے کھا لیتا اور اگر کوئی گوشت لگی ہڈی پاتا تو اس کا گوشت نوچ لیتا پھر تو نے اس بادشاہ کو موت دی تو میں جنگل کی طرف نکل پڑا اور وہاں پانی اور نباتات پر گزارا کرنے لگا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سے فرمایا: کیا تو اس بادشاہ



کو پہچان لے گا؟ پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا تو اس بادشاہ کو دوزخ سے نکال لیا گیا، وہ ایک بھٹتا ہوا انگار بننا ہوا تھا، پھر عابد سے دوبارہ وہی سوال پوچھا گیا تو اس نے عرض کی: ہاں میرے مولیٰ! یہی وہ بادشاہ ہے جس کے کوڑا دان سے میں کھایا کرتا تھا، پھر عابد سے کہا گیا: اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا کیونکہ اس نے تیرے ساتھ انجامے میں نیکی کی ہے، اگر اس بادشاہ کو اپنی اس نیکی کا علم ہوتا تو میں اسے عذاب ہی نہ دیتا۔<sup>(۱)</sup>

### اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھا گمان رکھو:

﴿10586﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مریض کی عیادت کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں کیسا گمان ہے؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: جو چاہو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ گمان رکھو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مومن کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

### عمل فرشتوں کا ثواب مومن کا:

﴿10587﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، شَفِیعُ اُمَّتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے مومن بندے کی روح قبض فرماتا ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں اپنے مومن بندے پر مامور کیا کہ ہم اس کا عمل لکھتے رہیں اور اب تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے پس اب ہمیں آسمان پر رہنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے وہ میری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں: تو ہمیں زمین پر رہنے کی اجازت عطا فرما دے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے وہ میری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تم میرے مومن بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک میری تسبیح، تہلیل اور تکبیر کہتے رہو اور اسے میرے بندے کے لئے لکھ لو۔<sup>(۳)</sup>

①... تاریخ ابن عساکر، ۳۱۹/۶۰، رقم: ۷۶۵، منصوبین عبد اللہ ابو القاسم الوراق، بخیر

②... حدیث ابی الفضل الزہری، جزء: ۱، ۳۶۶/۱، ۵، حدیث: ۳۷۵

③... الکامل لابن عدی، ۳۳۵/۶، رقم: ۱۳۹۷، تبسی بن عبد اللہ بن الحکم، عن انس

## انتہائی خاص رحمت:

﴿10588﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور جانِ عالم، شُجْعَیْ مَعْظَمُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یقیناً قیامت کے دن لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی ایسی شان بھی دیکھیں گے کہ کسی مقرب فرشتے، نبی مرسل اور نیک بندے کے دل پر اس کا خیال بھی نہ گزرا ہو گا۔<sup>(۱)</sup>

## جہنم سے جنت میں جانے والے لوگ:

﴿10589﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْضُوًّا ﴿۱﴾  
ترجمہ کنزالایمان: قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ  
(پ: ۱، صفحہ ۷۹: ۷۸) کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔

پھر ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت سے اہل قبلہ ایمان والوں کو حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت کے سبب جہنم سے آزاد فرمائے گا پس یہی مقام محمود ہے پھر انہیں ”حَسْبَوْنَ“ نامی نہر پر لایا جائے گا اور انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو اس سے وہ ایسے نشوونما پائیں گے جیسے چھوٹی ٹکڑی بڑھتی ہے پھر وہاں سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جہنمی کہلائیں گے پھر بارگاہِ خداوندی میں عرض کریں گے کہ ان سے یہ نام دور کر دیا جائے تو ان سے وہ نام دور کر دیا جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

## قصہ نماز چھوڑنے کا وبال:

﴿10590﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داتائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے اس

۱... تخریج نہیں ملی۔

۲... شرح مسند ابی حنیفہ، حدیث الشفاعۃ، ص ۲۹۲

دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہو گا۔<sup>(۱)</sup>

## حاجت پوری کر دی جاتی ہے:

﴿10591﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ باجماعت نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ میں کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے واپس ہونے سے پہلے اس کی حاجت پوری نہ کرے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10592﴾... حضرت سیدنا ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا، حبیبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے وقت بِسْمِ اللہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے: تیری ذمہ داری لے لی گئی۔<sup>(۳)</sup>

﴿10593﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ رسول اکرم، مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: رات کی نماز دو دور رکعتیں ہیں پھر جب تمہیں صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت اور ملاؤ۔<sup>(۴)</sup>

## محشر میں علما کا مقام و مرتبہ:

﴿10594﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا روایت کرتے ہیں کہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا تو سونے کے منبر رکھے جائیں گے جن پر چاندی کے گنبد ہوں گے، ان میں موتی، یاقوت اور زمرد جڑے ہوں گے اور اس کی چادریں باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی، علمائے کرام کو بلا کر ان پر بٹھایا جائے گا پھر رحمن عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا: ”کہاں

①... جمع الجوامع، حرف الیم، ۱۲۹/۷، حدیث: ۲۱۶۳۱

②... جمع الجوامع، حرف الهمزة، ۲۰۵/۲، حدیث: ۵۶۱۹

③... جمع الجوامع، حرف الهمزة، ۳۰۲/۱، حدیث: ۲۲۱۰، عن عون بن عبد اللہ مرسلاً

④... مفسر شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں: بہتر یہ ہے کہ نماز تہجد دو ۲۳ و ۲۴ رکعتیں پڑھے، چار چار یا زیادہ کی نیت نہ باندھے یہ حدیث صاحبین اور امام شافعی کی دلیل ہے کہ رات کے نوافل دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک رکعت دو رکعتوں کے ساتھ پڑھے (یہ ایک رکعت تمام نماز کو طاق بنا دے گی) یہ مطلب نہیں کہ علیحدہ ایک رکعت پڑھے ورنہ یہ حدیث تین رکعت والی احادیث کے خلاف ہو گی۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۶۹)

⑤... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب صلاۃ اللیل مفتی مفتی... الخ، ص ۳۷۷، حدیث: ۷۴۹، ملقطاً

ہیں وہ جو رضائے الہی کے لئے امت محمدیہ تک علم پہنچاتے تھے، ان منبروں پر بیٹھو! آج تم پر کوئی خوف نہیں  
حشی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“<sup>(۱)</sup>

﴿10595﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا تو حضور  
نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بوسہ دینا نیکی ہے اور ایک نیکی دس کے برابر ہے۔<sup>(۲)</sup>

## بِسْمِ اللّٰہِ شریف پر درود ہے:

﴿10596﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرور کائنات، شاہ موجودات  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارنے لگے یا زہنہ ہونے لگے تو  
اسے چاہئے کہ بِسْمِ اللّٰہِ کہہ لے کیونکہ یہ شیطان اور اس کے درمیان پردہ ہے۔“<sup>(۳)</sup> اور ارشاد فرمایا: ”اپنے  
بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو نماز قائم کرنے کے لیے ہلکار کھو۔“<sup>(۴)</sup>

## بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان:

﴿10597﴾... عظیم بن سعد کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا  
کہ ایک شخص نے کہا: کاش! میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زیارت کی ہوتی۔ آپ نے اس سے فرمایا:  
تو تھر تم کیا کرتے؟ اس نے کہا: خدا کی قسم! میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا  
اور آپ کی اطاعت کرتا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا: کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟  
اس نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! کیوں نہیں۔ فرمایا: میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:  
جس بندے کے دل میں میری محبت آئے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام

①... تمہید الفروض، ذکر خصائص التي وقعت علی، ص ۸۱

②... الکامل لابن عسّی، ۱/ ۳۹۵، رقم: ۱۲۹، جامعیں بن یحییٰ بن عبید اللہ التیمی

③... مسند الفردوس، ۱/ ۳۷۷، حدیث: ۳۳۴۰، بتقدیم و تاخیر، عن انس

④... جامع صغیر، ص ۲۹۲، حدیث: ۴۹۲۲

فرمادیتا ہے۔<sup>(۱)</sup> پھر ارشاد فرمایا: میری دلی تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو حوض کوثر پر آمادہ کھوں پھر میں ان کا آب کوثر سے بھرے برتنوں کے ساتھ استقبال کروں اور انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے حوض سے پلاؤں۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ تمہارے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لانے والوں کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔<sup>(۲)</sup>

### شانِ مولیٰ علیؑ رحمۃ اللہ علیہ:

﴿10598﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم، شفیع معظم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: زمین و آسمانوں کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، عَلِيُّ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ“ یعنی اللہ علاؤ جگہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہیں، علی، رسول اللہ (ﷺ) کے بھائی ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿10599﴾... حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: لَا اَکُلُ مِنْ کِسَاہِیْ فِیْهِ مِیْکَ لَکَ اَکَرُ نَہِیْ کَہَا۔<sup>(۴)</sup>

### خراب کھجوریں نہ دیں:

﴿10600﴾... حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رؤف رحیم ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یہ کھجوریں مجھے عطا فرما دیجئے جو آپ نے بچائی ہیں۔ ارشاد فرمایا: میں تمہارے لئے وہ چیز پسند نہیں کروں گا جسے میں اپنے لئے پسند نہیں کرتا۔<sup>(۵)</sup>

①... جامع صغیر، باب حروف المیم۔ ص ۷۷، حدیث: ۷۷۹

②... مجمع الجوامع، حروف اللام، ۱۶۹/۶، حدیث: ۱۸۱۹۵

③... معجم اوسط، ۱۳۱/۳، حدیث: ۵۳۹۸، بغیر قلیل

④... بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب الاکل متکنا، ۵۲۸/۳، حدیث: ۵۳۹۸

⑤... طبقات لابن سعد، ذکر طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۳۰۰/۱، عن علی بن الاکمر

## شکم سیری کا نقصان:

﴿10601﴾... حضرت سیدنا ابو بکرؓ نے دُعا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روٹی کھا کر بکرا کا دہرہ رسالت میں حاضر ہوا، مجھے ڈکار آئی تو اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو بکرؓ! ہمارے سامنے ڈکار کو کم کرو کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ شکم سیر ہونے والا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بھوکا ہو گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10602﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا وہ جزیرہ اشعار پڑھنے والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مجاہد اسلام کی اہلیہ کا مقام:

﴿10603﴾... حضرت سیدنا زبیرہ بن حصیب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھروں میں بیٹھے (یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں پر

①... مسئلہ الفردوس، ۳۵۶/۵، حدیث: ۸۲۲۳

②... تین دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولیٰ ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۰۳/۵۵۱) کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو تین دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرے وہ سبھے گانٹیں۔" (ابوداؤد، کتاب شہور رمضان، باب تعزیر القرآن، ۲/۵۹، حدیث: ۱۳۹۳) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: جو شخص ہمیشہ تین دن سے کم میں ختم قرآن کیا کرے، وہ جلدی تلاوت کی وجہ سے نہ تو الفاظ قرآن صحیح طور پر سمجھ سکے گا اور نہ اس کے ظاہری معنی میں غور کر سکے گا خیال رہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اگر بہت جلدی تلاوت کریں، تو زبان لپٹ جاتی ہے حرف صحیح ادا نہیں ہوتے خواص کا حکم اور ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک رکعت میں پانچ پانچ چھ پارے پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ایک رات میں ختم قرآن کیا ہے، (سیدنا) داؤد علیہ السلام چند منٹ میں زبور ختم کر لیتے تھے، حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) گھوڑا کسنے سے پہلے ختم قرآن کر لیتے تھے۔ (ساجد) مرقات نے فرمایا کہ شیخ موصیٰ سودانی جو شیخ ابودین کے اصحاب میں سے تھے ایک دن رات میں ستر ہزار ختم کر لیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے کعبہ منظر میں سنگ اسود چوم کر دروازہ کعبہ پر پہنچ کر ختم قرآن فرمایا اور لوگوں نے ایک ایک حرف سنا، لہذا اس حدیث کی بنا پر نہ تو مروجہ شیعہوں کو حرام کہا جاسکتا ہے اور نہ امام اعظم ابوحنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان صحابہ کرام (علیہم السلام) پر اعتراض کیا جاسکتا ہے جو ایک دن رات میں پورا ختم کر لیتے تھے کہ یہ حکم عوام مسلمانوں کے لیے ہے جو اس قدر جلد قرآن شریف پڑھنے میں درست نہ پڑھ سکیں۔ ختم قرآن میں عام بزرگوں کے طریقے مختلف رہے ہیں، بعض ایک ماہ میں ایک ختم کرتے تھے، بعض ایک ہفتہ میں ایک ختم، بعض حضرات تین دن میں۔ (مرآۃ المناجیح، ۳/۲۷۰، ص ۲۷۱)

مجاہدین کی عورتیں حرمت میں ان کی ماؤں کی طرح ہیں، تو اگر پیچھے رہنے والا کوئی شخص کسی مجاہد کی بیوی کے پاس آئے پس اس کے بارے میں مجاہد کے ساتھ خیانت کرے تو بروز قیامت اسے مجاہد کے سامنے کھڑا کر کے مجاہد سے کہا جائے گا: اس نے تیرے گھر والوں کے بارے میں تیرے ساتھ خیانت کی تھی لہذا تو اس کے اعمال میں سے جو چاہے لے لے۔ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اب تمہارا کیا خیال ہے؟<sup>(۱)</sup>

### سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی گریہ وزاری:

﴿10604﴾... حضرت سیدنا زید بن حُصَیْب أَنَسَیْ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مرفوع روایت ہے کہ اگر حضرت داود عَلَیْہِ السَّلَام اور تمام زمین والوں کے رونے کا موازنہ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کے رونے کے ساتھ ہو تو بھی یہ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کے رونے کے برابر نہ ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10605﴾... حضرت سیدنا ابو جَحْفَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولِ خدا، شفیعِ روزِ جزا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مقامِ اُطْحٰی پر نماز پڑھی، آپ کے سامنے نیزہ یا اس جیسی کوئی لکڑی کھڑی تھی اور اس کے آگے گزر گاہ تھی جہاں سے راہ گزر رہے تھے۔

﴿10606﴾... حضرت سیدنا ابو جَحْفَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہِ رسالت میں (خج) کی خوشخبری لے کر آیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سجدے میں چلے گئے۔

### ناموسِ مسلم کے دفاع کا انعام:

﴿10607﴾... حضرت سیدنا محمّد بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اُمّ رِداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے ایک شخص کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: مجھے تم پر رشک آ رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابو رِداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سنا ہے کہ رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسِّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے چہرے کو آگ کی لپٹ سے محفوظ رکھے گا۔<sup>(۳)</sup>

①... نسائی، کتاب الجہاد، باب حرمة نساء المجاہدین، ص ۵۱۹، ۵۲۰، حدیث: ۳۱۸۱، ۳۱۸۷

②... معجم اوسط، ۵۳/۱، حدیث: ۱۳۳

③... ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الذب عن عرض المسلم، ۳/۴۷۳، حدیث: ۱۹۳۸

﴿10608﴾... ایک تہی شخص کے دادا کا بیان ہے کہ میرے والد نے میرے ذریعے حضور جانِ عالم، شفیع اُمّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سلام کھلوا یا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جواب فرمایا: عَلَیْکَ وَعَلٰی اٰیٰتِکَ السَّلَام یعنی تم پر اور تمہارے والد پر سلام ہو۔<sup>(۱)</sup>

﴿10609﴾... حضرت سیدنا نَعْب بن مُجَرَّہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ پیدارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میرے بعد کچھ حاکم ہوں گے تو جس نے ان کے پاس جا کر ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے حوض پر ہرگز نہیں آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

## بوقتِ وصالِ خوف کی کیفیت:

﴿10610﴾... حضرت سیدنا طارق بن شہاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان حضرت سیدنا خباب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی عیادت کرنے کے لئے آئے اور کہنے لگے: ابو عبد اللہ! آپ کو مبارک ہو کہ آپ حوض کوثر پر اپنے مسلمان بھائیوں سے ملیں گے۔ یہ سن کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ودیئے اور کہا: تم نے میرے سامنے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں تم نے میرا بھائی کہا ہے، وہ لوگ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ اپنے کسی عمل کا بدلہ یہاں نہیں لیا، ان کے بعد ہم باقی رہ گئے ہیں اور ہم نے دنیا میں سے اتنا لے لیا کہ اب خوف ہے کہ کہیں ابھی ہمارے ان اعمال کا بدلہ نہ ہو۔

## ایمان کا کمزور ترین درجہ:

﴿10611﴾... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور رحمتِ عالم، صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بر اکام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے (براجانے) اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

①... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب ما یقول اذا قیل لہ ان فلانا... الخ، ۱۰۱/۶، حدیث: ۱۰۳۰۵

②... معجم کبیر، ۱۴۱/۱۹، حدیث: ۳۰۹

③... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الی عن المنکر... الخ، ص ۳۴، حدیث: ۳۹



## بے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم:

﴿10612﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال (روزہ رکھ کر افطار کیے بغیر دوسرے دن بھر روزہ رکھے) سے منع کیا تو عرض کی گئی: آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میں اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا پالتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10613﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کی ایک (متبول) دعا ہوتی ہے جو وہ اپنی امت کے لئے کرتا ہے میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا رکھی ہے۔<sup>(۲)</sup>

## سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنتی محل:

﴿10614﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا وہاں ایک سوئے کا محل دیکھا تو پوچھا: یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10615﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص قربانی کا جانور لے کر گزرا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ۔<sup>(۴)</sup> اس نے عرض کی: یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ ارشاد فرمایا: افسوس ہے تم پر! سوار ہو جاؤ۔<sup>(۵)</sup>

## صفیں سیدھی رکھو:

﴿10616﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معلم کائنات، شاہ موجودات

① بخاری، کتاب الصوم، باب الوصال ومن قال یس فی اللیل صیام، ۱/۶۳۵، حدیث: ۱۹۶۱

بخاری، کتاب التیمی، باب ما یجوز من اللو: ۳/۳۸۸، حدیث: ۷۲۳۲، عن ابی ہریرۃ

② بخاری، کتاب الدعوات، باب لكل نبی دعوة... الخ ۴/۱۸۹، حدیث: ۶۳۰۴، ۶۳۰۵

③ مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۲/۲۱۵، حدیث: ۱۲۰۴۶

④ قربانی کے جانور پر مجبور و ضرورۃ سوار ہونا جائز، بلا ضرورت منع ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ المفاتیح، ۴/۱۶۰)

⑤ بخاری، کتاب الوصایا، باب هل ینتفع بالواقف بوقفہ، ۴/۲۳۸، حدیث: ۴۷۵۳

مَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: **أَيُّكُمْ أَصْفُو فُكُم فَإِنَّ مِنْ تَصَامِرِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ** یعنی اپنی صفیں سیدھی کرو کہ نماز کی تکمیل میں سے صفیں سیدھی رکھنا بھی ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10617﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ (معراج کی رات) اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور (براق) لایا گیا، اس کا ایک قدم انتہائے نظر تک جاتا تھا، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس کے قریب ہوئے تو وہ اچھل کود کرنے لگا، حضرت سیّدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: **ظہر جا، تجھ پر ایسا کوئی سوار نہیں ہو** جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے زیادہ عزت والا ہو۔

## ختم قرآن کے موقع پر دعا:

﴿10618﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قرآن مجید ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔

﴿10619﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **عِنْدَ كُلِّ خُتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ** یعنی ہر ختم قرآن کے وقت ایک مقبول دعا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10620﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ پیدائے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی یہ نہ کہا کرے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔<sup>(۳)</sup>

## یارِ غار کا عشق:

﴿10621﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم غار ثور پہنچ کر اس میں داخل ہونے لگے تو حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میرے ماں باپ آپ پر قربان! مہربانی فرما کر

①...مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۵/۳، حدیث: ۱۳۹۰۱، ۱۳۹۰۲

②...مسند القدریوس، ۷/۲، حدیث: ۳۹۳۰

③...ترمذی، کتاب الدعوات، باب ۱۳۵، ۳۳۸/۵، حدیث: ۳۶۱۹، بغیر، عن ابی ہریرہ

مجھے داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے کہیں اس غار میں کوئی مُؤذی جانور نہ ہو اور اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی تو اس کی تکلیف مجھے ہو آپ کو نہ ہو۔ پھر حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ غار میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگے جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنا کپڑا پھاڑ کر اس سے سوراخ بند کر دیتے حتیٰ کہ کپڑے کا کوئی ٹکڑا باقی نہ بچا اور ایک سوراخ بند ہونے سے رہ گیا اب کوئی کپڑا ہی نہیں تھا جس سے اس سوراخ کو بند کرتے لہذا اپنی ایڑی سے اس سوراخ کا منہ بند کر دیا اور پھر عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اندر تشریف لے آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا: ابو بکر! تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ انہوں نے پوری بات بتائی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی۔<sup>(۱)</sup>

### حرص اور امید:

﴿10622﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ابن آدم ہلاک ہونے لگے اور انتہائی ضعیف ہو جائے پھر بھی اس کی دو چیزیں باقی رہتی ہیں: (۱)... حرص اور (۲)... امید۔<sup>(۲)</sup>

### شفاعتِ مصطفیٰ:

﴿10623﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم، شافعِ اُمم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے ہے۔<sup>(۳)</sup>

**و سوسوں پر پکڑ نہیں:**

﴿10624﴾... حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَغُوفِ رَحِیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے جب تک وہ اس پر عمل یا اس کے بارے میں کلام نہ کر لیں۔<sup>(۴)</sup>

①... جامع الاحادیث، مسند انس بن مالک، ۸۴/۱۹، حدیث: ۱۳۶۳۳

②... الزہد لابن المبارک، باب النبی عن طول الأمل، ص ۸۷، حدیث: ۲۵۶

③... ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الشفاعة، ۳۱۱/۲، حدیث: ۴۷۳۹

④... بخاری، کتاب العنق، باب الخطا والنسبانی فی العنقاۃ... الخ، ۱۵۳/۲، حدیث: ۲۵۲۸

﴿10625﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم، مکرر مُخْتَلَمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: نفسانی خواہش معاف ہے جب تک اس پر عمل یا اس کے متعلق بات نہ کی جائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10626﴾... حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رَعُوْثٌ رَّحِمَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سجدوں میں اعتدال کریں اور جلد بازی نہ کریں۔<sup>(۲)</sup>

## قیامت بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی:

﴿10627﴾... حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار، غیبیوں پر خبردار باؤں پروردگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دین پر چلنا دشوار ہو جائے گا اور لوگوں کے بخل و لالچ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور قیامت بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

﴿10629﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: علم کے محافظ بھی بنو (نقطہ روایت کرنے والے نہ بنو) کیونکہ کبھی اس کی حفاظت تو کی جاتی ہے لیکن آگے نہیں پہنچایا جاتا اور کبھی آگے تو پہنچایا جاتا ہے لیکن محفوظ نہیں رکھا جاتا۔

## سب سے زیادہ وزنی عمل:

﴿10630﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَا وَضِعَ فِي الْمِيزَانِ الْفَقْلُ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ يَعْنِي مِيزَانَ عَمَلٍ فِي حَسَنِ اخْلَاقٍ سِوَى عَمَلٍ كَوْنِيٍّ“۔<sup>(۴)</sup>

﴿10631﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہادی عالم، رَسُولِ مُخْتَلَمٌ

①...مسند الفردوس، ۲/۲۸۷، حدیث: ۷۲۵۲

②...معجم کبیر، ۴/۲۱۲، حدیث: ۶۸۸۳

③...ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب شدۃ الزمان، ۳/۳۷۸، حدیث: ۳۰۴۹، عن انس بن مالک

④...یہاں موجود روایت ﴿10628﴾ کا ترجمہ نہیں کیا گیا عربی متن آخر میں ڈال دیا ہے اہل علم حضرات وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

(از علی)

⑤...ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی حسن الخلق، ۳/۳۰۳، حدیث: ۲۰۱۰

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”الْهَذِي الصَّالِحُ وَالسَّنْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ“ یعنی اچھا طریقہ اور اچھی سیرت نبوت کے 125 جزاء میں سے ایک جز ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10632﴾... حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُفُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل عَلَیْهِ السَّلَام نے مجھے کہا: ہم جمعہ کے دن کو یوم مزید کہتے ہیں، بے شک اللہ عَزَّ وَجَلَّ اہل جنت پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10633﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ مُعَلِّمِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم مغرب کی نماز میں وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا (یعنی سورہ شمس) اور اس جیسی سورتیں تلاوت کرو؟<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ خلق کے رہبر، محبوبِ ربِّ اور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”حَيَّاؤُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً“ یعنی تم میں بہترین وہ ہیں جو اچھی طرح سے ادائیگی کرتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10634﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ، خَاتَمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے اس حال میں ملے کہ اس نے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔<sup>(۵)</sup>

## سب سے افضل کون؟

﴿10635﴾... حضرت سیدنا جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ہم مہاجرین و انصار رسولِ خدا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دروازے پر جمع تھے، ہمارے درمیان ایک دوسرے پر فضیلتوں کے حوالے سے بحث چھڑی تو آواز بلند ہونے لگی، چنانچہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تمہارے

۱... ابووداد، کتاب الادب، باب فی الوقار، ۳۲۵/۳، حدیث: ۴۷۶۰

۲... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب فی فضل الجمعة ویومہا، ۵۸/۴، حدیث: ۱۰

۳... سنن کبیری للہسائی، کتاب التفسیر، باب سورة البروج، ۵۱۲/۱، حدیث: ۱۱۶۶۳

۴... بخاری، کتاب الوکالة، باب وکالة الشاهد والغائب جائزۃ، ۸۰/۲، حدیث: ۲۳۰۵، عن ابی ہریرۃ

۵... مسلم، کتاب الامان، باب من مات لا یشترک بالآلہ... الخ، ص ۶۱، حدیث: ۹۲

درمیان آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ عرض کی گئی: یاد رسول اللہ ﷺ کی! ہم باہمی فضائل سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا: کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ ہم نے عرض کی: یاد رسول اللہ ﷺ کی! وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دینا کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## جھوٹی گواہی کا وبال:

﴿10636﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرور دو عالم، شفیع ائمہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم ہلنے بھی نہ پائیں گے کہ اس پر جہنم واجب ہو چکا ہو گا۔<sup>(۲)</sup>

## سرکارِ مدینہ ﷺ کی سادگی:

﴿10637﴾... حضرت سیدنا شریح بن ہانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ اپنے گھر آکر کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا: تم لوگوں کی طرح کام کاج میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے، اپنے مونے پر پیوند لگاتے اور اپنی مبارک نعل خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے۔

﴿10638﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم، ﷺ مَجَسَّم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَقْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ“ یعنی جس نے بیت اللہ کاج کیا پس قحش کلامی اور فسق کی باتیں نہ کیں تو ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10639﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع ائمہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَقْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ“ یعنی جس نے بیت اللہ کاج کیا پس قحش کلامی اور فسق کی باتیں نہ کیں تو ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔<sup>(۴)</sup>

①... تاریخ ابن عساکر، ۲۱۲/۳۰، رقم: ۳۳۹۸، عبد اللہ و یقال عقیق بن عثمان بن حذافہ

②... معجم اوسط، ۱۶۲/۶، حدیث: ۸۳۶۷

③... بخاری، کتاب المحصر، باب قول اللہ عزوجل (ولا فسوق ولا جدال فی الحج)، ۱/۶۰۰، حدیث: ۱۸۲۰

## گھر سے نکلنے کا وقت کی دعا:

﴿10640﴾... اَنتُم الْمَوْتِنِیْنَ حضرت سیدنا ائم سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بیان کرتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لیبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر سے نکلنے کا وقت یہ دعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُجَلَّ اَوْ اُجَلَّلَ اَوْ یُجَلَّلَ عَلَیَّ یعنی اے رب عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لغزش کروں یا مجھے کوئی لغزش دے، وکیل ہوں یا وکیل کیا جاؤں، میں جہالت والا سلوک کروں یا میرے ساتھ جہالت والا سلوک کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10641﴾... حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس آیت مبارکہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴿۱﴾ (پ. ۱، الفاتحہ: ۵) کی تفسیر میں فرمایا: (صراطِ مستقیم سے مراد) اسلام ہے۔<sup>(۲)</sup>

### دم سے علاج:

﴿10642﴾... اَنتُم الْمَوْتِنِیْنَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نظر لگنے کی صورت میں انہیں دم کروانے کا حکم دیا کرتے تھے۔

﴿10643﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قربانی کا اونٹ لے کر جا رہا تھا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم پر افسوس ہے! اس پر سوار ہو جاؤ۔<sup>(۳)</sup>

## اذان کا جواب:

﴿10644﴾... حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شہنشاہِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سنا کہ مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے آپ بھی وہی ادا فرما رہے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

①... ابن ماجہ، کتاب الدعا، باب ما یأید عوبہ الرجل اذا خرج من بیتہ، ۲۹۱/۴، حدیث: ۳۸۸۳

ستن کبریٰ للنسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الفلأل، ۳۵۶/۴، حدیث: ۷۹۲۱

②... تاریخ اصحابان، ۶۵/۲، رقم: ۱۱۰۱، عبید اللہ بن محمود بن علی بن مالک

③... بخاری، کتاب الوصایا، باب هل یتنفع الواقف بوقفہ، ۲۳۸/۲، حدیث: ۲۷۵۳

④... نسائی، کتاب الاذان، باب القول مثل ما یتشہد المؤمن، ص ۱۱۷، حدیث: ۷۷۳

## نشہ اور چیز کا حکم:

﴿10645﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار باذن

پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کُلُّ مُسْكِي حَتَّى يَبْرُنْشَ أَوْ حَيْزِ شَرَابٍ هِيَ (یعنی حرام ہے)۔“<sup>(۱)</sup>

﴿10646﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کئی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو نماز جمعہ کے لئے آئے اسے چاہئے کہ غسل کرے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10647﴾... حضرت سیدنا عمرو بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محبوب ربِّ ذوالجلال

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں ﴿لَا أَقِيمُ بِالْحُسَيْنِ﴾ ﴿الْحَوَارِ الْاَنْكَبِثِ﴾ پڑھتے سنا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10648﴾... حضرت سیدنا عمرو بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زینت کائنات، فخر

موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں ﴿وَالْبَيْتُ اِذَا عَشَسَ﴾ پڑھتے سنا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10649﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عیدین کی نماز میں حضور نبی

کریم، زکریاؑ و یحییٰؑ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس

کے سامنے نماز پڑھاتے تھے۔

﴿10650﴾... حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ عالم، ثورِ مجسم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ناحق کسی کو حد لگائی تو وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہے۔<sup>(۵)</sup>

## کون سا عمل سب سے افضل ہے؟

﴿10651﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول پاک، صاحب

①... مسلم، کتاب الاشربة، باب بیان ان کل مسکر محرم... الخ، ص ۱۱۰۹، حدیث: ۲۰۰۳

②... بخاری، کتاب الجمعة، باب ہل علی من لم یشہد الجمعة... الخ، ۳۰۹/۱، حدیث: ۸۹۳

③... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، باب سورة التکویر، ۵۰۷/۶، حدیث: ۱۱۶۵۰

④... مسلم، کتاب الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ص ۲۳۹، حدیث: ۳۵۶

⑤... سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الاشربة والحدیث، باب ما جاء فی التعزیر وانه لا یبلغ بہ اربعین، ۵۶۷/۸، حدیث: ۱۷۵۸۴



لولا کہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: نماز اپنے وقت میں پڑھنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں جہاد کرنا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10652﴾... حضرت سیدنا وزیرہ بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّامِن سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے فرمایا: حضور نبی اکرم، مُحَمَّدٌ مَجْسَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اہل یمن کے لئے یَکَلِّمُکُمْ کو، مدینہ والوں کے لئے ذُو الْخَلِیْفَہ کو، اہل شام کے لئے جُفَہ کو اور اہل نجد کے لئے قَرْن کو میقات <sup>(۲)</sup> بنایا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے عراق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اس وقت کو ذہ تھانہ بصرہ۔

﴿10653﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رُوِیَ عَنْہُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اہل نجد کے لئے قَرْنِ مَنَازِل کو، مدینہ والوں کے لئے ذُو الْخَلِیْفَہ کو، اہل شام کے لئے جُفَہ کو اور یمن والوں کے لئے یَکَلِّمُکُمْ کو میقات بنایا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10654﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت ہے کہ ہادی عالم، رسولِ مَحْسَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تَنْقُطَ وَتَوَقَّفَ یعنی اپنے نفس کو سترہ کرو اور آفات سے بچاؤ۔<sup>(۴)</sup>

## اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام کی قسم:

﴿10655﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُوِیَ عَنْہُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام کی قسم کھاؤ اور پوری کرو اور قسم کو سچا کرو<sup>(۵)</sup> بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔

①...مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الامان باللہ تعالیٰ افضل الاعمال، ص ۵۸، حدیث: ۸۵

②...میقات اُس جگہ کو کہتے ہیں کہ مَعْلَمٌ مُعْظَمٌ اِنْعَاقَ اللہِ شُرْفَا تَغْنِیْبِ جانے والے آفاقی کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، چاہے تجارت یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو، یہاں تک کہ مَعْلَمٌ مُکَنِّ مَعْرَا اِنْعَاقَ اللہِ شُرْفَا تَغْنِیْبِ کے رہنے والے بھی اگر میقات کی حدود سے باہر (مثلاً طائف یا مدینہ منورہ) جا لیں تو انھیں بھی اب بغیر احرام نہ پاک اِنْعَاقَ اللہِ شُرْفَا تَغْنِیْبِ آنا ناجائز ہے۔ (رفیق الحرمین، ص ۶۳)

③...ابوداؤد، کتاب النساک، باب فی الواقیع، ۱۹۹/۲، حدیث: ۱۷۳۷، ہفقدہ وناحر

④...معجم صغیر، جزء ۱، ص ۲۶۶، حدیث: ۷۵۵

⑤...مسند الغروب، ۱/۱۰۱، حدیث: ۳۳۳

﴿10656﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معلم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کا تعلیم ایک ساتھ کہا۔

﴿10657﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غُذِّیَ اللہ کی قسم کھا کر اسے پورا کرنے سے بڑھ کر مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ عزوجل کی قسم کھا کر اسے پورا نہ کروں۔<sup>(۱)</sup>

### بلند آواز سے تلاوت:

﴿10658﴾... حضرت سیدنا اُمّ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم، زُؤُفِ زَ حِمْ صَ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتی جبکہ میں اپنی چیخت پر ہوتی تھی۔

### اللہ عزوجل کی بندے سے محبت:

﴿10659﴾... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رَحْمَةُ لِّلْعَلَمِیْنَ، خَاتَمُ الْمُرْسَلِیْنَ صَ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس کے ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہو تا ہے تو میں اس سے ایک باغ<sup>(۲)</sup> قریب ہو جاتا ہوں اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں<sup>(۳)</sup> اور اگر کوئی بندہ زمین بھر گناہ کرے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے تو میں اس کی زمین بھر خطائیں بھی معاف کر دوں گا۔<sup>(۴)</sup>

①...مسند الفردوس، ۱/۷۴/۵، حدیث: ۷۸۷۱

②...جب انسان دونوں ہاتھ سیدھے کر کے پھیلائے تو دہانے ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی تک کو باغ کہتے ہیں یہ کلام تمثیلی طور پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ تھوڑے عمل کے ذریعے قریب الہی حاصل کرو تو رب تعالیٰ اپنے کرم سے بہت زیادہ رحمت کے ساتھ تم سے قریب ہو گا۔ (مرآۃ المناجیح، ۳/۲۰۷)

③...یہ کلام بطور مثال سمجھانے کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری طلب سے ہماری رحمت سبقت لے گئی ہے، اگر تم ایسے معمولی اعمال کرو جن سے بدیر ہم تک پہنچ سکو تو ہم تم کو اپنے کرم سے بہت جلد اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے اگر رب تعالیٰ سے قریب ہماری کوشش سے ہو تو قیامت تک ہم اس تک نہ پہنچ سکتے، اس تک رسائی اس کی رحمت سے ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۳/۲۰۷)

④...بخاری، کتاب التوحید، باب ذکر النبی وروایہ... الخ، ۵۹۹/۳، حدیث: ۵۳۲۱

مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الذکر... الخ، ۱۲۳۳، حدیث: ۲۱۸۷

﴿10660﴾... حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، راحتِ قلب و سیرہ منہ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے قریش کے ایک شخص کو قید میں رکھ کر قتل کروایا پھر ارشاد فرمایا: آج کے بعد کسی قریشی کو قید میں رکھ کر قتل نہ کیا جائے سوائے عثمان کے قاتل کے اگر تم ایسا نہ کر سکو تو (اسے) بکری کی طرح ذبح کرنا۔<sup>(۱)</sup>

### ملفوظات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ:

﴿10661﴾... حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اپنے دوست کی حفاظت کرو، اپنے دشمن سے دور رہو اور اسی کو دوست بناؤ جو امانت دار ہو اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہے، فاجر کی دوستی سے بچو کہ اس کے فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے اور اپنے راز پر اسے مطلع نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں رسوا کر دے گا اور اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ عزوجل سے ڈرتے ہیں۔

﴿10662﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: رسول پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے اہل خانہ نے جب بھی دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ان میں سے ایک کھانا کھجور ہی ہوتا تھا۔

﴿10663﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مکی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جس کی نماز جمعہ چھوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ نصف دینار صدقہ کرے<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

### بعض شعرِ حکمت ہیں:

﴿10664﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مُعَلِّمِ کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ“ یعنی بعض شعرِ حکمت ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿10665﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم ظہر و عصر کی پہلی دور کھتوں میں سورۃ فاتحہ

①...مسلم، کتاب الجہاد، باب لا یقتل کفری صبرا بعد الفتح، ص ۹۸۳، حدیث: ۱۷۸۲، معجم اوسط، ۴/۱، حدیث: ۱۶۵۳

②...یہ دینار نقدی کرنا شاید اس لیے ہو کہ قبولِ توبہ کے لیے مُعین (یعنی مددگار) ہو ورنہ حقیقتہً تو توبہ کرنا فرض ہے۔

(بہارِ شریعت، حصہ ۱، ص ۷۵۸)

③...ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب کفارۃ من ترکھا، ۳۹۳/۱، حدیث: ۱۰۵۳

④...ابن ماجہ، کتاب الاذیاب، باب الشعر، ۲۲۷/۲، حدیث: ۳۷۵۵، عن ابی بن کعب

https://t.me/faizanealahazrat

## اہل عرب کی فضیلت:

﴿10670﴾... حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غریبوں کے غمگسار، بیکسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میرے پاس تشریف لائے میں کھجور کے پودے لگا رہا تھا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میری مدد کرنے لگے آپ نے میرا جو بھی پودا لگایا وہ اگ گیا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے سلمان! مجھ سے بغض نہ کرنا۔“ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آپ سے کیسے بغض کر سکتا ہوں حالانکہ میں آپ کی بعثت سے پہلے ہی اسلام کی تلاش میں نکل چکا تھا؟ ارشاد فرمایا: تم نے عربوں سے بغض رکھا تو وہ مجھ سے ہی بغض کرنا ہے۔<sup>(۱)</sup>



## نجومیوں اور کاہنوں سے حال معلوم کرنے کا حکم

سوال: نجومیوں، کاہنوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟ جواب: کاہنوں اور جوتیبوں سے ہاتھ دیکھا کر تقدیر کا راجھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی جو یہ بتائے حتیٰ ہے تو کفر خالص ہے اور اگر بطور اعتقاد و یقین (یعنی بطور یقین) نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر بطور ہزل و استہزاء (یعنی ہنس مذاق کے طور پر) ہو تو عجبث (یعنی بے کار) و مکروہ و حماقت ہے، ہاں! اگر بقصد تعییر (یعنی اسے عاجز کرنے کے لئے) ہو تو حرام نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲/ ۱۵۵)

## مسلمان کے مسلمان پر حقوق

سوال: ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب: حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں: (۱)... جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے (۲)... جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو (۳)... جب وہ دعوت دے تو قبول کرے (۴)... جب اس سے ملے تو سلام کرے (۵)... جب وہ چھینکے اور اُتھلے (۶) تو جواب دے اور (۶)... حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ (نسائی، کتاب الجنائز، باب النہی عن سب الاموات، ص ۳۲۸، حدیث: ۱۹۳۵)

## حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ان تبع تابعین عظام میں سے ایک بزرگ امام و امین، پختہ عقل و مضبوط رائے والے، مسائل کا استنباط کرنے اور دلائل شرعیہ سے انہیں مضبوط کرنے والے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ ہلالی علیہ رحمۃ اللہ التواہل بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محقق عالم دین، عابد و زاہد، آپ کا علم مشہور اور زہد معمول تھا۔

﴿10671﴾... حضرت سیدنا محمد بن عمرو بن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جب میں یہ دو چیزیں جمع کر لیتا ہوں تو میرا معاملہ آسان ہو جاتا ہے (۱)... جب بھی مصیبت آئے صبر کروں اور (۲)... اللہ عزوجل کے فیصلے پر راضی رہوں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے: مجھے پروا نہیں کہ میں اپنی پسندیدہ حالت میں صبح کروں یا ناپسندیدہ حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ بھلائی میری پسند میں ہے یا ناپسند میں۔

### اصلاح والا علم:

﴿10672﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہا کرتا تھا: اپنے اندر کی خرابی کو جان لینا ہی میری اصلاح کرنے والا علم ہے اور کسی کے برا ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اندر بگاڑ دیکھے اور اس کی اصلاح نہ کرے۔

### 30 سال تک مجاہدہ:

﴿10673﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ ایک عالم دین نے فرمایا: میں دو چیزوں کا علاج 30 سال سے کر رہا ہوں: (۱)... لوگوں سے لالچ و طمع چھوڑنا اور (۲)... خالص اللہ عزوجل کے لیے عمل کرنا۔ ﴿10674﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جو لوگوں کے سامنے ایسی چیز کے ساتھ خود نمائی کرے جو علم الہی کے مطابق اس میں نہیں تو اللہ عزوجل اسے عیب دار بنا دے گا۔

﴿10675﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر میری رات بے وقوف کی رات کی طرح اور میرا دن جاہل کے دن کی مانند ہو تو پھر میں اپنے حاصل کیے ہوئے علم کا کیا کروں؟

﴿10676﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: علم کے اہل وہی لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔

## عقل بڑھنے پر رزق میں کمی:

﴿10677﴾... (الف) حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: مَنْ زِيدَ فِي عَقْلِهِ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ یعنی جس کی عقل میں اضافہ ہو اس کا رزق کم ہو گیا۔

﴿10677﴾... (ب) حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے: جس نے خود کو دوسرے سے بہتر سمجھا یقیناً اُس نے تکبر کیا اور ابلیس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے روکنے والا اس کا تکبر ہی تھا۔

## توبہ کی امید اور لعنت کا ڈر:

﴿10678﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جس کا لٹا ہوا پیش کی وجہ سے ہو اُس کے لئے توبہ کی امید رکھو کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خواہش کے سبب لغزش واقع ہوئی تو انہیں معاف کر دیا گیا اور اگر بندے کا لٹا ہوا تکبر کی وجہ سے ہو تو اس پر لعنت کا خوف رکھو کیونکہ ابلیس نے تکبر کے سبب نافرمانی کی تو وہ ملعون ہو گیا۔

## زندہ کون اور مردہ کون؟

﴿10679﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ آخرت میں ایسا ہے جیسے دنیا میں پانی، ہر ایک کی زندگی کا مدار پانی پر ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾ توجہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔ (پ: ۱، الانبیاء: ۳۰)

پس ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پانی کے مرتبے میں ہے کہ جس کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہیں وہ مردہ ہے اور جس کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے وہ زندہ ہے۔

﴿10680﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کی معرفت سے افضل کوئی نعمت نہیں دی کیونکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان کے لئے آخرت میں ایسا ہے جیسے دنیا میں پانی۔

## قرآن کریم سے محبت:

﴿10681﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کلام الہی سے کبھی سیر نہ ہوتے۔“ اور آپ ہی کا فرمان ہے: مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی دن یارات ایسا آئے کہ میں قرآن کریم میں نظر نہ کر دوں۔

﴿10682﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی صبر کرنا اور موت کا انتظار کرنا ہے۔

## 60 سال جوگی روٹی پر گزارا:

﴿10683﴾... حضرت سیدنا خرملہ بن یحییٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لائے اور اپنی آستین سے جوگی روٹی نکال کر مجھ سے فرمایا: اے حرمہ! لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرو، 60 سال سے میرا کھانا یہی ہے۔

﴿10684﴾... حضرت سیدنا ابویوسف قسوسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے سامنے جوگی دو چھوٹی روٹیاں تھیں، مجھے دیکھا تو فرمایا: ابویوسف! 40 سال سے یہ دو ٹکیاں ہی میری خوراک ہیں۔

## دنیا سے بے رغبتی صبر و شکر کا نام ہے:

﴿10685﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابیخواری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: ابو محمد! دنیا سے بے رغبتی کس چیز کا نام ہے؟ ارشاد فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی کو نعمت دے تو وہ اس پر شکر ادا کرے اور جب کسی کو مصیبت و آزمائش میں مبتلا کرے تو وہ صبر کرے، یہی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ میں نے عرض کی: ابو محمد! اگر کوئی نعمت پر شکر ادا کرے اور مصیبت کے وقت صبر بھی کرے مگر نعمت کو اپنے پاس روکے رکھے تو پھر وہ زاہد (یعنی دنیا سے بے رغبت) کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: چپ ہو جاؤ!



جسے مصیبت صبر کرنے سے اور نعمت شکر کرنے سے نہ روکے تو وہ زاہد ہے۔

﴿10686﴾... سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تمہارا ضروریات زندگی کو طلب کرنا دنیا کی محبت نہیں ہے۔

﴿10687﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خود کو یوں خیال کرو گویا دنیا میں تھے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے آخرت میں تھے اور گویا مرنے والوں میں تم سب سے آخری تھے اور اب مر چکے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے: بے شک انسان کی طرح دنیا کا بھی ایک وقت مقرر ہے جب اس کا وقت آجائے گا تو وہ بھی مر جائے گی۔

**دنیا سے بے رغبتی کی عظیم مثال:**

﴿10688﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دن کا کھانا رات کے لئے اور رات کا کھانا دن کے لئے بچا کر نہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے: ہر دن اور رات کے ساتھ اس کا رزق بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی گھر نہ تھا جو دیر ان ہو تا۔ کسی نے آپ سے عرض کی: آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ارشاد فرمایا: کیا میں عورت سے نکاح کروں جس نے مر جانا ہے؟ اور کسی نے پوچھا: آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرمایا: میں تو ایک مسافر ہوں۔

**حکمت کو ضائع ہونے سے بچاؤ:**

﴿10689﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: حکمت کے کچھ اہل ہوتے ہیں اگر تم کسی نااہل کو حکمت کی بات بتاؤ گے تو وہ ضائع ہو جائے گی اور اہل کو حکمت کی بات نہ بتاؤ گے تب بھی ضائع ہو جائے گی، طبیب کی طرح ہو جاؤ کہ وہ دوا اسی کو دیتا ہے جسے دینی چاہیے۔

**میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں:**

﴿10690﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہما السلام ایک بستی میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بستی کے بڑے لوگوں کا پتا

معلوم کیا جبکہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ہستی کے اچھے لوگوں کے متعلق پوچھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: آپ برے لوگوں کے پاس کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: میں طیب ہوں، بیماروں کا علاج کرتا ہوں۔

## سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتیں:

﴿10691﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں اس لئے تعلیم دیتا ہوں کہ تم بھی تعلیم دو، اس لئے نہیں کہ تم خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤ، اے زمین کے لئے نمک کی حیثیت رکھنے والو! تم خراب نہ ہونا کیونکہ جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اسے نمک ہی صحیح کرتا ہے اور نمک خراب ہو جائے تو اسے کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی اور تم جنہیں علم سکھاؤ ان سے وہی اجرت لینا جو میں نے تم سے لی ہے (یعنی اوروں کو تعلیم دینا)۔

﴿10692﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ کے محافظ اور علم کے چشمے بن جاؤ، اللہ عزوجل سے ایک ایک دن کا ہی رزق طلب کرو اور تمہارے لیے رزق کی کثرت نہ ہونا نقصان دہ نہیں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں ”کتاب اللہ“ کے بجائے ”علم کے محافظ بنو“ کے الفاظ ہیں۔

## عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟

﴿10693﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: عالم وہ نہیں جو اچھائی اور بُرائی کو جانتا ہو بلکہ عالم وہ ہے جو اچھائی کو جان کر اس کی پیروی کرے اور بُرائی کو جان کر اس سے بچے۔

﴿10694﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: علم کا پہلا درجہ غور سے سنا پھر خاموشی اختیار کرنا، پھر اسے یاد رکھنا پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا ہے۔

﴿10695﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں مسجد جایا کرتا تھا تو لوگوں کو

بنور دیکھتا اور ادھیر عمر اور بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور آج یہ بچے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اشعار کہے:

خَلَبَتِ الدِّيَارُ قَسْدَتْ غَيْدَ مُسَوِّدٍ وَصِنَ الشَّقَاءُ تَقَرُّدِي بِالسُّوِّدِ

ترجمہ: شہر خالی ہو گئے تو میں بغیر بنائے سردار بن گیا اور صرف میرا سرداری کے لئے بچ جاتا بد نصیبی کی بات ہے۔

## عالم ”لَا اَذْرِي“ کہنا نہ چھوڑے:

﴿10696﴾... حضرت سیدنا محمد بن صباح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”اِذَا تَرَكْتَ الْعَالَمَ لَا اَذْرِي اُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ“ یعنی جب کوئی عالم ”لَا اَذْرِي“ (یعنی میں نہیں جانتا) کہنا چھوڑ دیتا ہے تو ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے۔“

﴿10697﴾... حضرت سیدنا امام علی بن سید بنی علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے: مجھے ٹھیک طور پر معلوم نہیں۔ سوال کرنے والا کہتا: پھر کس سے پوچھا جائے؟ آپ فرماتے: علمائے کرام سے پوچھو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے توفیق کا سوال کرو۔

﴿10698﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو آب زم زم پیش کیا گیا تو آپ نے پیا اور اپنی دائیں جانب بیٹھے شخص کو بھی پلایا پھر فرمایا: اب زم زم خوشبو کی طرح ہے اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔

﴿10699﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ قلم ودوات جس کے گھر داخل ہو جائیں اس کے بیوی بچے مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔

## قرض سے زیادہ سخت:

﴿10700﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے، قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹائی نہیں جاسکتی۔

﴿10701﴾... حضرت سیدنا سلیمان بن داود رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن

عَبْدُ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ⑤ (پ: ۳۶، ق: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا: اہل جنت کی نگاہیں ابھی ایک چیز میں ہی ہوں گی کہ ایک اور چیز ان کے سامنے آجائے گی جسے ”مزید“ کہا جاتا ہے، جب یہ کھلے گی تو اتنے میں ایک اور چیز آجائے گی جس میں وہ پہلے مشغول نہ تھے چنانچہ وہ ان کے قریب ہوگی تو وہ ہکا کر کہیں گے: تو کون ہے؟ وہ کہے گی: میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ⑤ (پ: ۳۶، ق: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

﴿10702﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: دوزخ کو بطور رحمت پیدا کیا گیا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں۔

## دیہاتی کی مناجات:

﴿10703﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ آیا اور طوافِ کعبہ کرنے لگا تو میں بھی اس نیت سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ شاید یہ درست طریقے سے نہ کرے تو میں اسے سکھاؤں گا، میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا: الہی! میں تیری طرف نکلا ہوں اور مجھے تو نے ہی نکالا ہے، میں تیری طرف آیا اور مجھے تو ہی لایا ہے، میں تیرے صحن میں جھکا ہوں اور مجھے تو نے ہی جھکایا ہے، الہی! بہت سی آوازیں مختلف زبانوں میں چیخ چیخ کر تجھ سے اپنی حاجات کا سوال کر رہی ہیں اور میری حاجت یہ ہے کہ بڑی مصیبت کے وقت جب دنیا والے مجھے بھلا دیں تو تو مجھے یاد رکھنا۔

## شاعر کی شرارت:

﴿10704﴾... حضرت سیدنا حسن بن علی بن راشد واسطی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہمیں حدیث بیان کیا کرتے تھے ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں تھے اور ہم دروازے پر کھڑے تھے، ہم نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو ہمیں اجازت نہیں ملی اتنے میں محمد بن مناذر شاعر آیا

اور ہمیں کہا: اندر کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے اجازت مانگی تھی مگر نہیں ملی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ اشعار پڑھے:

بَعْدِي وَبِالْزَمَرِ وَالسَّلَفِ الْاَوَّلِ      بِهِمْ ثَبَتَتْ رِجْلَاكَ عِنْدَ التَّبَادِيرِ  
جَعَلْتَ مَوْلَاكَ الدَّهْرَ يَوْمًا بِصَالِحِ      وَيَوْمًا لِيَخْلُقَانِ وَيَوْمًا لِيَعَاتِمِ  
وَلِيَلْحَسِبِ الشَّخْصَانِ يَوْمًا وَدَوْنَهُمْ      خَفَضَتْ حُسَيْنًا دُونَ اَهْلِ النَّوَاسِمِ  
تَكَلَّوْثُ فَطَانِ الْفِكْرِ فَيْتَكَ فَلَمْ آخِذِ      تُدِيرُ دَسَى اِلَّا لِاَخِي الدَّاهِمِ

**ترجمہ:** (۱)... عمرو، زہری اور اگلے بزرگوں کے پاس تمہارا قیام رہا (۲)... تمہارا اگل زمانہ بھی رہا کہ ایک دن صالح، ایک دن خاقان، ایک دن حاتم (۳)... اور ایک دن حسن تختناخ کے پاس گزر جائے اور ان کے علاوہ مشہور لوگوں کو چھوڑ کر تم نے حسین کی محبت بھی اختیار کی (۴)... میں نے تمہارے بارے میں طویل غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ تمہارا دھڑا دھڑا آنا جاننا فقط درابم کی خاطر تھا۔ حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ ان ہاتھ میں لاشمی لیے باہر نکلے اور فرمایا: پکڑو اسے۔ مگر ابن مناذر وہاں سے کھسک گیا اور ہم نے اندر جا کر حضرت سے احادیث لکھیں۔

### نصیحت آموز شاعری:

﴿10705﴾... یحییٰ بن عثمان کا بیان ہے کہ ایک خراسانی شخص حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور آپ کی طرف دو درہم بھیجتے ہوئے کہا: مجھے ان کے بدلے حدیث سنائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اسے مارنے کے ارادے سے اٹھے تو آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو اور خود سر جھکا کر روٹا شروع کر دیا پھر یہ شعر کہا:

اعْمَلْ بِقَوْلِي وَانْ تَصْرَفْتَ فِي عَمَلِي      يَنْفَعَكَ قَوْلِي وَلَا يَضُرُّكَ تَقْصِيرِي

**ترجمہ:** میری بات پر عمل کر اگرچہ میرے عمل میں کوتاہی ہے، میری بات تجھے فائدہ دے گی اور میری کوتاہی تجھے کوئی نقصان نہیں دے گی۔

﴿10706﴾... حضرت سیدنا حکیم بن ابجر کی علیہ رحمۃ اللہ النول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اشعار کہتے سنا:

إِذَا مَا زَايَتْ النَّمْرُ يَقْتَادُهُ الْهَوَىٰ قَدْ تَكَلَّمَتْ عِنْدَ ذَاكَ تَوَكُّلُهُ  
وَقَدْ أَشْمَتَ الْأَعْدَاءَ جَهْلًا بِنَفْسِهِ وَقَدْ وَجَدَتْ فِيهِ مَقَالًا عَوَازِلُهُ  
وَلَنْ يَنْزِعَ النَّفْسَ الْمُنْعَوَمَ عَنِ الْهَوَىٰ مِنَ النَّاسِ إِلَّا دَاغِرَ الْعُقُلِ كَامِلُهُ

**ترجمہ:** (۱)... جب تم ایسے شخص کو دیکھو جسے خواہشات اپنے پیچھے چلا رہی ہوں تو یقیناً اس کے پاس رونے والیوں کو رونا چاہیے... اس نے لاعلمی میں اپنے اوپر دشمنوں کو بھسایا اور ملامت کرنے والوں کو اس کے بارے میں باتیں بنانے کا موقع مل گیا (۲)... سوال کے عادی نفس کو لوگوں میں سے کوئی بھی خواہش سے ہرگز نہیں روک سکتا سوائے بڑی اور کامل عقل والے کے۔ ﴿10707﴾... حضرت سیدنا ابی بنی ابو عمرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وزیر فضل بن ربیع اور اس کی عقل و ہوشیاری کا تذکرہ ہوا تو حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشعار کہے:

كَمْ مِنْ قَوِيٍّ قَوِيٍّ فِي تَقْلِيهِ مُهَذَّبِ الرَّأْيِ عَنْهُ الْبِزْقُ مُنْهَرِفٌ  
وَكَمْ ضَعِيفٍ ضَعِيفٍ الْعَقْلِ مُخْتَلِبٌ كَأَنَّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ يَفْتَرِفُ

**ترجمہ:** (۱)... بدلتے حالات میں بہت سے مضبوط اور اچھی رائے رکھنے والوں سے رزق دور ہو جاتا ہے اور (۲)... بہت سے کمزور عقل اور کھٹکھٹ میں رہنے والے ایسے ہوتے ہیں گویا وہ دریا سے نکالی نہر سے چلو بھر رہے ہیں۔ ﴿10708﴾... سفید بن داود بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب میں سے ایک شخص آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئے تو آپ نے پھر منہ پھیر لیا اور یہ اشعار پڑھے:

وَمَا يَلْبُثُ الْأَتَوَاثُرُ أَنْ يَسْفَرَتْوَا إِذَا لَمْ يُؤْلَفْ دُدُّهُ شَكْلٌ إِلَى شَكْلٍ  
أَبْنٍ لِي وَكُنْ مِثْلِي أَوْ ابْنِي مِثْلِي كَيْفَ لَكَ إِنْ أَبْتَنَيْتَ صَاحِبَنَا مِثْلِي

**ترجمہ:** (۱)... جب لوگوں کی ارواح ایک دوسرے سے مانوس نہ ہوں تو وہ لوگ جد اہونے میں ذرا توقف نہیں کرتے۔ (۲)... اپنا مقصد بتاؤ اور مجھ جیسے ہو جاؤ یا پھر اپنے جیسا مصاحب تلاش کرو بے شک مجھے اپنے جیسے مصاحب کی تلاش ہے۔

﴿10709﴾... حضرت سیدنا خاتون بن نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بڑھاپے میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتے:

يُحْيِي وَاحِدٌ قَيْغُرٌ قَتُومًا وَيُثْبِتُ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الصِّغَارِ

**ترجمہ:** ایک شخص جس عمر پاکر لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور کم عمری میں مرنے والا اٹھلادیا جاتا ہے۔

## مصائب کی ایک حکمت:

﴿10710﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر اللہ عزوجل تین چیزوں کے ذریعے انسان کی حیثیت کم نہ کرتا تو کوئی بھی چیز انسان کو قابو نہ کر سکتی وہ تین چیزیں لازمی طور پر انسان میں ہیں مگر پھر بھی بہت اچھلتا ہے: محتاجی، بیماری اور موت۔

﴿10711﴾... حضرت سیدنا ابو مخنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر علم نے تجھے فائدہ نہ دیا تو نقصان دے گا۔

﴿10712﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن ابی اسرائیل علیہ رحمۃ اللہ النویل نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: ابو محمد! لوگ دین و دنیا دونوں میں قحط کا شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے قحط میں پڑے ہیں کہ نہ کوئی آسودہ ہے نہ کوئی جائے پناہ ہے۔

## تین آیات طیبہ کی تفسیر:

﴿10713﴾... حضرت سیدنا بشر بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فرمان باری تعالیٰ:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۭ بِقَدَرِهَا

ترجمہ کنز الایمان: اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے۔

(پ: ۱۳، الرعد: ۱۷)

کی تفسیر میں فرمایا: مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے آسمان سے قرآن پاک نازل فرمایا تو لوگوں نے اپنی عقلوں کے مطابق اسے اٹھالیا۔

اور فرمان الہی:

كُلٌّ لَّكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ كُلُّمَا

ترجمہ کنز الایمان: اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال

ہے تو جھگ تو جھک کر دور ہو جاتا ہے۔

الرَّبُّ ذِيْذِكْرٍ جَبَّارٌ عَزِيزٌ (پ ۱۳، الرعد: ۷)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد بدعتیوں اور خواہش پرستوں کی باتیں ہیں۔ نیز اس فرمان باری تعالیٰ:  
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكْثُرُ فِي الْأَرْضِ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں

رہتا ہے۔

(پ ۱۳، الرعد: ۱۷)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے حلال اور حرام مراد ہے۔

﴿10714﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے: عقلمند اگر تھوڑی نصیحت سے فائدہ نہ اٹھائے تو زیادہ نصیحت سے بُرائی میں ہی اضافہ کرے گا۔

## محبت قرآن محبت الہی ہے:

﴿10715﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تم اس دین کی بلندی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک سب سے بڑھ کر اللہ عزّوجلّ سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ اللہ عزّوجلّ سے محبت کرتا ہے۔ تم سے جو کہا جاتا ہے اسے خوب سمجھ لو۔

﴿10716﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہی دعا کرتا رہتا تھا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حَسَنَ الظَّنِّ وَشُكْرَ الْعَاقِبَةِ یعنی اے اللہ عزّوجلّ میں تجھ سے اچھے گمان اور عاقبت کے شکر کا سوال کرتا ہوں۔  
بدترین جگہ:

﴿10717﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: وہ جگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ کئے بغیر وہاں سے چلا جائے۔

﴿10718﴾... (الف) حضرت سیّدنا ابو موسیٰ انصاری علیہ رحمۃ اللہ النہادی سے مروی ہے کہ حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ علمائے کرام فرماتے ہیں: جو اللہ عزّوجلّ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا وہ اپنے لیے کئی اپنی تدبیر پر بھی راضی نہیں رہتا۔

## مخلوق سے خیر خواہی کا درس:

﴿10718﴾... (ب) حضرت سیّدنا ابو عبد اللہ رازی علیہ رحمۃ اللہ النہادی فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدنا سفیان بن



عُبَيْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا کے لیے اُس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا تم پر لازم ہے کیونکہ اس سے افضل عمل کوئی نہیں جسے لے کر تم اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے ملو۔ تم ان کی خواہش پر خوش کیوں نہیں ہوتے، اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکار کر کہے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور میں (ابنِ عُبَیْدِیْنِہ) اکیلا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔

﴿10719﴾... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رازی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عُبَیْدِیْنِہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مجھ سے فرمایا: ابو عبد اللہ! نعمت پر شکر خداوندی یہ ہے کہ تو اس کی حمد کرے اور اس نعمت سے نیکی پر مدد حاصل کرے تو جس نے نعمتِ الہی سے گناہ پر مدد لی اس نے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا شکر ادا نہیں کیا۔

**عزت مال سے بڑھ کر ہے:**

﴿10720﴾... حضرت سیدنا احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عُبَیْدِیْنِہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کپڑا بننے کے کارخانہ میں آئے اور فرمایا: جو تم سے کہا جا رہا ہے غور سے سنو، یہ بات تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے مال سے کچھ لے لے پھر اس کی موت کے بعد اس سے دامن چھڑانا چاہے تو اس کے وارثوں کو وہ چیز دے دے ہمارے خیال میں یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر تم میں سے کوئی کسی کی عزت خراب کر دے پھر اس کی موت کے بعد اس کا بدلہ دینا چاہے تو اس کے وارثوں اور تمام زمین والوں کے پاس جائے اور سب اسے معاف کر دیں تو پھر بھی معاف نہیں ہو گا، پس مومن کی عزت اس کے مال سے بڑھ کر ہے۔ جو تم سے کہا جاتا ہے اسے سمجھو۔

﴿10721﴾... حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن یزید اسلمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عُبَیْدِیْنِہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گرد کافی لوگ بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ آپ کے سر پر آکر کھڑے ہوئے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلَ لِكْ  
فَلْيَفْزَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ يَّاجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اتنا پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے فرمایا: اے ابو علی! خدا کی قسم! بندہ اس وقت تک خوش نہ ہو گا جب تک قرآن پاک کی دوائے کر دل کے مرض پر نہ رکھ لے۔

﴿10722﴾... حضرت سیدنا احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ”الْأَوَابُ الْحَفِیْظُ“ (یعنی رجوع لانے والا نگہداشت والا۔ سورہ ق آیت: 32) کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ ہے جو اپنی مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ سے توبہ و استغفار نہ کر لے۔

## مؤمنین کے لیے انتہائی دعائیں:

﴿10723﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن عمر بن راشد تَشَیُّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے حصولِ علم میں خرچ کر دیا جب یہ بات حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تک پہنچی تو وہ میرے پاس آئے اور فرمایا: جو کچھ تمہارے پاس سے جا چکا اس پر افسوس مت کرنا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں پہلے رزق دیا گیا تھا تو اب بھی ملے گا۔ پھر فرمایا: تمہیں خوشخبری ہو تم تو بھلائی پر ہو، کیا تم جانتے ہو تمہارے لیے کس نے دعا کی ہے؟ میں نے کہا: کس نے؟ فرمایا: عرش اٹھانے والے فرشتوں نے۔ میں نے تعجب سے کہا: عرش اٹھانے والے فرشتوں نے۔۔۔؟ انہوں نے فرمایا: ہاں اور حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی تمہارے لیے دعا کی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا: حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی میرے لیے دعا کی ہے۔۔۔؟ انہوں نے کہا: ہاں اور حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے بھی تمہارے لیے دعا کی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے میرے لیے دعا کی ہے۔۔۔؟ انہوں نے کہا: ہاں اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی تمہارے لیے دعا کی ہے۔ میں نے حیرت میں ڈوب کر کہا: کیا حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی میرے لیے دعا کی ہے۔۔۔؟ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا؟

تَرْجُمَةُ کِتَابِ الْاٰیْمَانِ: وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔

یَسْتَغْفِرُونَ لِدِّیْنَ اٰمَنُوْا (پ ۲۳، المؤمن: ۷)

میں نے پوچھا: میرے لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہاں دعا کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے

اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَسَنَ دَخَلُ  
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

(پ: ۲۹، نوح: ۲۸)

میں نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کہاں کی ہے؟ فرمایا: کیا تم نے اللہ عزوجل کا

یہ فرمان نہیں سنا:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ  
يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

(پ: ۱۳، ابراہیم: ۳۱)

میں نے پوچھا: اللہ عزوجل کے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے

کہاں دعا کی ہے؟ آپ نے اپنے سر کو جھکا پھر فرمایا: کیا تم نے رب تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک نہیں سنا:

وَاسْتَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان

مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔

(پ: ۲۶، محمد: ۱۹)

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ عزوجل کے سب سے زیادہ فرمانبردار، رحم دل اور اُشت پر مہربان

ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل انہیں کوئی حکم دے اور وہ نہ کریں۔

علماء کی تین اقسام:

﴿10724﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیہ نے فرمایا: کہا جاتا

تھا کہ علماء تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک اللہ عزوجل کو جاننے والا، دوسرا اللہ عزوجل اور اس کے حکم کو جاننے والا

اور تیسرا اللہ عزوجل کے حکم کو جاننے والا، جو صرف اللہ عزوجل کے حکم کو جاننے والا ہے وہ طریقہ تو جانتا ہے مگر

اللہ عزوجل سے نہیں ڈرتا، جو صرف اللہ عزوجل کو جاننے والا ہے وہ اللہ عزوجل سے ڈرتا تو ہے مگر طریقہ نہیں

جانتا اور تیسرا جو اللہ عزوجل اور اس کے حکم دونوں کو جاننے والا ہے یہ طریقہ کو بھی جانتا ہے اور اللہ عزوجل سے

ڈرنا بھی ہے اسے آسمانی بادشاہتوں میں عظیم کہا جاتا ہے۔

**بد مذہب کے لیے رسوائی ہے:**

﴿10725﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: زمین میں جو بھی بد مذہب ہو گا ذلت

ورسوائی اسے گھیر لے گی اور یہ بات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ لوگوں نے عرض کی: قرآن مجید میں کہاں

ہے؟ فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا:

إِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْوَعْدَ سَبِيلًا لَهُمْ

غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا

(پ: ۹، الاعراف: ۱۵۲)

لوگوں نے کہا: ابو محمد! یہ تو پچھترے والوں (بنی اسرائیل) کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا: ہر گز نہیں، تم اس

کے بعد والا آیت کا حصہ پڑھو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُتَّقِیْنَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہالوں

(پ: ۹، الاعراف: ۱۵۲)

لہذا یہ ذلت قیامت تک ہر بہتان باندھنے والے اور ہر بد مذہب کے لئے ہے۔

﴿10726﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں اسے فقیہ نہیں سمجھتا جو لڑتا

جھگڑتا یا بے جا مخالفت کرتا ہو، فقیہ تو حکمت الہی پھیلاتا ہے اگر قبول کر لی جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد کرتا ہے اور

اگر قبول نہ کی جائے تب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد کرتا ہے۔

**حدیث کی عظمت:**

﴿10727﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جس نے حدیث طلب کی یقیناً اس

نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بیعت کر لی۔

﴿10728﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص قبلہ رو ہو کر حدیث

یاد کرے تو مجھے امید ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

## حکمت کیسے آتی ہے؟

﴿10729﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا ابو خالد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو فرماتے سنا کہ حکمت تین چیزوں سے آتی ہے: (۱)... خاموش رہنے (۲)... غور سے سننے اور (۳)... محفوظ رکھنے سے اور تین خصلتوں کی وجہ سے حکمت کا پھل ملتا ہے: (۱)... ہمیشہ کے گھر (جنت) کی طرف رجوع کرنے (۲)... دھوکے کے گھر (دنیا) سے دور ہونے اور (۳)... موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے سے۔

﴿10730﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: بے شک یہ علم جب بھی ایک برتن سے نکلتا ہے تو دوسرے میں چلا جاتا ہے۔

## علماء علم کے زیادہ محتاج ہیں:

﴿10731﴾... صاحب مغازی حضرت سیدنا احمد بن محمد بن ایوب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے پوچھا: علم کی زیادہ حاجت کسے ہوتی ہے؟ لوگ خاموش رہے، پھر عرض کی: ابو محمد! آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا: علم کی سب سے زیادہ حاجت علما کو ہوتی ہے، ان کا بے خبر و نادان ہونا سب سے زیادہ برا ہے کیونکہ لوگوں کی رسائی انہیں تک ہوتی ہے۔ اور ان ہی سے سوال کیا جاتا ہے۔

﴿10732﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تم جانتے ہو علم کی مثال کیا ہے؟ علم کی مثال دارالکفر اور دارالاسلام کی طرح ہے، اگر مسلمان جہاد چھوڑ دیں تو کافر حملہ کر کے اسلام ختم کر دیں گے اور اگر لوگ علم چھوڑ دیں تو جاہل ہو جائیں گے۔

## نصیحتوں بھرے مدنی پھول:

﴿10733﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک عقلمند سے پوچھا گیا: صبر کیا ہے؟ جواب دیا: وہ جو مصیبت پہنچتی ہی پایا جائے اور حالت وہی رہے جیسی مصیبت نازل ہونے سے پہلے تھی۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: سب سے افضل علم اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے احکام

کا علم ہے، بندہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حکم کو جان لیتا ہے تو مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حکم کو جاننے سے بڑھ کر بندوں کو کوئی نعمت نہیں ملی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حکم سے لاعلمی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ملی۔ مزید فرماتے ہیں: جب تجھے خاموش رہنا پسند ہو تو گفتگو کر اور جب تجھے گفتگو کرنا پسند ہو تو خاموش رہ۔ مزید فرمایا: جھگڑا چھوڑ دو کہ اس میں بہتری بہت کم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: کہا جاتا ہے کہ ”تمہارے لیے نیک دشمن بُرے دوست سے بہتر ہے۔ کیونکہ نیک دشمن کا ایمان اسے روکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ بات پہنچائے جبکہ برا دوست کچھ پروا نہیں کرتا کہ تمہیں کیا ہوتا ہے۔“ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ”جس نے قرآن پاک پڑھا اس سے نبوت و رسالت کی تبلیغ کے علاوہ ہر وہ سوال کیا جائے گا جو حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے ہو گا۔“

### سلام کرنے کا مطلب:

﴿10734﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک دانا شخص سے پوچھا گیا: آپ اور لوگوں سے بڑھ کر علم کے حریص کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا: اس لیے تاکہ ہم علم کے ذریعے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کا مطلب ہے، تو مجھ سے محفوظ رہ اور میں تجھ سے محفوظ رہوں۔ سامنے والا اسے جواب میں دے دیتے ہوئے کہتا ہے: وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللہِ وَبَرَکَاتُہُ، جب دو شخص ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ جدا ہونے کے بعد پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت وغیرہ کریں۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا نسیر رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے پوچھا: کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آکر آپ کو آپ کے عیوب بتائے؟ انہوں نے فرمایا: اگر وہ نصیحت کرنے والا ہو گا تو مجھے پسند ہے اور اگر وہ مجھے تکلیف دینے اور ڈانسنے کے ارادے سے ایسا کرے گا تو مجھے پسند نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: تم زندوں کی اسی چیز پر رشک کرو جس سے مردوں پر رشک کیا جاتا ہے اور مردے پر رشک صرف یہ ہوتا کہ جب کہا جاتا ہے: فلاں مر گیا اور پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔

﴿10735﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ایک عالم دین جب نماز پڑھتے تو یہ

دعا کرتے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔

## عقل مند کی توصفات:

﴿10736﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندگی کرنے میں عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور کوئی بھی شخص اس وقت تک عقلمند نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ دس صفات نہ ہوں، پھر انہوں نے توصفات بیان کیں: (۱)... وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو (۲)... اس سے بھلائی کی امید ہو (۳)... اسے عزت سے بڑھ کر ذلت محبوب ہو (۴)... محتاجی مالداری سے زیادہ پسند ہو (۵)... دوسرے کی تھوڑی نیکی کو بھی زیادہ سمجھے (۶)... اپنی زیادہ نیکی کو بھی تھوڑا خیال کرے (۷)... دنیا میں اس کا حصہ صرف غذا ہی ہو (۸)... پوری عمر طالب علم دین رہے اور سب سے آخری صفت جس کے ذریعے وہ اپنی بزرگی کو بڑھائے گا اور اس کا نام بلند ہو گا یہ ہے کہ (۹)... جب بھی کوئی اس سے ملے تو خود کو اس سے کمتر ہی تصور کرے۔

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ التَّحَرِّم نے فرمایا: نیک عمل وہ ہے جس پر تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ ہو۔

## عدل والے اور فضل والے:

﴿10737﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ اپنے ظاہر کو اچھا کر کے پیش کرے اور اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح اچھا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے اپنے ہاں انصاف کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اور رب تعالیٰ کے مابین کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے جسے لوگ نہیں جانتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے اپنے ہاں حد سے بڑھنے والوں میں سے لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے مخالف ہے، یونہی جب کوئی بندہ ظاہر کو اچھا بنا کر پیش کرے اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے اپنے ہاں فضل والوں میں لکھ دیتا ہے پھر اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جسے لوگ نہیں جانتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے فضل والوں سے ہٹا کر اہل عدل میں شامل فرما دیتا ہے مگر اسے حد سے بڑھنے والوں میں نہیں لکھتا کیونکہ اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تجارت کرتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی دلی حالت سے باخبر ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے کنارہ کش ہے اور کوئی لوگوں کے سامنے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار

کرتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل کو جانتا ہے کہ یہ دنیا کو پسند کرنے والا ہے۔

## بندے کے لیے کون سی حالت افضل ہے؟

﴿10738﴾... حضرت سیدنا عمر بن سَکَن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس تھا، اتنے میں بغداد کا رہنے والا ایک شخص کھڑا ہوا اور ان سے پوچھا: اے ابو محمد! مجھے حضرت مطہرؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس قول کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ”میں مصیبت میں مبتلا کیا جاؤں اور اس پر صبر کروں مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں اور شکر کروں۔“ کیا آپ کو یہ قول پسند ہے یا پھر ان کے بھائی حضرت ابو علاء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یہ قول کہ ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو جو بھی میرے لیے پسند کرے میں اس پر راضی ہوں۔“ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: مجھے حضرت مطہرؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بات زیادہ پسند ہے۔ اس شخص نے کہا: وہ کیسے حالانکہ حضرت ابو علاء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تو رضائے الہی میں راضی تھے؟ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۲۳﴾ (پ: ۲۳، ص: ۴۰) ترجمہ کنزالایمان: کیا اچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا۔

اور حضرت سیدنا ابوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے جو آزمائش میں مبتلا کئے گئے تو ان کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۲۴﴾ (پ: ۲۳، ص: ۴۲) ترجمہ کنزالایمان: کیا اچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا۔

دونوں کی ایک ہی صفت بیان ہوئی ہے جبکہ ایک صحت و سلامتی کے ساتھ تھے اور ایک آزمائش میں مبتلا کئے گئے، میں نے دیکھا کہ شکر صبر کے قائم مقام ہے اور جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ شکر کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ پسند آیا۔

﴿10739﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا: فخر و تکبر کو چھوڑو

اور لمبے عرصے تک قبر میں پڑے رہنے کو یاد کرو۔



## نیکیوں کے ساتھ رہنے کی دعا:

﴿10740﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر داءِ دین اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب تک تم اپنے نیکیوں کو پسند کرتے رہو گے بھلائی پر رہو گے اور جو تمہارے بارے میں کچی بات کہی جائے اسے پچھانو، ہلاکت ہے تمہارے لیے جب تمہارے درمیان عالم کی حیثیت مردار بکری کی طرح ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ عزوجل! ہمیں ہمارے نیکیوں کے ساتھ رکھ اور ہمارے بروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہم سب کو نیک بنادے اور ہمارا معاملہ بھی نیکیوں کے ساتھ فرما اور جب تو نیکیوں کو وفات دے دے تو ہمیں بھی ان کے بعد زندہ نہ رکھنا۔

## اصل زندگی اور حقیقی بقا:

﴿10741﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: پیلا جا پھینچا اور دوسرا تھکا ہارا ہانکا جا رہا ہے، بے پایاں انعامات اور چھن جانے کا سخت و زبردست وقت دونوں قریب آچکے ہیں لہذا جسے پیچھے چھوڑ جانا ہے اس کے بجائے جس کی طرف بڑھ رہے ہو اس کی اصلاح کرو، حق خالق عزوجل کے لیے اور شکر اسی انعام کرنے والے کے لیے ہے، اصل زندگی موت کے بعد اور حقیقی بقا قیامت کے بعد ہے۔

﴿10742﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عالم تھا اور دوسرا عابد، عالم نے عابد سے کہا: آخر کیا بات ہے آپ میرے پاس نہیں آتے حالانکہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ میرے علم کے محتاج ہیں؟ عابد نے کہا: مجھے تھوڑی بہت نیکی کرنی آتی ہے اور میں اسی پر عمل پیرا ہوں جب وہ میرے پاس سے ختم ہو جائے گی تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔

## نوجہاد نفس کے ساتھ ہیں:

﴿10743﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دل میں چھپی دشمنی حسد ہوتی ہے اور حسد سے برائی ہی نکلتی ہے اور جو بچ جائے وہ بھی دشمنی ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ حسد نہ ہو۔ کہا جاتا تھا: جہاد دس قسم کا ہے ایک جہاد دشمن کے ساتھ اور باقی نو تیرے اپنے نفس کے ساتھ۔

﴿10744﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اصحابِ حکمت کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کی مجلسِ غنیمت، ان کی صحبتِ سلامتی اور ان کی دوستی عزت ہے۔

﴿10745﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے اس آیتِ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ترجمہ کنز الایمان: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ (پ: ۱، النّٰبِئۃ: ۳)

تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مطلب یہ ہے کہ تم نیکی و پرہیزگاری کرو، اسی کی دعوت دو، اسی پر مدد کرو اور اسی کی طرف رہنمائی کرو۔

﴿10746﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: متقین کو متقین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچتے ہیں جس سے بچنا نہیں جاتا۔

﴿10747﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: نیکوکار اس وقت پہچانے جاتے ہیں جب انہیں یہ پسند ہو کہ نہ پہچانے جائیں۔

﴿10748﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: یہ کہا جاتا کہ ”تمہارے اندر برائی ہے۔“ اور وہ تم میں نہ ہو یہ کہے جانے سے بہتر ہے کہ ”تمہارے اندر بھلائی ہے۔“ اگرچہ وہ تم میں موجود ہو۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیتِ مبارکہ تلاوت کی:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبَرٌ لَّكُم  
ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے بُرا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ (پ: ۱، النور: ۱۱)

﴿10749﴾... حضرت سیدنا محمد بن صباح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو فرماتے سنا کہ تمہیں اپنے پاس آتا دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آتا ہے تو دل میں کہتا ہوں: یہ لوگ میرے پاس لیے آئے ہیں کہ یہ مجھے نیک سمجھتے ہیں۔

﴿10750﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزُلُ الرِّيحَةُ الْيُسْ

نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔

## نماز کی عزت و توقیر:

﴿10751﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مصیبتوں کو چھپانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ نیز فرمایا: برے غلام کی طرح نہ ہو کہ جب تک بلایا نہ جائے آتا ہی نہیں، اذان سے پہلے ہی نماز کے لیے آجایا کرو۔ آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے فرمایا ہے: اقامت سے پہلے نماز کے لیے آجانا نماز کی عزت و توقیر ہے۔

﴿10752﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الرضیم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ ہر بندے کے خلاف اللہ عزوجل کے پاس دلیل ہے یا تو بندے کے گناہ کرنے کی یا پھر کسی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کی۔

## علم عمل سے پہلے ہے:

﴿10753﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم نے یہ فرمان باری تعالیٰ نہیں سنا:

فَاعْلَمْ أَنَّمَا إِلَهُ الْإِلَهِ (الآلہ اللہ) (پ: ۲۶، محمد: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی ہندگی نہیں۔

دیکھو کہ پہلے علم سے ابتدا فرمائی پھر عمل کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (پ: ۲۳، المؤمن: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی گناہوں کی معافی چاہو۔

اور وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دینا ہے کہ اللہ عزوجل اسی کے سبب مغفرت فرمائے گا جس نے یہ کہا وہ بخش دیا گیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوبُوا أَيْغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (پ: ۹، الانفال: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزر اورو انہیں معاف فرمادیا جائے گا۔

اور فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں

جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔

(پ: ۹، الانفال: ۳۳)

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ایک مانتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا:

إِسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾

(پ: ۲۹، نوح: ۱۰)

اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی اسے ایک مانو اور علم عمل سے پہلے ہے، کیا یہ فرمانِ عالی نہیں دیکھتے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ  
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ  
كَمَثَلٍ عَيْنُثٍ أَعْجَبَ الْكَافِرَ تَبَأْتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ  
فَتَرَاهُ مُصْفًى ثُمَّ يَكُونُ حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ  
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُوفِ ﴿۱۰﴾ سَابِقُوا  
إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ  
وَالْأَرْضُ مَرْضٍ ﴿۱۱﴾ (پ: ۲، الخدیج: ۲۰، ۲۱)

پھر یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

(پ: ۹، الانفال: ۲۸)

پھر اس علم کے بعد عمل کا حکم فرمایا:

فَاحْذَرُواهُمْ ﴿۱۲﴾ (پ: ۲۸، الصافات: ۱۳)

یوں ہی ایک اور مقام پر علم کے بعد عمل کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ  
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿۱۰﴾ (پ: ۱۰، الانفال: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا  
معاف فرمانے والا ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود  
اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑھائی مارنا اور مال اور اولاد میں  
ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس مینہ کی طرح جس کا گایا سبزہ  
کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر روندن (پاگل)  
کیا ہو! ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف  
سے بخشش اور اس کی رضا اور دنیا کا پھینا تو نہیں مگر دھوکے کا  
مال بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف  
جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ۔

ترجمہ کنزالایمان: اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری  
اولاد سب فتنہ ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: تو ان سے احتیاط رکھو۔

ترجمہ کنزالایمان: اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا  
پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قربات والوں اور یتیموں  
اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔

﴿10754﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوفاً نے فرمایا: عالم کا ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

## 10 ہزار آوازیں:

﴿10755﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ عزوجل! تو جانتا ہے کہ جب بھی مجھے دو کام درپیش ہوئے جن میں سے ایک میں تیری رضا اور دوسرے میں میری خواہش تھی تو میں نے اپنی خواہش پر تیری رضائی کو ترجیح دی ہے۔ اتنے میں بادلوں میں سے 10 ہزار آوازیں آئیں: اے ایوب! ایسا تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر مٹی ڈالی پھر عرض کی: تو نے اے میرے رب! تو نے۔

## قناعت و رضادالے:

﴿10756﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: مجھے اپنی حاجت بتائیے۔ انہوں نے فرمایا: چلو ہوا میں اپنی حاجت اس کی بدگاہ میں پیش کر چکا ہوں جس کے سوا کہیں اور حاجتیں جمع نہیں ہوتیں، تو اس نے جو کچھ مجھے عطا کیا میں نے اس پر قناعت کی اور جو مجھے سے دور رکھا میں اس پر راضی رہا۔ مزید فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاکم مدینہ کے پاس گئے تو اس نے کہا: کلام فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اپنے دروازے پر آنے والے لوگوں میں غور کرو اگر تم نیک لوگوں کو قریب کرو گے تو شریر لوگ دور ہو جائیں گے اور اگر شریروں کو قریب کرو گے تو نیک دور ہو جائیں گے۔

﴿10757﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوفاً کے آنسو خشک ہونے کو نہیں آرہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کہا جاتا ہے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے ایک تکلیف دہ سانس بھری۔

## احکام کون نافذ کر سکتا ہے؟

﴿10758﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ عزوجل کے حکم کو وہی قائم کرتا ہے جو نہ زری کرے نہ بناوٹ

ودکھلاوا کرے اور نہ خواہشات کے پیچھے چلے۔

﴿10759﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: ہائے اس بات پر غم کہ مجھے کوئی غم نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے خیال میں وہ شخص آپ ہی ہیں۔

﴿10760﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: تم ہمیشہ کے لیے پیدا کئے گئے ہو بس ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کئے جاؤ گے۔

## دن تین ہی ہیں:

﴿10761﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ دن تین ہی ہیں ایک گزشتہ کل حکمت والادن تھا جو چلا گیا اور اپنی حکمت تمہارے پاس چھوڑ گیا، دوسرا آج کا دن جو رخصت ہونے والا دوست ہے جو لمبا عرصہ چھپ کر تجھ سے محبت کرتا رہا حتیٰ کہ یہ خود تمہارے پاس آگیا، تم اس کے پاس نہیں گئے اور یہ بہت جلد تمہیں چھوڑ جائے گا اور تیسرا دن آنے والا کل ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ تم اسے پاس کو گے یا نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تم پر بیچ بولنا لازم ہے اگر تم میں سے کوئی سچ کو اپنے لیے ہلاکت خیز گمان کرے تو بے شک وہی اس کے لیے سب سے بڑا نجات دہندہ ہے۔

﴿10762﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جو بندہ 40 دن تک اللہ عزوجل کے لیے خالص عمل کرے تو اللہ عزوجل اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے اور اسے اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے اور اسے دنیا کے عیوب ان کی بیماریوں اور علاج کے ساتھ دکھا دیتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں: تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ برے بادشاہ ہیں۔ اور وہ علم ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔

## نعمت کیوں دی جاتی ہے؟

﴿10763﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: شکر گزار وہ ہے جو جانتا ہو کہ اللہ عزوجل نے خاص طور پر یہ نعمت مجھے اس لیے دی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں کتنا شکر اور کتنا صبر کرتا ہوں۔

﴿10764﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زہری علیہ

حُسنَةُ اللہِ اُولٰٓئِیْہِ سے پوچھا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جس کے شکر پر حلال اور جس کے صبر پر حرام غالب نہ آئے۔

﴿10765﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: بچھلے سالوں میں گزرے ہوئے بُرے لوگ تمہارے آج کے بھلے لوگوں سے بہتر تھے۔

﴿10766﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت سیدنا ابواسحاق قرظاری رضی اللہ عنہ سے کہا: اے شیخ! عرب میں آپ کا کافی مقام و مرتبہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: قیامت کے دن یہ مقام و مرتبہ اللہ عزوجل کے سامنے مجھے کچھ کام نہ دے گا۔

### شدید ترین حسرت والے:

﴿10767﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کو شدید ترین حسرت ہوگی: (۱)... وہ شخص جس کا غلام قیامت کے دن اس سے اچھے عمل لے کر آئے گا۔ (۲)... وہ شخص جو دنیا میں مالدار تھا مگر اس نے اپنے مال سے صدقہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد جو اس کا وارث بنا اس نے اُس مال سے صدقہ کیا اور (۳)... وہ شخص جس نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا مگر دوسرے نے اس سے سیکھا اور نفع اٹھایا۔

﴿10768﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طالبانِ حدیث کی کثرت و یکبھی تو فرمایا: ایک تہائی بادشاہ کے پیچھے ہو لیں گے، ایک تہائی فلاح نہیں پائیں گے اور ایک تہائی مرجاں گے۔

﴿10769﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو اپنے دوستوں کی مذمت کرتے سنا تو فرمایا: دوستوں کی آپس کی ایک صحبت کتنے جیسی بھی ہوتی ہے اگر تم اس سے بچ سکتے ہو تو بچو۔

﴿10770﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: دوستوں سے بھلائی کرنا ان کی دشمنی سے بچنے کا قلعہ ہے۔

﴿10771﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: آدمی تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے اور حرام کے درمیان حلال کو آڑ نہ بنا لے اور جب تک گناہ اور گناہ سے مشابہ کام کو نہ چھوڑ دے۔

﴿10772﴾... حضرت سیدنا سفیان علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: دعا قبول نہ ہونے کے مقابلے میں مجھے اس بات سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں دعا ہی سے منع نہ کر دیا جاوے۔  
گناہ غم میں مبتلا کرتا ہے:

﴿10773﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ النبی نے فرمایا: بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔

﴿10774﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ایک شخص نیکی ہی کرتا رہے کبھی گناہ نہ کرے تو (نیکی پر اترنے کی وجہ سے) یہ نیکی گناہ سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے اور کوئی شخص گناہ ہی کرتا رہے کبھی نیکی نہ کرے تو (گناہ پر خوف و ندامت کی وجہ سے) یہ نیکی سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔

﴿10775﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن مغفل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا: اے سفیان! جس زمانے میں لوگ تیرے محتاج ہوں گے یقیناً وہ برا زمانہ ہو گا۔  
﴿10776﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے 80 مرتبہ وقوف عرفہ کیا ہے (یعنی 80 حج کیے ہیں)۔

**جان پہچان کم رکھو:**

﴿10777﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عابد و زاہد بزرگ حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا: اے سفیان! لوگوں سے جان پہچان کم رکھو تا کہ کل قیامت میں جب تمہیں تمہارے برے اعمال کے ساتھ بلایا جائے تو تمہاری رسوائی کم ہو۔

﴿10778﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مساور وثراق علیہ رحمۃ اللہ الوراق کو فرماتے سنا: کم لوگوں والی مجلسیں ہی پاک ہوتی ہیں۔

﴿10779﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا مسغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ایک شخص نے سمندری سفر کیا تو اس کی کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک جزیرے میں جا پہنچا اور وہاں



تین دن تک ایسے گزرے کہ نہ اسے کوئی نظر آیا نہ اس نے کچھ کھایا یا پھر یہ شعر کہنے لگا:

إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلَهُ وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّيْلِ الْحَبِيبِ

**ترجمہ:** جب کوا جوان ہو جائے گا اور تار کو ل تازہ دھوئے ہوئے دودھ کی طرح ہو جائے گا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا۔

غیب سے کسی نے جواب دیتے ہوئے یہ شعر کہا:

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَهْمَيْتَ فِيهِ يَكُونُ زَرَأَهُ قَرِيبٌ

**ترجمہ:** امید ہے جس تکلیف میں تو نے کل بسر کی ہے اس کے بعد غمخیز کوئی فراموشی و کشادگی ہو۔ اتنے میں اس نے دیکھا تو ایک کشتی آرہی تھی، اس نے کشتی والوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے اسے سوار کر لیا۔ چنانچہ اسے بہت بھلائی نصیب ہو گئی۔

## کس عورت سے نکاح کیا جائے؟

﴿10780﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا: اے ابو محمد! میں آپ سے اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا ہوں، میں اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر ذلیل و حقیر ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر فرمایا: تم نے اپنی عزت میں اضافے کے لئے اس میں رغبت کی ہو گی؟ اس نے کہا: ابو محمد! بات تو یہی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو عزت تلاش کرنے گیا وہ دولت میں مبتلا ہوا، جو مال کی طرف بڑھا وہ محتاج ہوا اور جو دین کی طرف بڑھا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے دین کے ساتھ ساتھ مال اور عزت بھی عطا فرمادیا۔ پھر اسے اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا: ہم چار بھائی تھے، محمد، عمران، ابراہیم اور میں، محمد سب سے بڑے، عمران سب سے چھوٹے اور میں درمیانہ تھا، محمد نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو عمدہ خاندان کی طرف راغب ہوا یوں اس نے خود سے اعلیٰ خاندان والی سے شادی کر لی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ذلت میں مبتلا کر دیا، عمران مال کی طرف راغب ہوا تو خود سے زیادہ مالدار عورت سے شادی کر لی تو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فقر و محتاجی میں مبتلا کر دیا، اس کے پاس جو کچھ تھا سسرال والوں نے لے لیا اور اسے کچھ بھی نہ دیا، میں ابھی باقی تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا منعم بن راشد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ اب بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے ان سے مشورہ کیا اور اپنے بھائیوں کا قصہ بھی ان کے گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے حضرت سیدنا یحییٰ بن جعدہ اور اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث بیان کی حضرت سیدنا یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم، رسولِ مہتمم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عورت سے چار باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے دین، اس کے حسب (خاندانی شرافت)، اس کے مال اور اس کے جمال کی وجہ سے پس تم پر لازم ہے کہ دین دار سے شادی کرو والد ار ہو جاؤ گے۔“<sup>(۱)</sup> جبکہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث یہ ہے کہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عورتوں میں سب سے زیادہ برکت والی وہ ہوتی ہے جس کا حق مہر کم ہو۔“<sup>(۲)</sup> چنانچہ میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے دین کو اور کم بوجھ والی کو اختیار کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دین کے ساتھ ساتھ مجھے عزت اور مال بھی عطا فرمادیا۔ ﴿10781﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: قول و عمل ایمان ہے۔ پوچھا گیا: کیا ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے؟ فرمایا: ہاں، پھر زمین سے ذرہ اٹھایا اور فرمایا: اتنا گھٹتا ہے کہ اس بتنا بھی نہیں رہتا پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

فَوَازَظُّمُ اَیْسَانًا (پ: ۱۱، التوبہ: ۱۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی۔

## عاجزی و انکساری:

﴿10782﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں مسجد جایا کرتا تو لوگوں کو غور سے دیکھتا جہاں مجھے بوڑھے یا بڑی عمر کے لوگ نظر آتے میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا جبکہ آج مجھے ان بچوں نے گھیر رکھا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا:

خَلَّتِ الدِّیَارُ قَسْدَتْ غَیْرُ مُسَوِّدٍ وَ مِنْ الشَّقَاءِ تَقَرَّرَتْ بِالْمُسَوِّدِ

ترجمہ: شہر خالی ہو گئے تو میں بغیر بنائے سردار بن گیا اور صرف میرا سرداری کے لئے بچ جانا بد نصیبی کی بات ہے۔

①...مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح ذات الدین، ص ۷۷۲، حدیث: ۱۴۶۶، عن ابی ہریرۃ

②...سنن کبریٰ للنسائی، کتاب عشرة النساء، باب بركة المرأة، ۳۰۲/۵، حدیث: ۹۲۷۴

﴿10783﴾... حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس آئے اور حدیث لینے والوں کو دیکھ کر فرمایا: کیا آپ لوگوں میں کوئی مصرعے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ آپ نے پوچھا: وہاں نیش بن سعد کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا: کیا تم میں سے کوئی رملہ کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے پوچھا: وہاں حنظلہ بن ربیعہ زہلی کو کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا: کیا تم میں کوئی عتص کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: یقینہ بن ولید کو کیا ہوا؟ جواب ملا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ پھر پوچھا: کوئی اہل دمشق میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: تو ولید بن مسلم کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: وہ بھی وصال فرما چکے۔ پھر پوچھا: کوئی قیساریہ کا رہنے والا بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ فرمایا: محمد بن یوسف فریابی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: وہ بھی انتقال فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی دیر تک روتے رہے پھر یہ شعر کہا:

خَلَّتِ الدِّيَارُ فَسَدَتْ غَيْرُ مُسَوِّدٍ وَفِي السَّعَادِ تَفَرَّدَتْ بِالسُّودِ

**ترجمہ:** شہر خالی ہو گئے تو میں بغیر بنائے سردار بن گیا اور صرف میرا سرداری کے لئے بچا جانابا نہ نصیبی کی بات ہے۔

﴿10784﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (پ: ۱۳، النحل: ۹۰) ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی (کا)۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد فضل ہے۔ پوچھا گیا: اللہ عزوجل نے خود کو مومن کس وجہ سے فرمایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: عبادت کے سبب اس کے عذاب سے امن ہو گا۔

**سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا توکل و یقین کا مل:**

﴿10785﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میں ہر مہینے بیٹ المال کو تقسیم کیا کروں گا، نہیں بلکہ ہر ہفتے بانٹ دیا کروں گا۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: امیر المؤمنین! اگر آپ بیٹ المال سے کچھ بچا کر رکھیں تو ہو سکتا بعد میں کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جہاں اس کی ضرورت ہو گیا

معلوم مسلمانوں پر کوئی آفت آجائے تو کچھ تو پیچھے ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ بات شیطان نے تمہاری زبان پر ڈالی ہے، اللہ عزوجل نے مجھے اس کی حجت تلقین فرمائی ہے اور مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھا ہے، ایسی باتیں میرے بعد والوں کے لیے یقیناً فتنہ ہوں گی، کیا میں آنے والے سال کے خوف سے موجودہ سال اللہ عزوجل کی نافرمانی کروں؟ بلکہ میں ان کے لیے وہی تیاری کروں گا جیسی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے  
نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا  
جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ (پ: ۲۸، الطلاق: ۳، ۲)

## اخلاقی خوبیاں لانے والے:

﴿10786﴾... فرمان باری تعالیٰ ہے:  
لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱﴾ (پ: ۱، الانبیاء: ۱۰۰)

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اخلاقی خوبیوں کے ساتھ قرآن پاک حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، پس وہ انہیں خوبیوں سے بلند ہوتے ہیں اور انہیں کے سبب ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وہ خوبیاں یہ ہیں: پڑوسی سے اچھا برتاؤ، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا، تمہارے پاس اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اخلاقی خوبیوں کے ساتھ آئے ہیں جن کے ذریعے تم بلند اور عظیم ہوتے ہو تو دیکھو کیا وہ کوئی ایسی بری خصلت لائے ہیں جسے تم بُرے اخلاق سے شمار کرتے اور عیب دار سمجھتے ہو؟ کیا انہوں نے بُرے کو بُرا اور اچھے کو اچھا نہ کہا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تمہارا دین قرآنی اخلاق تم پر لازم کئے ہوئے ہے۔

## ذکرِ مصطفیٰ کی بلندی:

حضرت سیدنا امام مجاہد رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ:

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۳۰﴾ (پ: ۳۰، الم: شرح: ۳)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، پھر آپ نے یہ پڑھا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ﴿10787﴾... حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ مَکَہ شریف تشریف لائے تو وہاں اہل منکر کا ایک شخص فتویٰ دیا کرتا تھا، آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے بھی وہاں فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ ادھر ان منکداری نے کہا: معلوم کیا جائے کہ یہ کون ہے جو ہمارے شہر میں آکر فتویٰ دینے لگا ہے۔ حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے انہیں لکھا: مجھے حضرت سیّدنا عمرو بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُمَا کے حوالے سے بیان کیا کہ توریت شریف میں لکھا ہے: ”میرے جیسے کام کرنے والا میرا دشمن ہے۔“ اس کے بعد منکداری آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کو کچھ کہنے سے باز آ گئے۔

### حکایت: پیٹ میں چھپنے والا سانپ

﴿10788﴾... مکہ مکرمہ میں حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے پاس کافی لوگ جمع تھے تو آپ نے ایک شخص سے کہا: لوگوں کو سانپ والا قصہ سناؤ۔ اس شخص نے بیان کیا کہ ایک آدمی شکار کرنے نکلا تو اس کی سواری کے اگلے پاؤں کی انگلیوں سے ایک سانپ نکل کر سامنے آگیا اور اپنی دم پر کھڑے ہو کر کہنے لگا: مجھے بچاؤ اللہ عَزَّ وَجَلَّ تمہیں بچائے گا۔ اس آدمی نے پوچھا: تو کون ہے؟ سانپ نے کہا: میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ آدمی نے پوچھا: میں تجھے کس سے بچاؤں؟ سانپ بولا: اس سے جو تمہاری پیٹھ پیچھے ہے اگر وہ مجھ تک پہنچ گیا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آدمی نے پوچھا: میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ سانپ بولا: اپنے پیٹ میں۔ چنانچہ آدمی نے اپنا منہ کھولا تو سانپ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کی گردن میں لوہا تھا، اس نے آتے ہی کہا: اے اللہ کے بندے! تیری سواری کے پیروں سے کوئی سانپ نکلا ہے؟ اس نے کہا: میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آنے والے نے کہا: یہ تم کتنی عجیب بات کہہ رہے ہو۔ اس آدمی نے پھر کہا: میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ چنانچہ وہ آنے والا واپس چلا گیا تو سانپ باہر آگیا اور اس آدمی سے پوچھا: تم نے اس آدمی کا جش اور کالا پن دیکھا ہے؟ آدمی بولا: نہیں۔ سانپ بولا: اب میری دو باتوں میں سے ایک تجھے

مانی پڑے گی یا تو میں تیرے دل میں چسید کر کے تجھے قتل کر دوں یا پھر تیرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اس آدمی نے کہا: یہ تو مجھے کیسا بدلا دے رہا ہے؟ سانپ بولا: جسے تو جانتا نہیں اس کے ساتھ بھلائی کیوں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تیرے جدا محمد (حضرت سیدنا آدم علیہ السلام) کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسی دوران ایک شخص پھاڑ سے نیچے آیا، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی شے نہیں تھی، اس کی خوشبو سے اچھی کوئی خوشبو نہیں تھی اور اس سے صاف ستر لباس بھی کبھی کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ اس نے آکر اس آدمی سے پوچھا: تم ایسے خوفزدہ کیوں ہو؟ اس آدمی نے سانپ والی ساری بات اسے بتائی تو اس نے اسے کچھ دیا اور کہا: کھا جاؤ۔ اس آدمی نے جیسے ہی وہ چیز کھائی اس کے ہونٹ تھر تھرانے لگ گئے۔ اس خوبصورت آدمی نے ایک اور چیز دیتے ہوئے کہا: یہ بھی کھا جاؤ۔ اس آدمی نے وہ چیز کھائی تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا نکلا پھر اس نے خوبصورت آدمی سے پوچھا: اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں بھلائی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی آنکھوں سے او جھل ہو گیا۔

### حکایت: حسنِ سلوک ضائع نہیں ہوتا

﴿10789﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن عبد الحمید حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اس وقت کم و بیش ایک ہزار افراد آپ کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دائیں جانب مجلس کے آخر میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو سانپ والا قصہ بتاؤ۔ اس شخص نے کہا: مجھے سہارا دو۔ چنانچہ ہم نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو اس کی پٹلیں جھینگ گئیں، پھر اس نے کہا: خبردار! غور سے سنو اور یاد کر لو میرے دادا نے میرے والد کو اور والد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ محمد بن حنفیہ نامی ایک آدمی تھا جو کہ بہت نیک تھا، دن میں روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا تھا اور شکار کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا تو اچانک اس کے سامنے سانپ آگیا اور کہنے لگا: اے محمد بن حمیر مجھے بچاؤ اللہ عزوجل تمہیں بچائے۔ محمد بن حمیر نے پوچھا: کس سے بچاؤں؟ سانپ نے کہا: میرے دشمن سے جو مجھے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا: تیرا دشمن کہاں ہے؟ سانپ بولا: میرے پیچھے ہے۔ اس نے پوچھا: تو کس اُمت سے ہے؟ سانپ بولا: اُمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد بن حمیر نے بتایا کہ میں نے کہا: میں اپنی چادر کھولتا ہوں تو اس میں آجا۔

سانپ بولا: میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ میں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے اور کہا: میرے کپڑوں میں آجا۔ اس نے کہا: میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ میں نے پوچھا: پھر میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ سانپ بولا: اگر تم بھلائی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھول دو تا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے کہا: مجھے ڈر لگ رہا ہے تم مجھے قتل کر دو گے۔ سانپ بولا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کے فرشتے، اس کے انبیاء، عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمان پر رہنے والے میری اس بات پر گواہ ہیں کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی قسم پر مطمئن ہو کر اپنا منہ کھول دیا تو وہ میرے منہ میں داخل ہو گیا۔ پھر میں آگے بڑھا تو مجھے ایک آدمی ملا اس کے پاس تیز تلوار تھی اس نے مجھ سے کہا: اے محمد! میں نے کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: کیا تم میرے دشمن سے ملے ہو؟ میں نے کہا: تمہارا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا: ایک سانپ ہے۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! نہیں۔ پھر میں نے اس انکار پر اپنے رب کی بارگاہ میں سو سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سانپ کہاں ہے؟ اس کو جواب دے کر میں آگے بڑھا تو سانپ نے میرے منہ سے اپنا سر باہر نکال کر کہا: ذرا دیکھنا کیا دشمن چلا گیا؟ میں نے مز کر دیکھا تو کوئی آدمی نہیں تھا، میں نے کہا: مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا اگر تم نکلنا چاہو تو نکل جاؤ۔ اس نے کہا: کچھ دیر انتظار کرو۔ میں نے صحرا میں نگاہیں دوڑائیں تو مجھے کوئی سایہ، کوئی واضح چیز اور انسان دکھائی نہ دیا، میں نے کہا: اگر تم نکلنا چاہو تو نکل جاؤ کیونکہ مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا: اے محمد! ابھی نکلتا ہوں تم دو میں سے ایک بات کو اختیار کر لو۔ میں نے کہا: وہ کیا؟ اس نے کہا: میں تمہارا جگر چاک کر کے تمہارے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا تمہیں پھل کر بغیر روح کا جسم کر چھوڑ دوں؟ میں نے کہا: واہ مَنِحْنِ اللہ! وہ وعدہ کہاں گیا جو تم نے مجھ سے کیا تھا؟ وہ عہد کہاں گیا جو تمہارا مجھ سے ہوا تھا؟ کہاں گئی وہ قسم جو تم نے میرے لئے کھائی تھی؟ تم نے کتنی جلدی اسے بھلا دیا۔ اس نے کہا: اے محمد! تم نے اس دشمن کو کیوں بھلا دیا جو میرے اور تمہارے باپ حضرت آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کے مابین تھی جب میں نے انہیں راہ بھلا کر جنت سے علیحدہ کر دیا تھا، پھر میں کیسے اچھا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا: کیا ضروری ہے کہ تم مجھے قتل ہی کرو؟ اس نے کہا: خدا کی قسم! تمہیں قتل کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا: تو مجھے کچھ مہلت دے تا کہ میں اس پہاڑ کے نیچے اپنے لئے کسی جگہ قبر کھود لوں۔ اس نے کہا: اپنا کام کر لو۔ پھر میں اپنی زندگی سے مایوس ہو

کر پہاڑ کی طرف چل پڑا، اسی دوران میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا:

يَا لَطِيفُ الْاَلْفِ بِاَلْفٍ يَا لَطِيفُ بِالْقُدْرَةِ اَلَّتِي اسْتَوْنَتْ بِهَا عِلٌّ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَعْلَمْ الْعَرْشُ اَيْنَ مُسْتَقَرُّكَ مِنْهُ اِلَّا كَفَيْتَنِيهَا یعنی اے لطیف! تجھ پر اپنا پوشیدہ لطف و کرم فرما، اے لطیف! میں تیری قدرت کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر (اپنی شان کے مطابق) استواء فرمائے ہوئے ہے اور عرش بھی نہیں جانتا کہ تیرا ٹھکانا کہاں ہے؟ پس اس سانپ سے میری حفاظت فرما۔ پھر میں چلنے لگا تو مجھے ایک نیک شخص ملا جس کا چہرہ روشن، جسم میل پکیل سے پاک اور خوشبو سے مہک رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا: مجھے آپ کا رنگ بدلا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا: اے میرے بھائی! ایک دشمن کی وجہ سے جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس نے پوچھا: تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے کہا: میرے پیٹ میں۔ اس نے کہا: اپنا منہ کھولو، میں نے اپنا منہ کھولا تو اس نے میرے منہ میں زیتون کے پتے جیسی کوئی سبز چیز رکھ دی اور کہا: اسے چبا کر نگل لو۔ میں نے اسے چبا کر نگل لیا، تھوڑی ہی دیر میں میرے پیٹ میں مروڑاٹھا اور میرے نیچے کے راستے سے سانپ نکلے نکلے ہو کر گرنے لگا، پھر میں اس شخص سے لپٹ گیا اور کہا: اے میرے بھائی! میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ پر تمہارے ذریعے احسان فرمایا۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہا: کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا: بھلا! نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا: اے محمد بن حمیر! جب تمہارے اور اس سانپ کے مابین معاملہ ہوا اور پھر تم نے وہ دعا کی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں با آواز بلند دعائیں کرنے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میری عزت و جلال، میرے جو دو کرم اور میری بلند شان کی قسم! میں نے وہ سارا معاملہ دیکھا ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے حکم دیا کہ ”جنت میں جا اور بتوں کا چٹھالے اسے لے کر میرے بندے محمد بن حمیر کے پاس پہنچ۔“ مجھے نیکی کہا جاتا ہے اور میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ اے ابن حمیر! حسن سلوک کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ بڑی موت سے بچاتا ہے اور جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اگرچہ وہ اسے ضائع کر سکتا ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں یہ ضائع نہیں ہوتا۔

خیر خواہی کی فضیلت:

﴿10790﴾... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رازی علیہ رحمۃ اللہ التواہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان، بن عیینہ



بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نَے فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر مخلوق کی خیر خواہی کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کے وقت تمہارے پاس اس سے افضل عمل ہرگز نہ ہوگا۔ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آکر مجھے یہ خبر دے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں صرف میں جاؤں گا تو میں اس پر بھی راضی ہو جاؤں گا۔

### مسائل بتانے میں احتیاط:

﴿10791﴾... حضرت سیدنا مروان بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفُتُوحِیَّانِ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا: ابو محمد! ایسا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر ہونے والی بات ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو کس پر عمل کیا جائے گا؟

﴿10792﴾... حضرت سیدنا مروان بن محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے پاس بیٹھے ایک ضعیف العمر شخص سے فرمایا: اے شیخ! مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اپنے شہروں میں فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں ابو محمد! آپ نے ٹھیک کہا۔ فرمایا: خدا کی قسم! تم بہت نادان ہو۔

﴿10793﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابوداؤد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ نمازِ جنازہ پڑھی پھر ایک شخص نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے نہیں معلوم۔“ اور ایک مرتبہ ہم مسجد الحرام میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا: ابو محمد! ہم جہاد کے لئے روم جاکیں تو کیا جنگی ساتھ لے جاسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ سوال ثنائی علمائے کرام سے کرو کیونکہ وہ اس بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔

### ترتیب احکام اور مسلمانوں کا عمل:

﴿10794﴾... حضرت سیدنا عمرو بن عثمان رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی: ابو محمد! ایمان کے گھنے بڑھنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: جتنا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ چاہے ایمان بڑھتا ہے اور گھٹاتا ہے کہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ نہ رہے <sup>(۱)</sup> یہ فرماتے ہوئے آپ نے تین انگلیاں بند کر کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنالیا۔ اس

۱... اس کے متعلق حاشیہ روایت نمبر: 9456 کے تحت گزر چکا ہے۔

شخص نے عرض کی: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے؟ فرمایا: ان کا قول ایمان کے حدود و احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، اللہ عزوجل نے اپنے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بھیجا کہ لوگ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ“ کا اقرار کریں جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلامی حق کے اور ان کا حساب اللہ عزوجل کے ذمے ہے پھر جب اللہ عزوجل نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ پایا تو اپنے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا پہلے والا اقرار نفع نہ دیتا جب اللہ عزوجل نے انہیں اس پر دل سے ثابت قدم پایا تو کی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حکم دیا تو انہوں نے عمل کیا، اگر وہ نہ کرتے تو ان کا پہلے والا اقرار اور نماز نفع نہ دیتے۔ جب اللہ عزوجل نے انہیں اس پر دل سے عمل پیرا پایا تو اپنے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں مکہ مکرمہ واپس جا کر اپنے آباء و اجداد اور بیٹوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیں کہ وہ بھی ان کی طرح اقرار کریں اور ان جیسی گواہی دیں یہاں تک کہ کوئی شخص ایک سر لے کر آتا اور عرض کرے کہ تاکہ یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ گمراہ سردار کا سر ہے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حکم دیا تو انہوں نے عمل کیا، اگر وہ نہ کرتے تو ان کا پہلے والا اقرار، نماز اور ہجرت نفع نہ دیتے۔ جب اللہ عزوجل نے انہیں اس پر دل سے عامل پایا تو حکم دیا کہ وہ بطور عبادت بیٹھتے اللہ کا طواف کریں اور عاجزی کے طور پر اپنے سر منڈوا لیں۔ چنانچہ انہوں نے عمل کیا، اگر وہ عمل نہ کرتے تو ان کا پہلے والا اقرار، نماز، ہجرت اور مکہ مکرمہ لوٹنا انہیں نفع نہ دیتا۔ جب اللہ عزوجل نے انہیں ان کاموں پر دل سے ثابت قدم پایا تو رسول اکرم، شَفِیعُ مُعَظَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں چاہے وہ کم بختی ہو یا زیادہ۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے عمل کیا، اگر وہ نہ کرتے تو ان کا پہلے والا اقرار ایمان، نماز، ہجرت، مکہ مکرمہ لوٹنا، بیٹھتے اللہ کا طواف اور سر منڈوانا، نفع نہ دیتا۔ جب اللہ عزوجل نے انہیں پے در پے نازل ہونے والے فرائض پر عمل کرتے اور ان کا ادب کرتے پایا تو نبی مکرم، نُورِ مُجَسِّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ارشاد فرمایا: ان سے فرما دیجئے کہ

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَسْتَسْت

توجہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل

عَلَيْكُمْ نَصِيْقِي وَكَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

(پ: ۶، الآئدة: ۳)

اس کے بعد حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جس نے ان میں سے کسی چیز کو سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے ترک کیا ہم اسے سزا دیں گے اور وہ ہمارے نزدیک ناقص ایمان والا ہو گا اور جس نے جان بوجھ کر انہیں ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup> یہ سنت ہے جو بھی مسلمان تم سے سوال کرے اسے میری طرف سے یہ بات پہنچا دینا۔

**دوستوں کے لیے نعمت دیدار:**

﴿10795﴾... حضرت سیدنا حمید بن عتیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ (فرقہ بھیجہ کا سردار) بشر مریسی کہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل اس کیڑے کو ہلاک کرے کیسا اس نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا:

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ مَا يُهَيِّمُ يَوْمَ مَعِي لَسَوْفَ يُؤْنَسُ ﴿۱۵﴾  
ترجمہ کنزالایمان: ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

(پ: ۳۰، الطفیف: ۱۵)

اگر اللہ عزوجل اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے حجاب فرمالے تو دوستوں کو دشمنوں پر کون سی فضیلت حاصل ہوگی؟

**گمراہوں سے بچنے کی تلقین:**

﴿10796﴾... ابو بکر عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ جس سال لوگوں نے منیٰ میں بشر مریسی کی صحبت اختیار کی تو حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غصہ کرتے ہوئے اپنی مجلس سے اٹھے اور حضرت سیدنا

①... یہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دیگر بزرگوں کا موقف ہے جبکہ ہمارے نزدیک قطعی فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کرنے کے سبب کافر ہو گا اور ترک کے سبب اگرچہ جان بوجھ کر ترک کرے فاسق و گناہ گار ہو گا جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: نماز روزہ و حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جتنے دنوں ادا نہ کرے گا اس کی نقصا اس پر فرض رہے گی۔ (فتاویٰ رضویہ، ۱۶۳/۸)

اسحاق بن مُسئِب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَاہِتھ پکڑ کر ان لوگوں کے پاس انہیں بُرا بھلا کہتے ہوئے آئے اور فرمایا: بزرگانِ دینِ قدرویوں اور معتزلیوں کے بارے میں کلام کر چکے ہیں اور ہمیں ایسوں سے بچنے کا حکم ہے ہماری رائے وہی ہے جو ہمارے ان علمائے کرام حضرت سیدنا عمر و بن دینار، حضرت سیدنا محمد بن مُنکدر، حضرت سیدنا ایوب بن موسیٰ حضرت سیدنا امام اعش، حضرت سیدنا منصور اور مسغر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہُم اجمعین کی رائے ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو فقہ کلام الہی ہی جانتے مانتے تھے جس نے اس کے برخلاف کہا اُس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت۔ یہ بات دومرتبہ دہرائی پھر فرمایا: قدرویوں اور معتزلیوں کی بات نصاریٰ کے کلام سے بہت مشابہت رکھتی ہے لہذا تم ان اگر اہوں کے ساتھ مت بیٹھو۔

## زہد کیا ہے؟

﴿10797﴾... حضرت سیدنا مُسئِب بن واضح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عُیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے کسی نے پوچھا: زہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا زہد ہے اور جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے وہ تمہارے لیے جائز رکھی ہیں، بے شک انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے نکاح، سواری اور کھانے کو اختیار کیا لیکن جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں کسی چیز سے روکا تو وہ اس سے رُک گئے اور اسی وجہ سے وہ بہت بڑے زاہد تھے۔

## لذت و سرور کس کام میں ہے؟

﴿10798﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عُیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن مُنکدر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے کسی نے پوچھا: اب کوئی ایسی چیز بچی ہے جس سے آپ کو لذت و سرور ملے؟ فرمایا: ہاں مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا۔

﴿10799﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عُیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ نے فرمایا: حضرت سیدنا محمد بن مُنکدر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے کسی نے پوچھا: کوئی ایسا کام باقی بچا ہے جس میں لذت و سرور ہو؟ فرمایا: مسلمان بھائیوں کے ساتھ حُسنِ سلوک کرنا۔

## خیر خواہی کا جذبہ:

﴿10800﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عُیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مساور و رَاقِ غنیہ

رَحْمَةُ اللَّهِ الرَّأْفِیُّ نے فرمایا: میں نے جب بھی کسی سے کہا کہ ”میں تم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر محبت کرتا ہوں“ تو پھر میں نے اسے دنیا کی کسی چیز سے منع نہیں کیا۔

﴿10801﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک شخص کے لئے رحمت کی دعا کی، کسی نے عرض کی: آپ فلاں کے لئے رحمت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس بات پر حیا آتی ہے کہ اسے میری طرف سے یہ بات پہنچے کہ میں اس کی رحمت کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے لئے عاجز سمجھتا ہوں۔

### اصلاح کرنے والے کا شکر یہ:

﴿10802﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا ناکم بصری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابولیلی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جو شخص میری نماز کی اصلاح کرے تو میں اس پر اس کا شکر گزار ہوں گا۔

### احادیث و روایات کی تشریحات:

﴿10803﴾... حضرت سیدنا ابو ثوبہ زبیح بن نافع رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے اس حدیث مبارک کے بارے میں پوچھا گیا: ”يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ ذِمَاتُ أَفْضَلُ عِبَادَتِهِمُ الشَّلَاةُ وَيَقَالُ لَهُمُ النَّشْأَةُ“ یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے نزدیک سب سے افضل عبادت ملامت کرنا ہو گا اور انہیں گندہ کہا جائے گا۔ ”تو آپ نے فرمایا: خبردار! کہیں یہ نہ سمجھ لیتا کہ آپ صَلَّوْا اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں کافر فرمایا ہے بلکہ آپ نے انہیں محض گندہ اور اپنے نفس کو ملامت کرنے والا فرمایا ہے لہذا اگر وہ حق کی معرفت حاصل کریں تو یہ اُن پر ان کے بُرے اعمال مزین ہونے سے بہتر ہو گا لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جو برائی کو جان لینے کے باوجود اس سے دور نہیں بھاگیں گے اسی لئے ان کا معاملہ ان جہنمیوں جیسا نہ ہو گا جو کہیں گے:

يُؤَيِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ (پہلے، الانبیاء: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: ہائے خرابی ہماری بے شک ہم عالم تھے۔

کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھ کر ظلم کا اقرار کیا (جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:)

فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ قُتُلًا صَٰلِحًا

السَّعِيدِ ۝ (پ ۲۹، الملک: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھانسی کا ہودوڑ خیموں کو۔

چتا چلا کہ اُن جینیوں کا ظلم شرک ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مزید فرمایا: جس نے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی وہ گندہ ہے کیونکہ معصیت گندگی ہے۔

اور آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمَہ کے ایک فرمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ”الْفَقِيْهُ كُلُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يَفْقَہْ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰہِ وَلَمْ يَخْصُ لَهْمُ فِيْ مَعَاصِي اللّٰہِ بِعِنِّيْ كَامِلٍ فَتَقِيْہِ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے اور نہ ہی انہیں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی رخصت دے۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا کیونکہ رخصت کا تعلق مستقبل سے اور مایوسی کا تعلق ماضی سے ہی ہوتا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: دو چیزیں نجات دینے والی اور دو چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دینے والی چیزیں نیت اور پرہیز گاری ہیں۔ نیت سے مراد تمہارا ارادہ مستقبل میں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی فرمانبرداری والے کاموں کا ہو جبکہ پرہیز گاری سے مراد تمہارا خود کو اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء سے بچانا ہے جبکہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں خود پسندی اور مایوسی ہیں۔

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس و ناامید ہونا اور اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہے پھر آپ نے یہ آیات مبارکہ تلاوت کیں:

﴿۱﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: تو اللّٰہ کی خفی تدبیر سے نذر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(پ ۹، الاعراف: ۹۹)

﴿۲﴾ ...

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جو اللّٰہ کا شریک ٹھہرائے تو اللّٰہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔

اِنَّہٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰہِ فَقَدْ حَزَمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْاَجْنَۃَ (پ ۶، المائدہ: ۷۲)

﴿3﴾...

لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ  
الْكَاثِرُونَ ﴿٥٠﴾ (پ ۱۳، يوسف: ۸۷)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر  
کافر لوگ۔

﴿4﴾...

وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا  
الضَّالُّونَ ﴿٥١﴾ (پ ۱۳، الحجر: ۵۶)

ترجمہ کنزالایمان: اپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہو مگر  
وہی جو گمراہ ہوئے۔

ورع اور اُس کی اقسام:

یوں ہی حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ ”پرہیز گاری سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں۔“ اس قول کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ جاہل کے لئے اپنے نفع اور نقصان اور پھر ان کی طرف بڑھنے یا بچنے کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔

اور ورع کی دو قسمیں ہیں: (۱)... خاموش رہنے والے کی ورع جسے سب لوگ جانتے ہیں جب اس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو کہتا ہے: ”میں نہیں جانتا“ وہ صرف اسی کے بارے میں بات کرتا ہے جس کا علم ہو۔ اور (۲)... بولنے والے کی ورع یعنی اس کی ورع بولنے ہی سے ہوگی کیونکہ وہ علم رکھتا ہے لہذا وہ بُرائی کو ناپسند جانے، بھلائی کا حکم دینے، اچھے کو اچھا اور بُرے کو بُرا کہنے سے نہیں رُک سکے گا اور اسی ورع کا وعدہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل کتاب سے لیا تھا کہ ”وہ ضرور احکام الہی کو لوگوں سے بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں۔“ ورع کی یہی قسم زیادہ مشکل اور افضل ہے، عام لوگ صرف خاموش رہنے والے کو ہی متقی سمجھتے ہیں جبکہ بولنا اور بولنے کی جرأت کرنا چاہے عالم کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو لوگ اسے ورع کی کمی سمجھتے ہیں۔

کافر مردے بھی سنتے ہیں:

﴿10804﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: بدر کے دن مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کی لاشیں کھلے میدان میں پڑے رہنے سے حیا آئی تو انہیں اکٹھا کیا اور کنویں میں ڈال دیا پھر حضور نبی کریم ﷺ تَرَعَوْفُ تَرَجِمَ صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہاں

تشریف لائے اور ان مقتولوں کے پاس کھڑے ہو کر ان سب کے یا ان میں سے بعض لوگوں کے نام پکارتے ہوئے فرمایا: اے فلاں، اے فلاں! کیا تھوڑی ہی دیر میں تم نے وہ نہ پایا جس کا اللہ عزوجل نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ فرمایا: ہاں، جیسے تم سنتے ہو۔<sup>(۱)</sup>

﴿10805﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: آپ شہر میں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے فرمایا: شہر میں نعمت پر حسد کرنے والے یا سزا پر خوش ہونے والے ہی باقی رہ گئے ہیں۔

﴿10806﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ عورتوں کی خواہش نہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی تخلیق نطفے سے نہ ہوئی تھی۔

## بولنے والا عالم افضل ہے:

﴿10807﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پرہیز گاری کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: پرہیز گاری ایسا علم حاصل کرنے کا نام ہے جس سے پرہیز گاری کی حقیقت معلوم ہو جبکہ لوگوں کے نزدیک طویل خاموشی اور کم گوئی کا نام پرہیز گاری ہے حالانکہ ایسا نہیں، میرے نزدیک بولنے والا عالم خاموش رہنے والے جاہل سے افضل اور پرہیز گار ہے۔

## عیاش لوگوں کا شربت:

﴿10808﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود بن سبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الغفور فرماتے ہیں: ایک شخص نے کنی مدنی سلطان، رحمت عالیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور بادام کا ستوپ منے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ عیاش لوگوں یعنی ابنِ فرہ اور اس کے ساتھیوں کا شربت ہے۔

﴿10809﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار



فرمایا: وہ موت کو کیسے یاد کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا: وہ موت کو یاد نہیں کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا: پھر تو وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## نگاہِ نبوت کا اعجاز:

﴿10810﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن باباہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”گویا میں تمہیں جہنم کے پاس نیلے پر گھٹنوں کے بل گرے دیکھ رہا ہوں۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا ابو مسعر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا مسعر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب بھی مجھ سے ملنے یہ حدیث سنانے کا کہتے۔

## سب سے افضل تین چیزیں:

﴿10811﴾... حضرت سیدنا ابن ابی نعیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: ہمیں وہ نعتیں ملیں جو لوگوں کو دی گئیں اور وہ بھی جو انہیں نہیں دی گئیں اور ہمیں وہ علم عطا ہوا جو لوگوں کو دیا گیا اور وہ بھی جو انہیں نہیں دیا گیا، ہم نے تین چیزوں سے افضل کچھ نہ پایا: (۱)... غصے اور رضا دونوں حالتوں میں حکمت والی بات کہنا (۲)... غربت اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور (۳)... تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا۔

## بڑا انسان کون؟

﴿10812﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا: کون سا انسان بڑا ہے؟ فرمایا: جو یہ بھی پروانہ کرے کہ لوگ اسے برا سمجھیں گے۔

﴿10813﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن مجید سے کبھی سیر نہ ہوتے اور مجھے کوئی بھی دن یارات قرآن مجید کی تلاوت کیے بغیر گزارنا پسند نہیں۔

①... الزہد للامام احمد، ص ۴۵، حدیث: ۹۰

②... الزہد لابن المبارک و علیہ کتاب الرقائق، صفۃ الباری، ص ۱۰۵، حدیث: ۳۶۰

﴿10814﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے فرمایا: علم سیکھو اور سیکھ کر اس پر مہر لگا دو اور اس میں ہنسی کو شامل نہ کرو ورنہ لوگوں کے دل اسے ناپسند کریں گے۔

(اس روایت کے راوی) حضرت سیدنا ابو متحر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: آپ کے حوالے سے یہ روایت مجھے حضرت جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے، آپ نے یہ روایت کس سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے یہ روایت حضرت سیدنا حسن بن جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔

### بیٹ المال کی سات حصوں میں تقسیم:

﴿10815﴾... حضرت سیدنا کاتب بن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے بیٹ المال کا مال سات حصوں میں تقسیم کیا پھر ایک روٹی رہ گئی تو اس کے بھی سات ٹکڑے کر دیئے پھر اجناد کے امرا کو بلوا کر ان کے مابین قرعہ اندازی کر کے تقسیم کر دیا۔

حضرت سیدنا سالم بن ابو جعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم کے بیٹ المال میں ایک بکری نے بیٹگیاں کیں تو آپ نے اسے بھی تقسیم فرمادیا۔ اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام اعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم جب بیٹ المال کا مال تقسیم فرمالیتے تو اس میں پانی چھڑکتے اور پھر وہیں دو رکعت نماز ادا کرتے۔

### سیدنا ابو درداء رحمہ اللہ غنہ کی افضل عبادت:

﴿10816﴾... حضرت سیدنا عمار بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم درداء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: حضرت سیدنا ابو درداء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی افضل عبادت کون سی تھی؟ فرمایا: غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسعر بن کیدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں علم دیا گیا ہے۔

﴿10817﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابو برداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بندے کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ لاعلمی میں کہیں مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت نہ آجائے۔

**گور نری سے معزولی کی خواہش:**

﴿10818﴾... حضرت سیدنا سالم بن ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمشدہ گور نریا تو حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا: امیر المؤمنین! مجھے سکس کی گور نری سے معزول کر کے مسلمانوں کے کسی لشکر میں بھیج دیجئے کیونکہ سکس والوں کی مثال بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کی سی ہے جو دن میں دو مرتبہ خوشبو لگاتی اور بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا ذکر کرتے تو فرماتے: ہائے! امیر اول نعمان پر غمزدہ ہے۔

﴿10819﴾... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ہم نے (دنیا سے بے رغبتی میں) حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والا حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔

## افضل ترین بات:

﴿10820﴾... حضرت سیدنا ابو ثوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ عزوجل کے فرمان:

سَجَّافِيْ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَصَاحِفِ يُدْعَوْنَ اِلَيْهَا وَيُؤْتُوْنَ ۖ وَهُمْ يَتَّبِعُوْنَ ۚ  
مَّا لَهُمْ مِنْ حِقْقِهَا وَصَمَاعًا ۚ وَهُمْ يَصِفُوْنَ ۙ ①

ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔

(پ: ۳۱، السجدة: ۱۶)

کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: یہاں ”يُدْعَوْنَ اِلَيْهَا“ سے مراد فرض نماز ہے اور ”وَصَمَاعًا“ اور ”يُؤْتُوْنَ“ سے مراد قرآن مجید ہے، کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں سنا؟

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ  
الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ (پ: الحجر: ۸۷)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمِرَاقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۸۸﴾

(پ: طہ: ۱۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں  
دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔

ترجمہ کنزالایمان: اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور  
سب سے دیر پا ہے۔

نیز یارے آقا، مدینے والے مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَا مِنْ صَدَقَةٍ اَفْضَلُ مِنْ  
قَوْلٍ لِّعَنِي اُجْحٰی بات سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔“ اور قرآن سے افضل کوئی بات نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ”لَا اِلٰهَ  
اِلَّا اللہ“ سے افضل کوئی بات نہیں؟ اور شرک سے بڑی اور بری بات کوئی اور نہیں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:  
كَذٰبَتْ کَلِمَۃٌ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ﴿۱۵﴾ (پ: الکہف: ۱۵) ترجمہ کنزالایمان: کتابڑا بول کے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے۔  
اور ارشاد فرمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ  
وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَذَا ﴿۱۶﴾ (پ: مريم: ۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں  
اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھ (مسدود) کر۔

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی  
عَنْہُ نے فرمایا: سچے کی زبان پر جاری ہونے والی سب سے افضل بات ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ“ ہے۔  
﴿10821﴾... حضرت سیدنا ابو توبہ رَجِیحُ بن نافع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ  
تَعَالٰی عَلَیْہِ سے اس درود پاک: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَآلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّكَ حَسْبُ  
مَحْمُودٍ“ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اُنّت محمد کو عزت و شرف بخشے ہوئے ان پر درود بھیجا  
جیسے اس نے حضرات انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام پر درود بھیجا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُہٗ  
ترجمہ کنزالایمان: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس  
کے فرشتے۔

اور حضور نبی کریم ﷺ رُؤُوفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔

إِنْ صَلَوَتُكَ سَكَّنَ لَهُمْ<sup>ط</sup> (پ ۱۱، العوبة: ۱۰۳)

اور سکن سکینہ سے ہے پس اللہ عزوجل نے اُمت محمدیہ پر درود نازل فرمایا جیسے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام پر نازل کیا اور یہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے مخصوص ہیں جبکہ اس اُمت پر درود کو عام فرمایا اور انہیں اس رحمت میں شامل فرمایا جس میں انہیں ان کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شامل رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رحمت میں بھی داخل ہوئے آپ کی اُمت بھی اس میں داخل ہوئی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والوں پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا<sup>۵۷</sup>  
(پ ۲۲، الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ  
(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے انگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور اللہ تمہاری زیر دست مدد فرمائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر نہیں بڑھے اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام الشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باخوں میں

اور یہ فرمان ذکر کیا:  
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَ يُضْمِرَكَ اللَّهُ تَضَمُّرًا عَظِيمًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْهِبَ دَاوَا إِيَّائِنَا مَعَ إِيَّائِهِمْ ۝ وَلِلَّهِ جُودُ السَّعَادَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

لے جائے جن کے نیچے نہیں رواں۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ (پ: ۲۶، الفص: ۵)

## ایک دانہ کی نصیحت:

﴿10822﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عقلمند شخص ان کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد کہا: ایسے لوگوں کی طرح گفتگو کیا کرو جو جانتے ہیں کہ یقیناً اللہ عزوجل ان کا کلام سنا ہے اور فرشتے لکھتے ہیں۔

﴿10823﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: عبادت زہد کے بغیر درست نہیں اور زہد فقہ کے بغیر درست نہیں اور فقہ صبر کے بغیر درست نہیں۔

﴿10824﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: علمائے کرام نے فرمایا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اسے تعریف دھوکا نہیں دیتی۔

## آنسو نہ بہانا غم کو بڑھاتا ہے:

﴿10825﴾... حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کا بیان ہے کہ میں نے ایک مجلس میں وعظ کیا جس میں حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئیں پھر خشک ہو گئیں حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنسو بہتے رہے جبکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے، جب حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہنا چلے گئے تو میں نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا: ابو محمد! آپ اس طرح کیوں نہ روئے جس طرح آپ کے دوست رو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: آنسو نہ بہانا غم کو بڑھاتا ہے کیونکہ جب آنسو نکل جاتے ہیں تو دل کو چین آ جاتا ہے۔

﴿10826﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا: مجھے بلند مرتبہ کی چاہت نے ہلاک کر دیا۔ دوسرے شخص نے اس سے کہا: اگر تو خوفِ خدا رکھتا تو تجھے بلند مرتبہ مل جاتا۔

## دین کی بلندی تک پہنچنے کی شرط:

﴿10827﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! تم اس دین کی بلندی

تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک سب سے بڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ اور جس نے قرآن پاک سے محبت کی اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کی، جو تم سے کہا جائے اسے خوب سمجھ لیا کرو۔

﴿10828﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: انسان گند اڈھیل اور بد بودار کیڑا ہے پھر یہ کس بات پر اترتا ہے!۔

## مسلمانوں کی بھلائی پر خوشی:

﴿10829﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کوفہ کا رہنے والا ایک شخص بہت بد اخلاق تھا جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے بُرے اخلاق سے نجات دی تو اس کے پڑوسی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے لونڈی آزاد کر دی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مزید فرماتے ہیں: مگر مکرہ میں ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ مکانات منہدم ہونے لگے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی تو حضرت عبدالعزیز بن ابورؤاد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی لونڈی آزاد کر دی۔

﴿10830﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جسے قرآن عطا کیا گیا پھر اس نے قرآن سے چھوٹی نعمت کی طرف آنکھیں پھیلانیں تو اس نے قرآن کی مخالفت کی، کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا: وَلَا تَسْتَدِنَّ عِیْنُکَ اِلٰی صَامِعٍ غَابٍ اَوْ وَاِجَا مِنْهُمْ ذَهَابَ الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا لِنَفْسِهِمْ فِیْہِ ۝ وَمَا رُفِیَ رَہِطَ خَیْرٌ وَاَبْلَغُ ۝ (پ: ۱۶، طہ: ۱۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اسکی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے جیسی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔

یعنی قرآن پاک۔

## سیدنا خضر علیہ السلام تھے یا کوئی ابدال:

﴿10831﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے اچھی ہیئت والا ایک شخص دیکھا جو لوگوں میں نمایاں تھا، ہم میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا: ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص انبل علم میں سے ہے۔ لہذا ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ اس نے طواف مکمل کیا اور مقام

ابراہیم پر جا کر دو رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرنے کے بعد اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے کچھ دعائیں کیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا: تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہے کہ ”میں بادشاہ ہوں اور تمہیں اس طرف بلا تا ہوں کہ تم بھی بادشاہ بن جاؤ۔“ اس کے بعد اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے کچھ دعائیں کیں پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر کہا: جانتے ہو تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے، ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا: تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہے کہ ”میں زندہ ہوں جسے موت نہیں اور تمہیں ایسی زندگی کی طرف بلا تا ہوں کہ تمہیں کبھی موت نہ آئے۔“ اس کے بعد اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے کچھ دعائیں کیں پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر کہا: جانتے ہو تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے! ہمیں بیان کیجئے ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ کہا: تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہے کہ ”میں وہ ہوں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے اور تمہیں اس حال کی طرف بلا تا ہوں کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو وہ تمہارے لئے ہو جائے۔“ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: پھر وہ چلا گیا اس کے بعد ہم نے اسے نہ دیکھا، پھر میری ملاقات حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے ہوئی تو انہیں یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، انہوں نے فرمایا: ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام تھے یا ابدالوں میں سے کوئی بزرگ۔ ﴿10832﴾ ... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: مجھے ایسا شخص پسند ہے جس کی زندگی امیروں کی طرح اور موت فقیروں کی طرح ہو مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

**اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نافرمان مردہ ہے:**

﴿10833﴾ ... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی فرمائی: سب سے پہلے مرنے والا ابلیس ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی نے میری نافرمانی کی اور جو میری نافرمانی کرے میں اسے مردوں میں ہی شمار کرتا ہوں۔

**ایک اعرابی کی پیاری دعا:**

﴿10834﴾ ... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں طواف کر رہا تھا اور میرے برابر



میں ایک اعرابی بھی طواف کر رہا تھا جو خاموش تھا، جب اس نے اپنا طواف مکمل کیا تو مقام ابراہیم پر آکر دو رکعت نماز ادا کی پھر بیٹہ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا: اے میرے خدا! مجھ سے بڑھ کر غلطی و کوتاہی کرنے والا کون ہو سکتا ہے حالانکہ تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے اور تجھ سے زیادہ غلو درگزر کرنے والا کون ہو سکتا ہے حالانکہ تو میرے بارے میں ازل سے جانتا ہے اور تیری تقدیر مجھ پر غالب ہے؟ میں نے تیرے حکم سے تیری اطاعت کی اور تو ہی میرا آخری سہارا ہے، میری نافرمانی تیرے علم میں ہے اور تیرے پاس جنت ہے، تو مجھ پر جنت رکھتا ہے جبکہ میرے پاس کوئی جنت نہیں، میں تیرا محتاج ہوں جبکہ تو مجھ سے بے پروا و غنی ہے اسی لئے میں تجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: یہ کلمات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے نہیں یاد کہ پہلے کبھی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہو۔

﴿10835﴾... حضرت سیدنا زید سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رؤف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں کچھ غفلت یا سستی محسوس کرتے تو انہیں بلند آواز سے مخاطب کر کے فرماتے: ”تمہیں موت ضرور آئے گی جو خوش بختی لائے گی یا بد بختی۔“ (۱)

## بچی اینٹوں کا گھر:

﴿10836﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص نے بچی اینٹوں کا گھر بنایا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اُشت میں کوئی فرعون جیسا ہو گا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اس سے آپ کی مراد (قرآن مجید میں مذکور) فرعون کا یہ قول ہے:

رَجِنَ لِي صَرْحًا (پ ۳۲، المؤمن: ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: میرے لئے اونچا محل بنا۔

اور یہ قول ہے:

فَأَوْقَدَنِي لَهَا لَمَسًا عَلَى الظِّلْمِ (پ ۲۰، القصص: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: تو اے ہامان میرے لیے گارا پکا۔

﴿10837﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ دجال پکی اینٹوں کی عمارتوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ”کیا ان کا ظہور ہو گیا؟“

**اضافی تعمیر پر سرزنش:**

﴿10838﴾... حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حصص میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (اپنے گھر میں) ایک سائبان بنایا ہے۔ امیر المؤمنین نے انہیں خط لکھا: ”اما بعد! اے غوثِ کرام! کیا تمہیں دنیاوی آرائش اور جدت سے بچنے کے لیے رومیوں کی بنائی ہوئی تعمیر کافی نہ تھی؟ حالانکہ اللہ عزوجل نے دنیا کو ویران کرنے کا حکم دیا ہے، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو حصص چھوڑ کر دمشق چلے جاؤ۔“ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے انہیں سرزنش کی تھی۔

﴿10839﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ایک انا کا قول ہے کہ دن تین ہیں: (۱)... ایک گزشتہ کل جو کہ ادب سکھانے والا حکیم تھا وہ تمہارے لیے نصیحت اور عبرت چھوڑ گیا (۲)... دوسرا آج کا دن یہ مہمان ہے جو طویل عرصہ تم سے روپوش رہا اور عنقریب تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے گا اور (۳)... تیسرا آنے والا کل جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کون اسے پائے گا۔

### تین نصیحتیں، تین فائدے:

﴿10840﴾... (الف) حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ نے حدیث بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تین نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا: (۱)... موت کو کثرت سے یاد کرو اللہ عزوجل تمہیں اس کے سوا ہر غم سے بے پروا کر دے گا (۲)... دعا کو لازم پکڑ لو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعا کب قبول ہو جائے اور (۳)... شکر کو لازم پکڑ لو کیونکہ شکر نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10840﴾... (ب) حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: بندوں کو صبر سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئی، اسی کے سبب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

## علم کی فضیلت:

﴿10841﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کسی نے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا جس میں علم ہی سے ابتدا فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (پ: محمد: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی ہندگی نہیں۔

پھر اس نے آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو عمل کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

**وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ وَلِتُؤْمِنَنَّ** (پ: محمد: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان خردوں (اور عورتوں) کے گناہوں کی معافی مانگو۔

اور وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی دینا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بغیر مغفرت نہیں فرمائے گا اور جو اس کا اقرار کرے بخش جائے گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

**قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنِّي تَهُوَ اٰیَعْمٰ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ** (پ: الانفال: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرمایا جائے گا۔

اور ارشاد فرمایا:

**وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ** (پ: الانفال: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ایک مانتے ہیں اور فرمایا:

**اِسْتَغْفِرُوْاْ لِذَنبِكُمْ ؕ اِنَّہٗ كَانَ غَفَّارًا** (پ: نوح: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔

وہ فرماتا ہے: ”اے ایک مانو“ اور علم عمل سے پہلے ہے، دیکھو فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

**اعْلَمُوْا اَنَّہٗ اَلْحٰیوُةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَّلَہُمْ وَّزِیْنَةٌ وَّتَفَاخُرُوْۤا بَیْنَكُمْ وَتَکَاۤفُرُ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ** (پ: غافر: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس منہ کی طرح جس کا گایا سبزہ کسلی غیبِ آجیب انکفارِ نباشہ تھے یہی

فَتَرَاهُ مُصَفًّى ثُمَّ يُكُونُ حَطَّامًا ۚ وَفِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَغْفِرَةٌ لِّزَيْنٍ ۚ وَاللَّهُ وَرِضْوَانٌ ۚ  
وَمَا الْحَيَوَةُ إِلَّا اللَّذِيئَاتُ ۚ إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُودِ ۚ سَابِقُوا  
إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ ۚ لِّزَيْنٍ تُرِيدُكُمْ وَجَنَّةٍ ۚ لِّزَيْنٍ ۚ (الحديد: ۲۷، ۲۸، ۲۹)

اور ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

(پ: الانفال: ۲۸)

پھر ان کے متعلق بعد میں فرمایا:

فَاحْذَرُوهُمْ ۚ (پ: النفاہین: ۱۲)

اور ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

لِللَّهِ خُمُسُهُ ۚ (پ: الانفال: ۴۱)

اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کا حکم دیا۔

بڑی نعمت کون سی ہے؟

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے سوال ہوا کہ بڑی نعمت کون سی ہے وہ نعمت جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کو عطا کی یا وہ جو اس سے دور رکھی؟ فرمایا: وہ جو اس نے دور رکھی اور بندے کو اس میں مبتلا نہیں فرمایا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نعمت سے بے پروا کرنا نعمت دے کر غنی کرنے سے افضل ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ دونوں میں سے کسی کو ترجیح دے ورنہ اگر وہ صاحب بصیرت اور سر تسلیم خم کرنے والا ہو تو معاملہ برابر ہی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی حمد کی جائے چاہے وہ دے یا نہ دے اور یہی رضامندی ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے کو ہی محبوب رکھے۔

دنیا سے بے رغبتی یا محبت؟

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے سوال ہوا کہ دنیا سے نفرت اور دنیا سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا

سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس میں زندہ رہنے اور اپنے پاس بے انتہا مال کی موجودگی کو محبوب رکھتا ہو، وہ بس اس کی فکر میں لگا ہو دنیا کے خاتمے کا کوئی خیال نہ ہو اور دنیا سے بے رشتہی و نفرت کی علامت موت سے محبت ہے کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا؟

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾ (پ. ۱. البقرة: ۹۳)

پھر فرمایا:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ

(پ. ۱. البقرة: ۹۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تم ضرور انھیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بتا دیا کہ یہی دنیا کی محبت ہے۔

ہر شے میں عبرت:

﴿10842﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: فکر نور ہے جسے تو اپنے دل میں داخل کرتا ہے۔ اور آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہمیشہ یہ شعر بطور مثال کہا کرتے تھے:

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرُهُ فَخِنٌ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

ترجمہ: جب بندہ غور و فکر والا ہو جائے تو اس کے لئے ہر چیز میں عبرت ہوتی ہے۔

مزید فرمایا: غور و فکر رحمت کی چابی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بندہ غور و فکر کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے؟

آدمی سر پرست کب بنتا ہے؟

﴿10843﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا

علی المرتضیٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَلَمْ تَرَ اِنَّہُمْ نے فرمایا: آدمی گھر والوں کا سر پرست اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ پروا نہ

رہے کہ اس نے اپنی بھوک کی شدت کس چیز سے دور کی اور کون سا لباس پہن کر پرانا کیا۔

﴿10844﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کہا جاتا تھا کہ حق کے راستوں پر چلو اور

اس راہ پر چلنے والوں کی کمی سے نہ گھبراؤ۔

## دنیا کی حیثیت:

﴿10845﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر سخت پیاس کے وقت تو دنیا کو ایک گھونٹ کے بدلے بیچ سکتا ہے تو پھر دنیا چیز ہی کیا ہے؟ اور فرمایا: جتنی لوگ جنت میں صبر کے سبب ہی داخل ہوں گے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: دنیا لوگوں کے سامنے اتراتی ہوئی آئی تو وہ اس پر جھپٹ پڑے۔

﴿10846﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: آسودہ حال شخص کی کوئی نعمت ذکر اللہ جیسی نہیں۔ حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے فرمایا: ”عبادت گزاروں کے منہ پر تیرا ذکر کتنا میٹھا ہے۔“ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کی تعریف کی تو سننے والے نے کہا: خدا کی قسم! میرے علم میں نہیں کہ وہ اللہ عزوجل سے ڈرنے اور لوگوں سے حیا کرنے والا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم نے فرمایا: زندہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو غنی ہے۔ عرض کی گئی: کیا مالی طور پر غنی ہونا مراد ہے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ وہ شخص جس کی لوگوں کو حاجت ہو تو نفع دے اور حاجت نہ ہو تب بھی نفع دے۔ پوچھا گیا: کون سا انسان بڑا ہے؟ فرمایا: جسے یہ بھی پروا نہ ہو کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔

## سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمہور تابعین کرام سے روایتیں لیں اور مشہور اور منصب امامت پر فائز 86 تابعین عظام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا جن میں سے چند یہ ہیں: حضرت سیدنا عمرو بن دینار، حضرت سیدنا امام زہری، حضرت سیدنا محمد بن منکدر، حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار، حضرت سیدنا زید بن اسلم، حضرت سیدنا ابو حازم اور یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کو فیوں میں سے حضرت سیدنا ابو اسحاق، حضرت سیدنا عبد الملک بن عُمیر، حضرت سیدنا امام شیبانی، حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا منصور، حضرت سیدنا اسماعیل بن ابی خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

جبکہ بصریوں میں سے حضرت سیدنا ابوب، حضرت سیدنا سلیمان تیبی، حضرت سیدنا داود بن ابوبند، حضرت سیدنا علی بن زید بن جدعان اور حضرت سیدنا حمید طویل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے شرف ملاقات حاصل کیا۔

اور انہر حدیث میں سے حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا شاعبن جاج، حضرت سیدنا امام اعش اور حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی آپ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔

﴿10847﴾... حضرت سیدنا حمیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے 86 تابعین کرام سے ملاقات کی اور آپ فرمایا کرتے تھے: ”میں نے حضرت سیدنا ابوبختیار فہس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی جیسا کوئی نہ دیکھا۔“

﴿10848﴾... حضرت سیدنا علاء بن خضرمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار رسالت، شہشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَبْکُثُ الْبَہَا جَرَبَعًا قَضَاءً فُکِّیْہِ بِکَکَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَیَّامٍ یعنی (نکد کے باہر سے آیا ہوا) کوئی مہاجر اپنا حج کرنے کے بعد مکہ معظمہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔“ (۱)

﴿10849﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رَزَوَف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا جنازے کے آگے چلا کرتے تھے (۲)۔

﴿10850﴾... حضرت سیدنا نجیر بن مظعم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (۳)

## صحابی رسول کی محبت اور چند احادیث:

﴿10851﴾... حضرت سیدنا محمد بن عاصم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو ۱97 ہجری میں حضرت سیدنا عاصم بن ہنزلہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے حوالے سے فرماتے

①... تاریخ بغداد، ۶/۲۶۶، رقم: ۱۳۲۹۹۔ اسماعیل بن ابراہیم بن معمر

②... جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو۔ (بہر شریعت، حصہ ۴،

۱/۸۲۳) جنازے کے ساتھ سواری پر جانا بھی جائز ہے اور پیدل بھی، سواری جنازے سے پیچھے ہی رہے، پیدل آگے پیچھے ہر طرف چل سکتا ہے مگر پیدل جانا اور پیچھے رہنا بہتر ہے۔ (مراۃ المناجیح، ۲/۴۶۵)

③... مسلم، کتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطعها، ص ۱۳۸۴، حدیث: ۲۵۵۶

ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا زائر بن حُبَیش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا صفوان بن عسال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا: علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: فرشتے طالب علم کی جستجو سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے کہا: پیشاب و پاخانے کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں میرے دل میں شبہ ہے، کیا آپ نے اس بارے میں معلوم کائنات، شاہ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کچھ سنا ہے؟ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ہاں، حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ”جب ہم حالتِ سفر میں ہوں تو جنابت کے علاوہ تین دن تین راتیں پیشاب پاخانے اور نیند کی وجہ سے اپنے موزے نہ اتاریں۔“ حضرت سیدنا زائر بن حُبَیش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا محبت کے بارے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو حضرت سیدنا صفوان بن عسال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ہاں، ہم ایک سفر میں پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے کہ ایک اعرابی نے بلند آواز میں پکارا: یا محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! آپ نے اسی طرح با آواز بلند جواب دینے میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا: اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان سے اب تک ملا نہیں؟ ارشاد فرمایا: اَلْمَرْءُ مِمَّنْ أَحَبَّ لِعِزِّ رُبِّهِ قِیَامَتِ اَدْمٰی اِسی کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“ پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہمیں ایک اور حدیث سنانے لگے کہ ”مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لئے کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے وہ بند نہ ہو گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔“ (۱)

### سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا جنتی محل:

﴿10852﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما سے مروی ہے کہ دو جہاں کے مالک و مختار باذن پروردگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اس میں ایک محل یا (فرمایا: گھر دیکھا، اس میں مجھے آوازیں سنائی دیں تو میں نے کہا: یہ کس کا ہے۔ کہا گیا: ایک قریشی شخص کا۔ تو میں یہ امید کرنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہا گیا: یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عمر



بن خطاب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: اے ابو حفص! اگر تمہاری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس میں داخل ہو جاتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ رونے لگے اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! بھلا آپ پر کیونکر غیرت ہو سکتی ہے!!!<sup>(۱)</sup>

## شوقِ جنت میں جان قربان:

﴿10853﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا بیان کرتے ہیں کہ غزوہٴ اُحد کے دن ایک شخص کی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ رِزق کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ ارشاد فرمایا: ”جنت میں۔“ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کھجوریں پھینک دیں اور کفار سے قتال کرنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔<sup>(۲)</sup>

## اللہ و رسول سے محبت:

﴿10854﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے فرمایا: تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کسی بڑے عمل کا ذکر نہ کیا بس یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحَبَّیْتَ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔<sup>(۳)</sup>

## جان و دل تم پر فدا:

﴿10855﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے ترکش کے تمام تیر نکال کر حضور نبی اکرم، ﷺ کو پیش کر کے سامنے رکھ دیئے اور اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے اور یہ کہنے لگے: میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لئے ڈھال ہو جائے اور میری جان آپ کی جان کے لئے قربان ہو جائے تو سرورِ انبیاء، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لشکر میں

①...مسند حمیدی، حدیث جابر بن عبد اللہ الانصاری، ۳۳۹/۲، حدیث: ۱۲۷۲

②...مسلم، کتاب الامارۃ، باب ثبوت الجنة للشہید، ص ۱۰۵۲، حدیث: ۱۸۹۹

③...بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب عمر بن الخطاب، ۵۲۷/۲، حدیث: ۳۶۸۸

ابو طلحہ کی آواز ایک جماعت سے بہتر ہے۔<sup>(۱)</sup>

## سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا جنتی رومال:

﴿10856﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: دو مہ کے حاکم اکتید نے سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہً ایک مجبہ بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے تو سرور کو نین، شہنشاہ و ارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں سعد کا رومال اس سے اچھا ہے (یا فرمایا: اس سے زیادہ حسین ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿10857﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منعم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: (۱)... اس کے گھر والے (۲)... اس کا مال اور (۳)... اس کا عمل۔ پھر دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے گھر والے اور مال تو لوٹ جاتے ہیں مگر اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10858﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے، ہمارے ہاں ابو عثمیر نامی بچہ تھا اس کے پاس ایک پرندہ تھا جسے نفیر کہا جاتا تھا، جب وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے: یا ابا عثمیر مافعل النغیر؟ یعنی اے ابو عثمیر چڑیا کے بچے کا کیا ہوا؟<sup>(۴)</sup>

## ادنیٰ جنتی کا اعلیٰ مقام:

﴿10859﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن احمد بن نافع اور حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ ابو عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: مجھے اس نے روایت بیان کی جس کی مثل تم نے

۱... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۵۱۹/۳، حدیث: ۱۳۷۷

۲... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۲۲۳/۳، حدیث: ۱۲۰۹۳

۳... مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۳، حدیث: ۲۹۶۰، بتقدمہ وتاخر

۴... مسلم، کتاب الآداب، باب استحباب تحنیک المولود، ص ۱۱۸۵، حدیث: ۲۱۵۰

(۱) ان کے لیے چھپار کھی ہے۔

(٢١، السجدة: ١٤)

بھلائی بھلائی کو لاتی ہے:

١...مسلم: كتاب الإيمان، باب أدب أهل الجنة منزلة، ص ١١٨، حديث: ١٨٩.

سے نکالے گا یعنی پیداوار اور دنیا کی چمک دمک۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا اچھائی بُرائی کے ساتھ آئے گی؟ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہمیں آپ پر نزلِ وحی کے آثار دکھائی دیئے، آپ کا سانس پھولنے لگا اور پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا: سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: میں یہاں ہوں، میں تو صرف بھلائی چاہتا تھا۔ تو آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ“ یعنی بھلائی بھلائی کو ہی لاتی ہے۔ (پھر ارشاد فرمایا:) لیکن دنیا سرسبز و شاداب اور لذیذ ہے اور موسم بہار جو آگاتا ہے وہ یا تو جانوروں کو پیٹ پھلا کر مار دیتا ہے یا پھر مرنے کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس جانور کے جو سبزہ کھائے حتیٰ کہ اس کی دونوں کوکھیں بھر جائیں پھر وہ دھوپ میں چلا جائے اور پیشاب و پاخانہ کر کے لوٹ آئے اور پھر چرنے لگے لہذا جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے اسے اس مال میں برکت دی جاتی ہے اور جو ناحق مال حاصل کرتا ہے اسے اس مال میں برکت نہیں دی جاتی، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کھانے کے بعد بھی شکم سیر نہیں ہوتا۔“ (۱)

حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے یہ حدیث سنانے کے لئے کہا کرتے تھے۔

## برکت والا مال:

﴿10861﴾... حضرت سیّدنا امیر حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ حضرت سیّدنا خولہ بنت قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے مروی ہے کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا لذیذ اور سرسبز و شاداب ہے جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے اسے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اللہ عزّوجلّ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں ناحق تصرف کرنے والے بہت سے لوگوں کے لئے اللہ عزّوجلّ سے ملاقات والے دن جہنم کی آگ ہوگی۔

راوی کا بیان ہے: حضرت سیّدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی ”یَوْمَ الْقِيَامَةِ“ یعنی قیامت کے دن“ کے الفاظ بھی کہتے تھے۔ (۲)

①...مسند امام احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۱۶/۳، حدیث: ۱۱۰۳۵

②...مسند حمیدی، احادیث خولہ بنت قیس، ۳۴۱/۱، حدیث: ۳۵۶

## صور پھونکنے والا فرشتہ حکم کا منتظر ہے:

﴿10862﴾... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں حالانکہ صور پھونکنے والا فرشتہ منہ میں صور لئے پیشانی جھکائے کان لگائے انتظار میں ہے کہ کب صور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی تیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ پڑھو ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ عَنِ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُفَىٰ بِهِ اور کیا اچھا کارساز، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔<sup>(۱)</sup>

﴿10863﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے حبیب، حبیب لیبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے نام والا وہ شخص ہو گا جس نے اپنا نام ”مَلِكُ الْمَلَائِكَةِ“ (یعنی شہنشاہ) رکھا ہو گا۔“<sup>(۲)</sup>

## سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری:

﴿10864﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُوذِفَ رَحِمَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم غلاموں کی دعوت قبول کیا کرتے، سواری پر اپنے پیچھے دو سروں کو سوار کر لیتے اور آپ کا کھانا زمین پر رکھا جاتا۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے راوی نے یہ بھی بیان کیا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کر انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

①... مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی مرآۃ الناجح، جلد 7، صفحہ 361 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یہ کلمات بڑے مبارک ہیں جب حضرت حُذَیْلُ اللہ (منۃ السَّلام) عمروؤ کی آگ میں جا رہے تھے تو آپ کی زبان شریف پر یہ ہی کلمات تھے اور جب صحابہ کرام کو خبر پہنچی کہ کفار ہمارے مقابلے کے لئے بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات کہے یہ کلمات مصیبتوں، تکلیفوں میں بہت ہی کام آتے ہیں (مرقات) ہر مصیبت میں یہ کلمات پڑھنے چاہئیں۔

②... ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب ما جاء فی شأن الصور، ۱۹۵/۳، حدیث: ۳۳۳۹

③... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسم القبیح، ۳۷۸/۴، حدیث: ۴۹۹۱

④... تاریخ ابن عساکر، باب ذکر تواضعہ لربہ، ۹/۷

## جنت کا مشرودہ:

﴿10865﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت حاضر رہنے والے ایک شخص نے مجھے خبر دی کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے سامنے سے خیمہ کا پردہ ہٹا دو تا کہ میں تمہیں وہ حدیث سنا سکوں جو میں نے حضور نبی کریم، رُؤفٌ رَحیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنی تھی اور وہ میں نے تمہیں اس اندیشے سے نہیں سنائی تھی کہ کہیں تم عمل سے غافل نہ ہو جاؤ، میں نے حضور رحمتِ عالم، مُرَّحِّمُہُمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فرماتے سنا: جس نے اخلاص اور دلی یقین کے ساتھ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہُ“ کہا وہ جنت میں جائے گا اور اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔<sup>(۱)</sup>

## شرابی کو کوڑے لگائے:

﴿10866﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی آپ نے ارشاد فرمایا: اسے کوڑے لگاؤ، اگر دوبارہ پیئے تو اسے کوڑے لگانا، اگر پھر پیئے تو اسے پھر کوڑے لگانا، پھر اگر یہ چوتھی مرتبہ پیئے تو اسے قتل کر دینا۔ جب (چوتھی مرتبہ) اسے بارگاہِ رسالت میں لایا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے کوڑے لگوائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پس قتل کا حکم اُنھ گیا اور رخصت ہو گئی۔<sup>(۲)</sup>

## مسجد کی تین و آرائش:

﴿10867﴾... حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ کون و مکال، سرورِ دیشال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے مسجدیں آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔“<sup>(۳)</sup> حضرت سیدنا عبد اللہ بن

①...مسند حمیدی، حدیث معاذ بن جبل، ۳/۲۲، حدیث: ۳۴۳

②...ابوداؤد، کتاب الحدود، باب اذا اتعاب فی شرب الخمر، ۲/۱۹، حدیث: ۴۳۸۵، بتعویض

③...مفسرِ عمیر، حکیم الاُمت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ مَرَاتُ الْمَنَاجِح، جلد ۱، صفحہ 443 پر فرماتے ہیں: اس سے مراد ناجائز آرائش ہے، جیسے فوٹوں اور تصویروں سے سجایا یا فخریہ آرائش مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ بہر حال جائز زینت جو اخلاص کے ساتھ ہو باعثِ ثواب ہے۔

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”تم بھی مسجدوں کی تربیتیں و آرائش کرو گے جیسے یہود و نصاریٰ کرتے ہیں۔“ (۲۶۴)

﴿10868﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ، خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے قرآن والو! تریڑھا کرو۔“ ایک اعرابی نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ”یہ بات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لئے نہیں ہے (۵)۔“ (۴)

﴿10869﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ان سے حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ فرماتے نہ سنا ہو کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمادے گا۔“ (۵)

دعا سے پہلے عطا:

﴿10870﴾... حضرت سیدنا خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لیبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب یاء السجد، ۱۹۳/۱، حدیث: ۴۲۸

②... یعنی جیسے عیسائی یہودی اپنی عبادت گاہوں کو فوٹوؤں اور قد آدم آئینوں سے سجاتے ہیں، قیامت کے قریب مسلمان بھی مسجدوں کو ان سے آراستہ کریں گے، ورنہ مسجد کی زینت سنتِ حجاب ہے۔ چنانچہ عرفاروق نے مسجد نبوی شریف کو مزین کیا، پھر عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) نے اس کی دیواریں جوئے سج سے خوب نقشیں بنائیں، چھت میں ساگوں لکڑی لگائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں اتنی روشنی کی تھی کہ اس میں عورتیں تین میل تک چرخہ کات لیتی تھیں۔ (مرقاۃ المفاتیح، ۱/۴۴۳)

③... علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ نقول فرماتے ہیں: یہاں وتر سے آپ علیہ السلام کی مراد ارات کی نماز ہے۔ (فتح الباری لابن رجب، ۱۱۶/۹، تحت الحديث: ۹۹۱، مکتبۃ العراء، الاثریہ ۱۴۱۰)۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں: اس حدیث کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ وتر واجب ہونے سے پہلے کا ہے۔ (شرح ابوداؤد البیہقی، ۵/۳۲۲، تحت الحديث: ۱۳۸۷)۔

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ نقول اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اے قرآن والو!“ سے مراد ”اے قرآن پر ایمان رکھنے والو“ ہے کیونکہ قرآن والا ہونا عام ہے یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو شامل ہے چاہے وہ تلاوت کرے یا نہ کرے، اگرچہ ان میں سے کامل ترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا حفظ کیا اور اسے سیکھ کر اس پر عمل کیا یعنی قیام کی حالت میں اس کی تلاوت کی اور اس کے حدود و احکام کی پاسداری کی۔ حضرت سیدنا نور بن شعیب علیہ رحمۃ اللہ نقول نے فرمایا کیونکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام طبری علیہ رحمۃ اللہ نقول نے فرمایا شاہد اہل قرآن کی تخصیص قرآن والے مقام میں اس لئے ہے کہ نزول قرآن کا سبب توہید کو پختہ کرنا ہی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلاة، باب الوتر، ۳/۳۲۹، تحت الحديث: ۱۲۶۶)

④... ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فی الوتر، ۳۶/۲، حدیث: ۱۱۷۰

⑤... ابن حبان، باب صفة النار واهلها، ۲۸۳/۹، حدیث: ۷۴۳۰، بتصرف قليل

اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”جو میری یاد کی وجہ سے مجھ سے نہ مانگ سکے میں اسے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہوں۔“ (۱)

اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کے فرمان:

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الظُّلُمِ إِلَّا نَادِيًا  
(پ: ۲۰، القصص: ۲۶)

کی تفسیر میں فرمایا: تمہیں یہ نداوی گئی تھی کہ ”اے امت محمدیہ! ابھی تم نے دعا کی بھی نہ تھی کہ ہم نے قبول کر لی اور تمہارے مانگنے سے پہلے ہی ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔“ (۲)

**داخل جنت کرنے والا عمل:**

﴿10871﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب اللہ عزوجل مجھے جنت میں داخل فرمادے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اس سے فرمایا: کیا تمہیں کسی نے ایسا کوئی عمل سکھایا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: رکوع و سجود کی کثرت سے میری مدد کرو۔ (۳)

﴿10872﴾... حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ حضور نبی اکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہے یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں:

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿١﴾ إِلَى رَبِّكَ  
مُنْتَهَاهَا ﴿٢﴾ (پ: ۳۰، الفرقان: ۳۳، ۳۴)

حضرت سیدنا حافظ ابو نعیم اصفہانی قدس سرہ الثورین نے فرمایا: میرے علم میں نہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی نے حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسے روایت کیا ہو۔

①...مسند الغرورس، ۱۳۸/۲، حدیث: ۴۴۷۸

②...مسند رک حاکم، کتاب التفسیر، باب دعاء ابن عمر رضی اللہ عنہما، ۱۷۷/۳، حدیث: ۳۵۸۸، عن ابن ہریرہ

③...مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب الركوع والسجود، ۲/۳۶۰، حدیث: ۸، بتوفیق عن ابی مصعب الاسلمی



## عاشق اکبر رحمہ اللہ غنہ کے ایک دن کے اعمال:

﴿10873﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ سے روایت ہے کہ راحۃ العاشقین، خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ نے عرض کی: میں نے۔ پھر فرمایا: تم میں سے آج کس نے صدقہ کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ نے عرض کی: میں نے۔ پھر فرمایا: تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ نے عرض کی: میں نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہو گے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10874﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ سے روایت ہے کہ شَفِیْعُ الْمُنْجِیْنِ: رَحْمَةُ لِلْعَالَمِیْنَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن ہر تعلق اور نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور نسب کے۔“<sup>(۲)</sup>

## صدیق اکبر رحمہ اللہ غنہ کا نام:

﴿10875﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ غنہما نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ کا نام عبد اللہ بن عثمان تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ”عَتِیقًا مِّنَ النَّارِ“ (یعنی آتش جہنم سے آزاد) کا لقب عطا فرمایا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10876﴾... حضرت سیدنا شریک بن نملہ رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ کا مہمان بنا تو انہوں نے اونٹ کی ٹھنڈی سری کے ٹکڑوں سے میری ضیافت کی اور ہمیں زیتون کھلا کر فرمایا: یہی وہ بابرکت زیتون ہے جس کا ذکر اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہے۔

﴿10877﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رحمہ اللہ تعالیٰ غنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین، شہنشاہ دارین صلی اللہ تعالیٰ

①...مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابی بکر الصديق، ص ۱۳۰۱، حدیث: ۳۳۸۷، بدون بعض الفاظ

②...معجم اوسط، ۱۷۰/۳، حدیث: ۵۶۰۶

③...معجم کبیر، ۵۳/۱، حدیث: ۷

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: گروی رکھنا مرہون چیز کو اس کے گروی رکھنے والے مالک سے نہیں روکتا اس لئے اس مرہون کا نفع ہے اور اس ہی پر مرہون کا تادان<sup>(۱)</sup>۔

## حق آیا اور باطل مٹ گیا:

﴿10878﴾... حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یَیْتُ اللہ کے ارگرد (360 بت تھے، آپ اپنی چھڑی ان بتوں کو مارتے اور فرماتے: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيَنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ يَحِقُّ اُكْيَا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی، حق آگیا اور باطل اب نہ نئے سرے سے کھڑا ہو گا اور نہ لوٹ کر آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

## شانِ صدیق اکبر:

﴿10879﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لمیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَآتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا یعنی اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔<sup>(۳)</sup>۔

## کمزور کی حق تلفی کا وبال:

﴿10880﴾... حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①... یعنی گروی چیز کے منافع مالک کے ہوں گے اور اس کے تمام مصارف مالک ہی کے ہوں گے وہ رہن قرض خواہ کے پاس بطور امانت مقبوض (قبضہ میں) رہے گا۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۸۷)

②... مستند امام شافعی، ومن کتاب الرهن، ص ۱۴۸

③... مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب اذ القاصم من حول الکعبة، ص ۹۸۳، حدیث: ۱۷۸۱

④... خلیل یا تو بٹا ہے غلت رخ کے پیش سے بمعنی دلی دوست جس کی محبت دل کی گہرائی میں اتر جاوے، حضور کا ایسا محبوب صرف اللہ ہی ہے، یا بٹا ہے غلت رخ کے فتح سے بمعنی حاجت یعنی وہ دوست جس پر توکل کیا جاوے اور ضرورت کے وقت اس سے مشکل کشائی حاجت روائی کرائی جاوے، حضور انور کا ایسا کارساز حاجت روا محبوب سوا خدا کے کوئی نہیں ورنہ اصل محبت حضور کو جناب صدیقی سے بہت ہی ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۸/۳۴۶)

⑤... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر الصديق، ص ۱۲۹۹، حدیث: ۲۳۸۳

جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین کو یہاں گھر دیئے اور ابن مسعود کو بھی ایک حصہ دیا تو آپ کے صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! انہیں ہم سے الگ رکھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تو پھر مجھے اللہ عزوجل نے بھیجا کیوں ہے؟ بے شک اللہ عزوجل اس اُمت کو پاک نہیں فرماتا جس میں کمزور کو حق نہ دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10881﴾... اُنم المؤمنین حضرت سیدنا یمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ تمام نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس حال میں نکاح فرمایا کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔

﴿10882﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معلم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، سب قرأت کی ابتدا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ سے کیا کرتے تھے۔

### قبیلہ اسلم و بنو غفار کی فضیلت:

﴿10883﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے قبیلہ اسلم کو سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10884﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی تقدیر و شمنوں کے طعن و تشنیع، بد بختی کے پہنچنے اور سخت مصیبت سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے تھے۔

﴿10885﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے جس نے اس چیز کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دیا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو اس چیز میں سے دسویں حصے پر عمل کرے گا جس کا اسے حکم دیا گیا ہو گا تو وہ نجات پا جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

①... معجم اوسط، ۴۰۳/۳، حدیث: ۳۹۳۹

②... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب دعاء النبی لغفار واسلم، ص ۱۳۶۲، حدیث: ۲۵۱۶، عن ابی ہریرۃ

③... الکامل لابن عدی، ۲۵۳/۸، رقم: ۱۹۵۹، نعیم بن حماد المروری بخاری

﴿10886﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی اس کا روزہ نہیں“ یہ میں نہیں کہتا بلکہ رب کعبہ کی قسم! یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے (۱)۔ (۲)

## قبروں کو مسجد گاہ نہ بناؤ:

﴿10887﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ عزوجل نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔ (۳)

﴿10888﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو مدتوں میں سے کون سی مدت کو پورا کیا؟ عرض کی: جو ان میں کامل و اکمل تھی (۴)۔ (۵)

## کم گوئی صحبت اختیار کرو:

﴿10889﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلّم کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی کی نعمت دی گئی ہے

①... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ اور ائمہ المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا: سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احکام کے بغیر حالتِ جنابت میں صبح کرتے تو روزے رکھتے۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ائمہ المؤمنین کی یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فرمایا: میں نے یہ بات براہِ راست حضور نبی کریم، رزقِ ذوقِ حیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی۔ (ماخوذ از مسلم، ص ۵۵۹، حدیث: ۱۱۰۹)

②... مسلم، کتاب الصیام، باب صحۃ الصوم... الخ، ص ۵۵۹، حدیث: ۱۱۰۹

③... مسند الفردوس، ۳/۴، حدیث: ۷۲۱

④... (مذکورہ بالا روایت میں دو مدتوں سے مراد آٹھ اور دس سال ہیں یعنی) شعیب علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام سے شرط لگائی تھی کہ تم آٹھ یا دس سال تک میرا کام کرو یہ شرط نکاح سے پہلی تھی۔ (مراۃ المناجیح، ۵/۳۱)

⑤... مسند حمیدی، احادیث ابن عباس، ۱/۳۶۲، حدیث: ۵۳۵

تو اس کے نزدیک ہو جاؤ کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## سب سے بڑی بیماری:

﴿10890﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے بنو سلمہ! تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا: جد بن قیس اور ہم اسے بخیل سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: بخیل سے بڑی اور کون سی بیماری ہوگی، بلکہ تمہارے سردار عزت و شرف اور سخاوت والے عمرو بن جموح ہیں۔<sup>(۲)</sup>

﴿10891﴾... حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ منعم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وضو کے دوران اپنی واڑھی کا خلال کیا۔<sup>(۳)</sup>

﴿10892﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرورِ دو جہاں، مالک کون و مکاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔<sup>(۴)</sup>

## کافر مسلم کا وارث نہیں:

﴿10893﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ محبوبِ پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لَا یُورِثُ الْکَافِرَ وَلَا الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں۔<sup>(۵)</sup>

## سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟

﴿10894﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحب

①... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۳/۳۲۲، حدیث: ۴۱۰۱، عن ابی خلاد

②... شعب الامان، باب فی الجود و السخاء، ۴۳۱/۷، حدیث: ۱۰۸۵۹

③... معجم اوسط، ۳۱/۲، حدیث: ۲۳۹۵

④... مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلة الامام العادل... الخ، ۱۰۱۶، حدیث: ۱۸۲۹

⑤... مسلم، کتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض... الخ، ص ۸۷۱، حدیث: ۱۶۱۳، عن اسامة بن زید

معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔“<sup>(۱)</sup> اس سے فرمایا: آگے آتو وہ آگے آگئی۔ فرمایا: پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے تجھے سے زیادہ اچھی کوئی شے نہیں بنائی، میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا، تیرے ہی سبب عطا کروں گا۔“<sup>(۲)</sup> پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کے لئے اس کے دل کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے اس کے لئے ایک نگہبان ہوتا ہے<sup>(۳)</sup> اور جو خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کے لئے چھکائے تو وہ ان سے زیادہ عزت و شرف والا ہوتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی سے عزت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔<sup>(۴)</sup> پھر فرمایا: ”میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں رہتے ہیں اور قسم قسم کے کھانے کھاتے، طرح طرح کے کپڑے پہنتے، فضول گوئی کرتے اور باغیچیں کھول کھول کر باتیں کرتے ہیں“<sup>(۵)</sup> اور میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن سے بُرائی سرزد ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب سفر کرتے ہیں تو نماز میں قصر کرتے اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔“<sup>(۶)</sup>



سوال: عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو ملائکہ عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کُرُوبِی (کر، روبری) کہتے ہیں اور یہ ملائکہ میں صاحبِ سیادت ہیں۔ (تذکرۃ اہل القلائد، ص ۴۳، ماہنامہ نجات الدین، ص ۱۰)

۱... حضرت سیدنا علامہ علی قاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: یہ اولیت اضافی ہے یعنی عرش، پانی ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم (یا قلم) ہے جبکہ وہ روایت کہ سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا، وہاں اولیت حقیقیہ مراد ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ۲۸۹، ۲۹۰، تحت الحلیہ: ۹۳) ”سیرۃ حلیہ“ میں ہے: ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا“ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ ”سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا“ حضرت سیدنا شیخ علی خواص زینۃ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ان دونوں سے مراد ایک ہی بات ہے کیونکہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حقیقت کو کبھی عقل اول سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نور سے۔ (سیرۃ الحلیہ، باب جنیان قریش الکعبہ شرفہا اللہ، ۱/۲۱۴)

۲... مسند الفردوس، ۲۹/۱، حدیث: ۴

۳... مسند الفردوس، ۲۹/۱، حدیث: ۴

۴... جامع صغیر، ص ۵۱، حدیث: ۸۳۷۴

۵... الکامل لابن عدی، ۴/۷، رقم: ۱۳۶۶، عبد الحمید بن جعفر بن الحکم الامصاری، دون قولہ: ”انقرئامون“

۶... معجم اوسط، ۵۳/۵، حدیث: ۶۵۵۸

## حضرت سیدنا لیت بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

ان عابد و زاہد بزرگوں میں سے ایک بزرگ پوشیدہ سخاوت کرنے والے، پائے کے عالم اور زبردست سخی حضرت سیدنا ابو حارث لیت بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی ہیں۔ آپ عرصہ دراز تک احکام سکھاتے اور مال لہاتے رہے۔ منقول ہے کہ سخاوت اور وفا کا نام تھوڑا ہے۔

﴿10895﴾... حضرت سیدنا ابو حفص غزوین ابو سلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیت بن سعد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ نے ایک مسئلے میں گفتگو کی تو ایک شخص نے کہا: اے ابو حارث! آپ کی کتاب میں اس کے برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا: میری کتاب میں یا ہماری کتابوں میں؟ اور جو بات بھی ہماری نظر سے گزرتی ہے ہم اپنی سمجھ بوجھ اور گفتگو کے ذریعے اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔

﴿10896﴾... حضرت سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیت بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے زیادہ احادیث و روایات کی پیروی کرنے والے ہیں۔

## سوال سے بڑھ کر سخاوت:

﴿10897﴾... حضرت سیدنا ابو صالح عبد اللہ بن صالح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے دروازے پر تھے، آپ نے ہمیں اندر داخل ہونے سے منع کیا تو ہم کہنے لگے: یہ ہمارے دوست جیسے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ہماری گفتگو سنی تو ہمیں اپنے پاس اندر بلا لیا اور پوچھا: تمہارے دوست کون ہیں؟ ہم نے کہا: لیت بن سعد۔ آپ نے فرمایا: تم مجھے اس ہستی سے تشبیہ دے رہے ہو جن کی طرف ہم نے خط لکھا کہ ”ہمیں اپنے بچوں کے کپڑے رنگنے کے لئے تھوڑا سا زرد رنگ چاہئے“ تو انہوں نے اتنا رنگ بھیجا کہ اس سے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے اور اپنے پڑوسیوں کے کپڑے بھی رنگ لیے اور اتنا باقی بچا کہ اسے ہم نے ایک ہزار دینار میں فروخت کیا۔

﴿10898﴾... حضرت سیدنا قتیبہ بن سعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا لیت بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہمراہ اسکندریہ سے اس طرح لوٹے کہ ان کے ساتھ تین کشتیاں تھیں، ایک میں آپ کا باورچی خانہ تھا، دوسری میں آپ کے اہل و عیال تھے اور تیسری کشتی میں آپ کے مہمان تھے۔

﴿10899﴾... حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا لیلث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک عورت پیالہ لے کر آئی اور عرض کرنے لگی: ابو حارث! میرے شوہر بیمار ہیں اور ان کے لئے شہد بتایا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ابو قسیم کے پاس جا کر کہو وہ تمہیں ایک مشکیزہ شہد دے دیں گے پس وہ اٹھ کر گئی ہی تھی کہ ابو قسیم آئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کان میں کچھ کہا، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا پھر آپ نے ان کی طرف سر اٹھا کر کہا: جاؤ اور اسے مشکیزہ بھر شہد دو، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا ہے اور ہم اسے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مشکیزہ فرق (ایک پیالہ) جتنا ہوتا ہے اور فرق 120 رطل (تقریباً 47 کلو 239 گرام) کا ہوتا ہے۔

﴿10900﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا لیلث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آکر کہا: میرے بھائی کے لئے شہد کی تجویز دی گئی ہے لہذا آپ مجھے ایک پلیٹ شہد دے دیجئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اے لڑکے! اس عورت کی پلیٹ شہد سے بھر دو اور ایک مشک شہد اور بھی دے دو۔ لڑکے نے کہا: اس عورت نے تو ایک پلیٹ شہد مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اور یہی میری شان کے لائق ہے کیونکہ میں اصہبانی ہوں۔

### وعظ کرنے والے پر نوازشات:

﴿10902﴾... حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کا بیان ہے کہ جب شہر میں کوئی وعظ کرتا تو حضرت سیدنا لیلث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تقشیر کیا کرتے تھے، ایک دن میں نے جامع مسجد میں وعظ کیا تو مسجد کے دروازے سے دو مرد اندر آئے اور شریک درس لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا: وعظ کس نے کیا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا: حضرت سیدنا ابو حارث لیلث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا: ہائے خرابی! شہر میں مجھے ایسا معاملہ درپیش ہو گیا۔ پھر میں حضرت سیدنا لیلث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور سلام کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا مسجد میں آپ نے وعظ کیا تھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: بیٹھو اور جو وعظ آپ نے کیا تھا وہ میرے



سامنے دہراؤ۔ میں نے آپ کے سامنے وہی وعظ شروع کر دیا، آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رونے لگے جبکہ میری پریشانی ختم ہو گئی، پھر میں جنت و دوزخ کے بارے میں وعظ کرنے لگا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَتَمَّاروئے کہ مجھے آپ پر رحم آگیا پھر آپ نے مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے رُک جانے کو کہا اور پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا: منصور۔ پوچھا: کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا: عمار کا بیٹا ہوں۔ پوچھا: کیا تم ابو عری ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تَعَالٰی کے لئے ہیں جس نے مجھے موت نہ دی حتیٰ کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ پھر آواز لگائی: اے لونڈی! وہ آپ کے سامنے آکھڑی ہوئی تو اس سے فرمایا: اس اس طرح کی جو تھیلی رکھی ہے وہ میرے پاس لے آؤ، وہ تھیلی لے آئی، اس میں ایک ہزار دینار تھے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَتَمَّاروئے مجھ سے فرمایا: ابوسری! لیجئے یہ آپ کے لئے ہے، اس وعظ کی حفاظت کرنا کہیں اس کی وجہ سے حکمرانوں کے دروازوں پر کھڑے نہ ہو جانا، تمام جہانوں کے رب کی حمد کرنے کے بعد اب مخلوق میں سے کسی کی بھی مدح سرائی ہرگز نہ کرنا اور آپ کو ہر سال اہتمام پیش کیا جائے گا۔ میں نے کہا: اللہ تَعَالٰی آپ پر رحم فرمائے! اللہ تَعَالٰی نے مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرنا۔ یہ سن کر میں نے وہ مال لیا اور وہاں سے جانے لگا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس آنے میں زیادہ عرصہ نہ لگانا۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَتَمَّاروئے کے پاس گیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: کچھ بیان کیجئے۔ میں نے وہیں وعظ شروع کر دیا، جسے سن کر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَتَمَّاروئے خوب روئے، جب میں نے کھڑا ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا: دیکھو ٹکے کے اندر کیا ہے؟ جب دیکھا تو اس میں پانچ سو دینار تھے، میں نے کہا: اللہ تَعَالٰی آپ پر رحم فرمائے، میں بچھلی مرتبہ میں ہی آپ کی خیر خواہی کو جان چکا ہوں۔ فرمایا: میں آپ کو جو دوں اس میں سے کچھ بھی مجھے واپس مت کرنا، یہ بتاؤ اب کب ملے آؤ گے؟ میں نے کہا: آنے والے جمعے کو۔ فرمایا: تم نے تو گویا میرے جسم کا کوئی ٹکڑا چور چور کر دیا ہے۔ جب اگلا جمعہ آیا تو میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَتَمَّاروئے کو الوداع کہنے آیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: وہ ستائے جس کے سبب میں تمہیں یاد رکھوں۔ میں نے وعظ کیا تو آپ زار و قطار رونے لگے پھر فرمایا: منصور! دیکھو ٹکے میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو وہاں تین سو دینار تھے، آپ نے فرمایا: ان سے حج کر لینا۔ پھر اپنی لونڈی کو آواز لگائی کہ منصور کے احرام کے لیے کپڑے لے آؤ۔ وہ ایک تہ بند لائی جس میں چالیس کپڑے تھے، میں نے کہا: اللہ تَعَالٰی آپ پر رحم فرمائے

میرے لئے دو ہی کپڑے کافی ہیں تو انہوں نے کہا: آپ عزت دار آدمی ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں انہیں دے دیجئے گا۔ پھر جو لونڈی کپڑے اٹھائے ہوئے تھی اس کے متعلق فرمایا: یہ لونڈی بھی آپ کی ہوئی۔

﴿10903﴾... حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ انفقار فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا ان کے پاس ایک خادم کھڑا تھا آپ نے اسے اشارہ کیا تو وہ چلا گیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ مصلے پر مارا اور اس کے نیچے سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہزار دینار تھے وہ تھیلی میری طرف بڑھادی اور فرمایا: اے ابوسری! اس کے بارے میں میرے بیٹے کو نہ بتانا کہیں اس کی نظروں میں آپ کی قدر کم نہ ہو جائے۔  
**کھانا کبھی اکیلے نہ کھایا:**

﴿10904﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہا، آپ صبح و شام کا کوئی بھی کھانا اکیلے نہ کھاتے بلکہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھاتے تھے اور بیماری کی حالت کے علاوہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔

﴿10905﴾... حضرت سیدنا اسماعیل بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے کسی دوست نے بتایا کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک فارس (ایران) کے شہر اصبہان کے رہنے والے تھے۔

﴿10906﴾... حضرت سیدنا ابن زعرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا: ہم اصبہان والے ہیں لہذا تم اصبہان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔

**جو دے دیا اسے واپس نہ لیا:**

﴿10907﴾... (الف) اسد بن موسیٰ کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن علی بنو امیہ کے لوگوں کو تلاش کر کے قتل کر دیا کرتا تھا، میں خسیں و گھنیا حالت بنا کر شہر میں داخل ہوا اور حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا جب ان کی مجلس سے فارغ ہو کر واپس نکلتے ہوئے دلمیز تک پہنچا تو ان کے خادم نے پیچھے سے کہا: ہمیں بیٹھ جاؤ میں آتا ہوں۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا جب وہ آیا تو میں اکیلا ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں سو دینار تھے، اس نے کہا: یہ آپ کے لئے میرے مالک کی طرف سے ہیں، انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کیجئے اور اپنی حالت درست کر لیجئے۔ میرے پاس ایک ہزار دینار تھے میں نے بنوا نکال کر کہا: اس کے ہوتے ہوئے

مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں، بس حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے میرے لئے اجازت لے لو، لہذا اس نے میرے لئے اجازت لی تو میں اندر گیا اور اپنے خاندان کے بارے میں بتایا اور ان کا مال واپس کرنے کا عذر بیان کیا اور گزشتہ احوال انہیں بتائے تو انہوں نے فرمایا: یہ خیر خواہی کے طور پر ہے صدقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا: مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں غنی ہوں اور پھر بھی کسی دوسرے سے مال قبول کروں۔ انہوں نے فرمایا: اپنے ساتھ حدیث پڑھنے والے جن ساتھیوں کو آپ مستحق جانیں یہ انہیں دے دینا وہ مجھ سے کہتے ہی رہے حتیٰ کہ میں نے وہ لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔

﴿10907﴾... (ب) حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: جب میں ہارون رشید کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے کہا: اے لیث! آپ کے شہر کی بہتری کیا ہے؟ میں نے کہا: امیر المؤمنین! دریائے نیل کا بہنا اور حاکم شہر کا درست ہونا، گندگی چشمے کی تہہ سے آتی ہے جب وہ صاف ہو جائے تو اس سے بہنے والی نہریں بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ نے کہا: اے ابو حارث! آپ نے سچ فرمایا۔

### کبھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی:

﴿10908﴾... حضرت سیدنا ابن زُئَیج رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی سالانہ آمدنی 80 ہزار دینار تھی لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کبھی ان پر زکوٰۃ کا ایک درہم بھی فرض نہ ہوا (یعنی ایسا سخاوت کے سبب ہوتا)۔

﴿10909﴾... حضرت سیدنا منصور بن عمار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہر سال 50 ہزار دینار کا غلہ حاصل کرتے تھے مگر جب سال گزرتا تو آپ پر قرض ہوتا۔

### باپ بیٹا دونوں سخی:

﴿10910﴾... حضرت سیدنا یحییٰ بن عبد اللہ بن یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے تین اشخاص کو تین ہزار دینار دیئے۔ حضرت سیدنا ابن ابیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا گھر جل گیا تو انہیں ہزار دینار بھیجے، حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حج کیا اور آپ کی طرف ایک تھال میں کھجوریں بھیجیں تو آپ نے اس تھال کو ہزار دینار سے بھر کر واپس بھیجا اور حضرت سیدنا قاضی منصور بن عمار

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفَّارِ کو ہزار دینار دیئے اور فرمایا: اس کے بارے میں میرے بیٹے کو نہ بتانا کہیں اس کی نظروں میں آپ کی قدر کم نہ ہو جائے۔ یہ بات آپ کے بیٹے حضرت سیدنا شعیب بن لیث رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اَہْلَیْہِ سَلَامٌ کو بتا چلی تو انہوں نے حضرت سیدنا منصور بن عمار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفَّارِ کو ایک کم ایک ہزار دینار دیئے اور فرمایا: میں نے ایک دینار اس لیے کم کیا تاکہ میں عطیہ دینے میں اپنے والد بزرگوار کے برابر نہ ہو جاؤں۔

﴿10911﴾ ... حضرت سیدنا قتیبة بن سعید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اَہْلَیْہِ سَلَامٌ بیان ہے کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ ہر سال 20 ہزار دینار کا غلہ حاصل کرتے تھے اس کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی اور آپ نے حضرت سیدنا ابن ابیہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو ہزار دینار دیئے، حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو ہزار دینار دیئے اور حضرت سیدنا منصور بن عمار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفَّارِ کو ہزار دینار اور ساتھ میں تین ہزار دینار کی ایک لونڈی بھی دی۔

### فہم و فراست سے مسئلہ طلاق کا حل:

﴿10912﴾ ... خلیفہ ہارون رشید کے خادم لولو کا بیان ہے کہ ہارون رشید اور اس کی چچا زاد زبیدہ کے درمیان کسی بات پر ٹکرا ہو گئی، ہارون رشید نے بے توجہی میں یہ کہہ دیا: ”اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے طلاق ہے۔“ پھر اسے ندامت ہوئی اور اس قسم کی وجہ سے دونوں ہی غمزدہ ہو گئے اور آنے والی مصیبت کا سوچ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے، ہارون رشید نے فقہائے کرام کو جمع کیا اور ان سے اس قسم کے بارے میں پوچھا لیکن اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ ملی پھر اس نے تمام شہروں کے گورنروں کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے فقہائے کرام کو ہارون رشید کے پاس بھیجیں، جب فقہاء جمع ہو گئے تو خلیفہ نے ان کے لئے مجلس منعقد کی، وہ لوگ اس کے پاس آ گئے، میں خلیفہ کے سامنے ہی کھڑا رہا کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ مجھے حکم دے دیں، چنانچہ خلیفہ نے فقہاء سے اپنی قسم کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس سے خلاصی کی کوئی صورت ہے، میں نے خلیفہ کی بات کی ترجمانی کر کے فقہاء کے سامنے بیان کیا، فقہائے کرام اسے مختلف جوابات دیتے اس وقت ان فقہاء کے درمیان مصر سے بلائے جانے والوں میں حضرت سیدنا لیث بن سعد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ اَہْلَیْہِ سَلَامٌ بھی تھے جو مجلس کے آخر میں خاموش بیٹھے تھے، خلیفہ فردا فردا ہر فقیہ کو توجہ دے رہا تھا کہنے لگا: وہ شیخ رہ گئے جو مجلس کے آخر میں بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی

بات نہیں کی۔ میں نے ان سے کہا: امیر المؤمنین آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلام کیوں نہیں کر رہے جیسے آپ کے ساتھی کلام کر رہے ہیں؟ فرمایا: امیر المؤمنین فقہائے کرام کی باتیں سن چکے ہیں اور ان میں کئی باتیں قابل قبول ہیں۔ ہارون رشید نے کہا: ان سے کہو کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں: اگر ہماری یہی خواہش ہوتی تو اپنے فقہاء سے ہی سن لیتے اور تمہیں تمہارے شہروں سے نہ بلواتے اور نہ ہی آپ کو اس مجلس میں لایا جاتا۔ آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ نے فرمایا: اگر امیر المؤمنین اس معاملے میں میری بات سننا چاہیں تو اپنی مجلس کو خالی کر دیں۔ لہذا خلیفہ کی مجلس میں جو فقہاء اور دیگر لوگ تھے وہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ نے کہا: آپ گفتگو کیجئے۔ حضرت سیدنا لیس بن سعد رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ نے فرمایا: کیا امیر المؤمنین مجھے اپنے نزدیک کر سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا: اس خادم کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور اس کا ہونا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا: امیر المؤمنین! کیا میں ان شرائط پر گفتگو کر سکتا ہوں کہ مجھے جان کی امان ملے اور بے تکلف و بے خوف رہوں نیز امیر المؤمنین میری ہر بات مانیں؟ خلیفہ نے کہا: آپ کی باتیں پوری ہوں گی۔ آپ نے کہا: امیر المؤمنین! قرآن مجید منگو لیجئے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا میں نے پیش کر دیا۔ آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ نے فرمایا: امیر المؤمنین اسے لیں اور اس کے صفحات پلٹ کر سورہ رحمن نکالیں ہارون رشید نے قرآن مجید لیا اور صفحات پلٹ کر سورہ رحمن نکال لی پھر آپ نے کہا: امیر المؤمنین اسے پڑھیں تو ہارون رشید اسے پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔

(پہلے ۲، رحمن: ۴۶)

تو حضرت سیدنا لیس بن سعد رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ نے کہا: امیر المؤمنین! یہیں رک جائیں۔ وہ رک گیا، آپ نے کہا: امیر المؤمنین کہیں: خدا کی قسم۔ یہ بات مجھے اور خلیفہ دونوں کو بہت سخت لگی تو خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: اے امیر المؤمنین! میری بات ماننا تو طے ہو چکا تھا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین نے اپنا سر جھکا لیا (اور زبیدہ خاتون مجلس کے قریب حجرے میں پردہ کے پیچھے بیٹھی گفتگو سن رہی تھیں) پھر ہارون رشید نے سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم۔ آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہ نے کہا: وہ کہ جس رحمن و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں تک کہ قسم کے آخری الفاظ تک پہنچتے ہوئے فرمایا: امیر المؤمنین! کیا آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور کھڑے ہونے

سے ڈرتے ہیں؟ کہا: میں اللہ عزوجل کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا: امیر المؤمنین! پھر تو آپ کے لئے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی وقت میں نے پردے کے پیچھے سے تالی اور فرحت و سرور کی آواز سنی اور ہارون رشید نے کہا: خدا کی قسم! بہت خوب، اللہ عزوجل آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پھر خلیفہ نے حضرت سیّدنا لایت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے انعامات اور خلعتوں کا حکم دیا اور پھر کہا: شیخ! آپ جو چاہیں لے لیجئے اور جو چاہیں مانگ لیجئے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! کیا یہ خادم بھی دیا جائے گا جو آپ کے سر ہانے کھڑا ہے؟ اس نے کہا: یہ خادم بھی۔ آپ نے فرمایا: امیر المؤمنین! آپ کی اور آپ کی چچا زاد زبیدہ خاتون کی مصر میں موجود جاگیروں پر مجھے مقرر کر کے اسے میرے سپرد کر دیا جائے تاکہ میں اس کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکوں؟ خلیفہ نے کہا: بلکہ ہم وہ آپ ہی کو دے دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں اس میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کی جائیداد میرے پاس بطور امانت ہو تاکہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے اور مجھے اس کی وجہ سے معزز گردانا جائے۔ خلیفہ نے کہا: یہ آپ کا ہوا پھر خلیفہ نے آپ کے لیے دستاویز لکھنے اور ان باتوں کو رجسٹر میں درج کرنے کا حکم دیا اور امیر المؤمنین کے سامنے تمام انعامات، خلعتیں اور خادمین کو پیش کیا گیا اور زبیدہ خاتون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے دگنا دیا جتنا خلیفہ نے دیا تھا پھر تمام مال آپ کے حوالے کر دیا گیا اور آپ نے مصروف جانے کی اجازت مانگی تو آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ کیا گیا۔

## سیّدنا لایت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہرویات

حضرت سیّدنا لایت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بڑے بڑے تابعین کرام سے روایتیں لی ہیں جن میں حضرت سیّدنا عطاء بن ابورباح، حضرت سیّدنا عبید اللہ بن عبید اللہ بن ابوملک اور حضرت سیّدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام حضرت سیّدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔

منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچاس سے زائد تابعین اور 150 تبع تابعین و دیگر نفوس قدسیہ سے ملاقات کی ہے۔ نیز آپ سے بڑے بڑے بزرگوں نے روایات لی ہیں جن میں حضرت سیّدنا ہشیم بن بشیر، حضرت سیّدنا علی بن غراب، حضرت سیّدنا خثیم بن علی غزالی، حضرت سیّدنا عبید اللہ بن مبارک اور مصریوں میں

سے حضرت سیدنا ابن ابیہ، حضرت سیدنا ہشام بن سعد اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن وہب رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔  
 ﴿10913﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم، نُوْرُ مَبْجَمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کشمش اور کھجور ملا کر اور خشک و تر کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## خاتونِ جنت کا مقام و مرتبہ:

﴿10914﴾... حضرت سیدنا مشور بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مختار، باذن پروردگار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ہو ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگتے ہیں تو کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ میرا عکرا ہے جو چیز اسے بُری لگے وہ مجھے بُری لگتی ہے اور جو چیز اسے اید اے وہ مجھے اید اوتی ہے۔<sup>(۲)</sup>  
 ﴿10915﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! حاطب ضرور جہنم میں جائیں گے تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم جھوٹے ہو، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ غزوہ بدر اور حد نبیہ میں حاضر تھے۔<sup>(۳)</sup>

## فجر و عصر میں فرشتوں کی حاضری:

﴿10916﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک رات اور دن کے فرشتے باری باری تمہارے درمیان آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں پھر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کے لئے بلند ہو جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے پایا؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔<sup>(۴)</sup>

①... مسلم، کتاب الاثریۃ، باب کراہۃ انتقاء الثمر والزیب غلطین، ص ۱۰۹۸، حدیث: ۱۹۸۶

②... ترمذی، کتاب الناقب، باب فضل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ۳۶۲/۵، حدیث: ۳۸۹۳

③... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اہل بدر رضی اللہ عنہم، ص ۱۳۵۶، حدیث: ۲۴۹۵

④... بخاری، کتاب بیہ الخلق، باب ذکر اللاتکۃ، ۳۸۵/۲، حدیث: ۳۲۲۳

﴿10917﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم! میں روزانہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ واستغفار کرتا ہوں<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

﴿10918﴾... حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے سے گرنے<sup>(۳)</sup> کے سبب خراش آئی تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی<sup>(۴)</sup>۔<sup>(۵)</sup>

﴿10919﴾... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، وہ نماز کا سا وضو کر لے۔<sup>(۶)</sup>

## قبلہ رو پیشاب کرنے کی ممانعت:

﴿10920﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن حارث زُبَیْدِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے معلم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: "لَا يَزُولُنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ" یعنی تم میں سے کوئی قبلہ رو کو پریشاب نہ کرے۔<sup>(۱)</sup> اور انہوں نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو یہ حدیث بیان کی ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿10921﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے تمام نبیوں کے

① توبہ واستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے اسی لیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر عامل تھے یا یہ عمل ہم گنہگاروں کی تعلیم کے لیے ہے ورنہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۳/۳۵۳)

②... بخاری، کتاب الدعوات، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم والليلة، ۱۹۰/۳، حدیث: ۶۳۰۷

③... شیخ (مباحث محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ) نے فرمایا کہ یہاں حضور کا گھوڑے سے گر جانا اور کروٹ چھیل جانا بحکم بشریت ہے شیخ کا مطلب یہ کہ معراج میں برق رقار پر باق پر سوار ہونا اور آسمانوں کی سر کرنا یہ تقاضائے ملکوت تھا۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۰۸)

④... جو رکوع و سجود سے عاجز ہے یعنی وہ کہ کھڑے یا بیٹھے رکوع و سجود کی جگہ اٹھا کر تاہو، اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی جو رکوع و سجود پر قادر ہے اور اگر پیچھے کر رکوع و سجود کر سکتا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی ہوجائے گی۔

(بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۵۷۱)

⑤... بخاری، کتاب الاذان، باب اجاب التکبیر و افتتاح الصلاة، ۲۶۱/۱، حدیث: ۷۳۳

⑥... مستند امام احمد، مستند عمر بن الخطاب، ۱/۱۰۰، حدیث: ۳۰۶

⑦... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و سنتہا، باب النبی عن استقبال القبلة بالغائط والبول، ۲۰۱/۱، حدیث: ۳۱۷



سرور، محبوب رب اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے لئے طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگائی<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

## سمندر کے جھاگ برابر گنتا ہوں کی بخشش:

﴿10922﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت، شَفِیعُ امّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ، 33 مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، 33 مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ اور ایک مرتبہ ”لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدًا لَا شَرِیکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ”کہا تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

﴿10923﴾... حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: گیہوں سے شراب بنتی ہے، جو سے شراب بنتی ہے، کھجور سے شراب بنتی ہے، کشمش سے شراب بنتی ہے، شہد سے شراب بنتی ہے اور میں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں<sup>(۴)</sup>۔<sup>(۵)</sup>

﴿10924﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن اثیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے

①... مفسر شعیب، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مرآۃ المناجیح، جلد 4، صفحہ 102 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: بقر عید کے دن حاجی جرہ عقبہ کی رمی کر کے کچھ حلال ہو جاتا ہے، پھر طواف زیارت کر کے پورا حلال ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی عورت سے صحبت بھی جائز ہو جاتی ہے، (اَلْمَرْءُ لَا یَمْنُنُ حَضْرَتُ سَیِّدَتِنَا امّہ صَدِیقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا) فرماتی ہیں کہ میں ناقص حل پر ہی خوشبو حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو لگا دیتی تھی، اس کے بعد آپ (طواف) زیارت کرتے تھے۔

رَفِیْعُ الْاَعْرَیْنِ، صفحہ 199 پر بہار شریعت کے حوالے سے ہے کہ (علق یا تقصیر کے بعد) اب عورت سے صحبت کرنے، بشہوت اسے باجماع لگانے، بوسہ لینے، شرم گاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ اِخْرَام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۰۶/۱۱۳۳)

②... مسلم، کتاب الحج، باب الطیب للمحرم عند الاحرام، ص ۶۰۸، حدیث: ۱۱۸۹

③... سنن کبیری للسنائی، کتاب عمل الیوم والليلة، باب التسمیح والتکبیر... الخ ۶/۳۲، حدیث: ۹۹۷۳

④... ان تمام شرابوں کو خر فرمانا مجاز ہے یعنی یہ شرابیں گویا خمر ہی ہیں کہ عقل بگاڑنے بے ہوش و نشہ کرنے میں خمر کا کام کرتی ہے اور ان کے نشہ پر بھی خمر کے نشہ کے احکام جاری ہیں ورنہ خر صرف شراب انگری کو کہا جاتا ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۵/۳۲۲)

⑤... مستند امام احمد، حدیث النعمان بن بشیر، ۶/۳۸۵، حدیث: ۱۸۳۵

عُرْوۃُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَآلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا سب سے بڑے گناہ ہیں اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سچی قسم کھائے اور اس میں مجھ کے برابر جھوٹ شامل کر دے تو وہ قسم قیامت تک کے لئے اس کے دل میں سیاہ نکتہ بن جاتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10925﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔

### حضرت سیدنا علی و حضرت سیدنا حسن عَلَیْہِمَا الرِّحْمَہ

ان بزرگوں میں سے عبادت گزار اور فقیہ بڑواں بھائی حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا حسن بن صالح بن حمزہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بھی ہیں، انہیں علم، عبادت، قناعت اور زہد کی دولت عطا کی گئی۔

### رات کو عبادت میں تقسیم کرنے والا گھرانہ:

﴿10926﴾... حضرت سیدنا و کبیر بن جراح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا حسن اور ان کی والدہ محترمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم نے رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے حضرت سیدنا علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تہائی رات تک عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر حضرت سیدنا حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تہائی رات تک عبادت کرتے اور سو جاتے پھر ان کی والدہ محترمہ تہائی رات تک عبادت کرتیں، جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے رات کو بانٹ لیا پھر وہ اس کے مطابق صبح تک عبادت کرتے پھر حضرت سیدنا علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پوری رات عبادت کرنے لگے۔

﴿10927﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن بکر بن حنظل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن صالح کے بھائی حضرت سیدنا علی تھے جو حضرت سیدنا حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر فضیلت رکھتے تھے، وہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ محترمہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور عبادت پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، رات عبادت میں اور دن روزے میں گزارتے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ دونوں اپنے اور اپنی والدہ کے وقت

سے بھی رات کی عبادت اور روزے پر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، جب حضرت سیدنا علی کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے اور ان دونوں کے وقت میں بھی عبادت کرنے لگے، حضرت سیدنا حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ”حَبِیۃُ النِّوَادِی“ یعنی رات کو نہ سونے والا کہا جاتا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے: مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میں بتکلف سونے کی کوشش کروں حالانکہ میں نیند کر چکا ہوں، پس اگر میں سو کر اٹھنے کے بعد پھر سونے کے لئے جاؤں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ میری آنکھوں کو نہ سلائے۔ آپ کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے، جب آپ کا بچہ مسجد میں آپ کے پاس آکر کہتا کہ ”مجھے بھوک لگی ہے“ تو آپ اسے کسی چیز سے بہلانے لگتے یہاں تک کہ خادم بازار جا کر وہ سوت فروخت کر تا جو آپ کی کنیز نے رات کو کاتا ہوتا پھر وروٹی اور تھوڑے سے جو خرید کر لاتا اور کنیز اسے پیس کر آتا گوندتی پھر روٹی بناتی جسے بچے اور خادم کھا لیتے جبکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے افطار کے لئے رکھ دیا جاتا، آپ کا یہ معمول ہمیشہ رہا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آپ پر رحمت ہو۔

### خوف و خشیت:

﴿10928﴾... سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدَسَ سِرُّہُ الثَّوَلَوِی فرماتے ہیں: میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے چہرے پر سیدنا حسن بن صالح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے زیادہ خوف و خشیت کا ظہور ہو، وہ رات کو قیام کرتے اور عَمَّ یَسْأَلُونَ ﴿سورۃ نبا﴾ کی تلاوت کرتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور اسے ختم بھی نہیں کر پاتے کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔

### خواہش کے باوجود مچھلی نہ کھائی:

﴿10929﴾... حضرت سیدنا سلیمان بن ادریس مُتَرِی عَنِیْہُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بن صالح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوتی، جب انہیں پیش کی گئی اور آپ نے اپنا ہاتھ مچھلی کے پیٹ تک بڑھایا تو آپ کا ہاتھ کانپنے لگا، چنانچہ آپ کے حکم پر اسے اٹھالیا گیا اور آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، کسی نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: جب میں نے مچھلی کے پیٹ پر ہاتھ مارا تو مجھے یاد آ گیا کہ انسان کی سب سے پہلے سرنے والی چیز اس کا پیٹ ہے بس پھر مجھ میں مچھلی جھکنے کی طاقت نہ رہی۔

### حقوق العباد کی فکر:

﴿10930﴾... حضرت سیدنا ابونعیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بن صالح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

عَلَيْهِ اِيك باغ كے پاس آئے، مٹی كا ايك ڈھيلا لے كر اس سے تميم كيا پھر باغ والوں كے گھر كا دروازہ كھٹكنا كر ان سے فرمايا: میں نے تمہارے باغ سے مٹی كا ڈھيلا لے كر اس سے تميم كيا ہے لہذا مجھے معاف كر دو۔

﴿10931﴾... حضرت سَيِّدنا ابو عتبہ عبا وَعْتَبَہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ہم حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ كی ايك بات دى فرخت كرنے لگے تو آپ نے فرمایا: لوگوں كو بتا دينا كہ ہمارے ہاں اس كی كھٹكھار سے ايك مرتبہ خون نكلا تھا۔

﴿10932﴾... حضرت سَيِّدنا اسحاق بن خلف رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بيان كرتے ہیں كہ حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بازار میں داخل ہوئے، میں بھی ان كے ساتھ تھا، آپ نے كسى كو كپڑے سيٹے اور كسى كو رنگتے ديكھا تو رونے لگے پھر فرمایا: انہیں ديكمو يہ دنيائى كاموں میں لگے ہوئے ہیں حَتَّى كہ انہیں موت آجائے گی۔

### زبان اور ورع و تقوى:

﴿10933﴾... حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ہم نے ورع و تقوى كا جائزہ ليا تو زبان سے كم ورع و تقوى كسى چيز میں نہ پايا۔

﴿10934﴾... حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: كبھی كبھی میں اس حال میں صبح كرتا ہوں كہ ميرے پاس ايك درہم بھی نہیں ہوتا تو ايسا لگتا ہے گویا ساری دنيا سميت كر ميری مٹھی میں ركھ دي گئی ہو۔

﴿10935﴾... حضرت سَيِّدنا یحییٰ بن یونس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ كے سامنے حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے كا ذكر كيا گيا تو آپ نے فرمایا: میں نماز كے وقت جب بھی آپ كے پاس آتا آپ پر غشى طاری ہوتی اور آپ جب بھی قبرستان كو ديكمتے تو چنچر مار كر بيہوش ہو جايا كرتے تھے۔

### جان لیوا زخم كا علم بھی نہ ہونے ديا:

﴿10936﴾... حضرت سَيِّدنا حسن بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں كہ جب ميرے بھائی حضرت علی بن صالح رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ كی موت كا وقت آيا تو انہوں نے آسمان كی طرف نظر كی پھر یہ آيت پڑھی:

فَمَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدِ اَوْ الصّٰلِحِيْنَ  
ترجمہ كنز الایمان: (تو اُسے ان كا) ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل كيا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نيك لوگ یہ كياں

اجھے ساتھی ہیں۔

وَحَسَنٌ أُولَٰئِكَ رَافِقًا ﴿١٩﴾ (پ: ۵، النساء: ۱۹)

پھر ان کی روح نکل گئی، جب ہم نے ان کے پہلو کی طرف دیکھا تو وہاں ایک سوراخ تھا جو پیٹ تک جا رہا تھا مگر گھر میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔

﴿10937﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا: میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگوں کو ایک نیکی کے بدلے دس گنا دیا جا رہا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ گویا ایک دن میں نے نصف درہم صدقہ کیا اور میرے ایک دن کے بارے میں لکھا ہے کہ ”نہ مجھے فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان۔“

## خوف کی شدت:

﴿10938﴾... حضرت سیدنا حمید زوادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے پاس تھا اور ایک شخص یہ تلاوت کر رہا تھا:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ  
ترجمہ کنزالایمان: انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ (پ: ۱۷۴، الانبیاء: ۱۰۳)

تو حضرت سیدنا علی نے حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کو دیکھا جن کی رنگت زرد اور سبز ہو رہی تھی، فرمایا: اے حسن! یہ تو پے در پے غم ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چیخ نکلتی لگی مگر انہوں نے اپنا کپڑا اکٹھا کر کے دانتوں میں دبایا حتیٰ کہ آپ پر سکون ہو گئے اور چیخ رک گئی مگر آپ کا منہ خشک ہو چکا تھا اور رنگت سبز زرد ہو رہی تھی۔

﴿10939﴾... حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ جب حضرت سیدنا علی علیہ السلام سے کہا گیا:

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي الْهَيْبِينَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿١٧﴾ (پ: ۵، المائدہ: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دود خدا بنا لو اللہ کے سوا۔

تو آپ کا جوڑ جوڑ ملنے لگا۔

﴿10940﴾... حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے اپنے بیٹے کو یہ آیت سنائی:

إِنَّمَا أَنْتَ مُثْقَلٌ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  
فَتَكُنْ فِي صَحْرٍ أَوْ فِي السُّبُوطِ أَوْ فِي  
الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ ۖ (پ: ۲۱، لقمن: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو اللہ اسے لے آئے گا۔

بیٹے نے اس میں غور و فکر کیا تو انتقال کر گیا۔

ایچھے اور بُرے عمل کے اثرات:

﴿10941﴾... (الف) حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے فرمایا: اچھا عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے جبکہ بُرا عمل بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے۔

﴿10941﴾... (ب) حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں: دن اور رات ہر نئی چیز کو پُرانا کر رہے ہیں، ہر دور والی چیز کو نزدیک کر رہے ہیں اور ہر وعدے اور وعید کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، دن کہتا ہے: اے ابن آدم! مجھ سے فائدہ اٹھالے، تجھے نہیں معلوم شاید میرے بعد تجھے کوئی دن نصیب نہ ہو اور رات بھی آدمی سے اسی طرح کہتی ہے۔

﴿10942﴾... حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں: تم فقیر نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم ہر اس شخص سے بے پروا نہ ہو جاؤ جس کے ہاتھ میں دنیا ہے۔

﴿10943﴾... حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کے لئے خیر کے ننانوے دروازے کھولتا ہے اور اس کے ذریعے وہ بُرائی کے کسی ایک دروازے پر پہنچانا چاہتا ہے۔

﴿10944﴾... حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

يَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْعَالِيَةِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں

آگے بھیجا۔

(پ: ۲۵، الحاکم: ۲۵)

کے بارے میں فرمایا: ہم نے سنا ہے کہ وہ روزے ہیں۔

## سَيِّدُنَا عَلٰی وَسَيِّدُنَا حَسَنٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا كِي مَرَوِيَات

حضرت سیدنا علی و حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمَا نے متعدد تابعین و تبع تابعین سے روایتیں لی ہیں اور ان دونوں میں کثرت حدیث اور زیادہ شہرت والے حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ہیں۔

﴿10945﴾... حضرت سیدنا عبدُ اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیَان صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد رکھے حتیٰ کہ اسے اپنے سے زیادہ یاد رکھنے والے تک پہنچا دے اور وہ زیادہ یاد رکھنے والا اسے اپنے سے بڑے فقیہ تک پہنچا دے کیونکہ بہت سے فقہ اٹھانے والے فقیہ نہیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup>

**دُگنے اجر والے لوگ:**

﴿10946﴾... حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تین اشخاص کو دُگنا اجر دیا جائے گا: (۱)... جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، اس نے اسے اچھا ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور (اسے آزاد کر کے) اس سے نکاح کر لیا۔ (۲)... اہل کتاب میں سے وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لایا اور (۳)... وہ غلام جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کیا۔<sup>(۲)</sup>

﴿10947﴾... حضرت سیدنا عبدُ اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرور کونین، شہنشاہ دارین صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ولاء کی بیعت اور اسے بہہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۳)</sup> - (۴)

﴿10948﴾... حضرت سیدنا عبدُ اللہ بن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا روایت کرتے ہیں کہ حضور صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسجدِ قبا کی زیارت کے لئے کبھی پیدل جاتے اور کبھی سواری پر۔<sup>(۴)</sup>

①... ابو داؤد: کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، ۳۵۰/۳، حدیث: ۳۶۶۰۔ سنن دارمی، کتاب المقدمة: باب الاعتقاد بالعلماء، ۸۶/۱، حدیث: ۲۲۹۔

②... مسلم۔ کتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، ص ۹۰۔ حدیث: ۱۵۳۔

③... ولاء دلی سے بنا بمعنی قرب، شریعت میں استحقاق میراث کو ولاء کہتے ہیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۲۸۲)۔

④... بخاری، کتاب الحقی، باب بیع الولاء وھبہ، ۱۵۵/۲، حدیث: ۲۵۳۵۔

⑤... مسلم، کتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فیه وزيارتہ، ص ۴۳، حدیث: ۱۳۹۹۔

## اہل خانہ کی اصلاح:

﴿10949﴾... (الف) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم، ﷺ حضور نبی اکرم، ﷺ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوڑا وہاں لٹکاؤ جہاں گھر والے اسے دیکھ سکیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿10949﴾... (ب) حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کبیڈے آقا مدینے والے مصطفیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے گھر والوں سے لاشی دور نہ کرو اور انہیں اللہ عزوجل سے ڈراتے رہو۔<sup>(۲)</sup>

﴿10950﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں رات میں جھنی ہو جاتا

ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضو کر لیا کرو اور عضو دھو کر پھر سو جایا کرو۔<sup>(۳)</sup>

## مہرِ نبوت:

﴿10951﴾... حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین، رَحْمَةُ

لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کبوتری کے انڈے کی مثل مہرِ نبوت دیکھی ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿10952﴾... حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، ﷺ رؤف رحیم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصالِ ظاہری سے پہلے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10953﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم،

رسولِ مکتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی، ان میں ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔<sup>(۶)</sup>

①... معجم کبیر، ۱۰/۲۸۳، حدیث: ۲۰۶۶۹، عن ابن عباس

②... یعنی بیوی بچوں کے حالات پر نگاہ رکھو ان کی اصلاح کرتے رہو، چھوٹے بچوں کو تومار سے اور بڑوں کی زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے۔

قیامت میں تم سے ان کا بھی سوال ہو گا، رب فرماتا ہے: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ" (اب ۲۸، التحریرو: ۶)۔ "مرآۃ المناجیح، ۱/۸۰)

③... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب العیال، باب تعلیم الرجل اہلہ، ۷/۷۷، حدیث: ۳۳۱، عن ابن عمر

④... بخاری، کتاب الفسل، باب الجنب یقوض اثمہ، ۱۲۸/۱، حدیث: ۲۹۰

⑤... معجم کبیر، ۲/۲۳۱، حدیث: ۲۰۰۹

⑥... مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب جواز المناخلة قائما وقاعدا... الخ، ص ۷۰، حدیث: ۳۳

⑦... مسند امام احمد، حدیث عبد اللہ بن ابی اوفی، ۷/۷۷، حدیث: ۱۹۱۳



﴿10954﴾... (الف) حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو اس پر چار تکبیریں کہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿10954﴾... (ب) حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلق کے رہبر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جس غلام نے اپنے آقا یا اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ زانی ہے۔<sup>(۲)</sup>

## عورتوں کو مسجد نہ جانے کا حکم کیوں؟

﴿10955﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اگر میرے سر تاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم وہ نئی نئی باتیں ملاحظہ فرماتے جو آپ کے بعد عورتوں نے کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرمادیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئی تھیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿10956﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کو دیکھا کہ آپ نے حالت سفر میں موزوں پر مسح کیا۔<sup>(۴)</sup>

## امام کے پیچھے تلاوت کی ممانعت:

﴿10957﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منطلق کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10958﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ

①... معجم صغیر، جزء ۱، ص ۹۷، حدیث: ۳۷۰

②... امام شافعی و احمد کے ہاں غلام کا نکاح بغیر مولیٰ کی اجازت کے منعقد ہی نہیں ہو تا لہذا اگر بعد میں مولیٰ اجازت بھی دے دے تب بھی درست نہیں مگر امام اعظم اور امام مالک کے ہاں نکاح مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر جائز رکھے تو جائز ورنہ باطل جیسے نکاح فضولی کا حکم ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک کے انکار کے باوجود غلام نکاح کرے تو نکاح باطل ہے اور طہی حرام، یا مالک کی اجازت سے پہلے و طہی درست نہیں جیسے تمام موقوف نکاحوں کا حکم ہے۔ (مراۃ المناجیح، ۲۹/۵)

③... ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی نکاح العبد بغیر اذن سید، ۳۳۱/۳، حدیث: ۴۰۷۸

④... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاۃ، باب شہود النساء للجماعۃ، ۵۷/۳، حدیث: ۵۱۷۷

⑤... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطہارۃ، باب فی المسح علی الخفین، ۲۰۶/۱، حدیث: ۲۱

⑥... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، ۳۶۳/۱، حدیث: ۸۵۰

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بانی والے دانے کو کھلے دانے کے عوض، درخت پر لگے پھلوں کو اسی قسم کے اتارے ہوئے پھلوں کے عوض اور درخت پر لگی کھجوروں کو چند سالوں کے ادھار پر بیچنے سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10959-60﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رحمت کو نہیں، شہنشاہِ دارین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھے وہ چار رکعات پڑھے۔<sup>(۲)</sup>

## مالِ مسلم کی حرمت:

﴿10961﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رحمتِ عالم، تُوْرُ مُجَسِّم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10962﴾... حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ میری ملاقات میرے ماموں جانِ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہوئی ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے کہا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا: مجھے حضور نبی کریم، رَزَوَقَتْ رَحِمَ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کی گردن مارنے کے لئے بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔<sup>(۴)</sup>

﴿10963﴾... حضرت سیدنا عادی بن عمیر کنڑی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صاحبِ بُوْد و سَخَا، پیکرِ شرم و حیا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: تم میں سے جو ہمارے کام پر عامل ہو پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم چیز پُچھالے تو یہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔<sup>(۵)</sup>

﴿10964﴾... اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ مِعْرَاج صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔<sup>(۶)</sup>

①... المجالسة و جواهر العلم: الجزء السادس والعشرون، ۳/۲۷۳، حدیث: ۳۷۱۳

②... مسلم، کتاب الجمعة، باب الصلاة الجمعة، ص ۳۳۶، حدیث: ۸۸۱

③... البحر الزخار، الإغمش عن أبي وائل عن عبد الله، ۵/۱۱۷، حدیث: ۱۶۹۹

④... ترمذی، کتاب الاحکام، باب فیمن تزوج بامرأة لیه، ۷۸/۳، حدیث: ۱۳۶۶

⑤... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب السیر، باب ما ذکر فی الغلول، ۷/۷۱۱، حدیث: ۹

⑥... نسائی، کتاب الطہارة، باب ترک الوضوء بعد الغسل، ص ۳۸، حدیث: ۳۵۲

﴿10965﴾... حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ بھول گئے؟ ارشاد فرمایا: بلکہ تم بھول گئے اس کا حکم مجھے میرے رب ﷻ نے دیا ہے۔<sup>(۱)</sup>



## حضرت سیدنا داؤد بن نصیر طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

عقلمند فقیہ، صاحب بصیرت و محافظ ابوسلیمان داؤد بن نصیر طائی بھی انہی بزرگان دین میں سے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، سبقت حاصل کرتے ہوئے آگے نکل گئے، کثرت قیام کے سبب دُبل ہو گئے، گہری فکر میں مبتلا رہے، خوف نے آپ کو لاغر کر دیا، بے چینی و اضطراب نے آپ کو ہر چیز سے غافل کر دیا۔ منقول ہے: سبقت حاصل کرنے کے لئے تیز چلے اور مالک حقیقی سے ملنے کے لئے دُبل ہو جانے کا نام تَصَوُّف ہے۔  
**موت کی فکر:**

﴿10966﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ملا اور آپ سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو! کیونکہ مجھے جلدی ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔

حضرت سیدنا سفیان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو فرماتے: حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے معاملے پر خوب نظر رکھی۔

﴿10967﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: دین داری تو وہ ہے جس پر حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عمل پیرا رہے۔

﴿10968﴾... حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: عبادت گزار مجھ پر سبقت لے گئے، ہائے افسوس! میری امید ٹوٹ گئی۔

﴿10969﴾... حضرت سیدنا ظفر بن عبد الرحمن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داؤد

طاہی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: ابو سلیمان! تیرا اندازی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں اسے سیکھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: تیرا اندازی کرنا بلاشبہ اچھا عمل ہے لیکن وہ بھی تمہاری زندگی کے دن ہیں غور کر لینا کہ انہیں کس کام میں گزار رہے ہو۔

### پہلے فقیہ پھر عالم پھر عابد:

﴿10970﴾... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حضرت سیدنا داود طاہی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ان لوگوں میں سے تھے جو فقیہ بنے پھر عالم بنے پھر عابد بن گئے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امام الفقہاء حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دن آپ نے ایک آدمی کو کاٹا تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے فرمایا: ابو سلیمان! آپ کے ہاتھ اور زبان لمبے ہو گئے ہیں۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ آتے جاتے تھے لیکن گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے جان لیا کہ آپ بقدر کفایت علم حاصل کر چکے ہیں تو اپنی کتابیں نہر فرات میں بہا دیں اور عبادت کی طرف متوجہ ہو کر خلوت نشین ہو گئے، حضرت سیدنا زکریا رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ آپ کے دوست تھے، ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے اور کہا: ابو سلیمان!

اَلَمْ یُعَلِّمَ الرَّؤُوفُ ﴿۱﴾ (پ: ۲۱، الروم: ۲۱)

حضرت سیدنا داود طاہی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس آیت کے بارے میں پوچھنے پر جواب دیا کرتے تھے لیکن آپ نے فرمایا: ابوصلت! جواب کا وقت گزر گیا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر چلے گئے۔

### داود طاہی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کی عظیمتوں کا اعتراف:

﴿10971﴾... مقام جزیرہ میں رہنے والے حضرت سیدنا وکیع بن جراح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا ابو سفیان عبد الرحیم بن مظرف زواہی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا داود طاہی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو عباس محمد بن سہاک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے آپ کا زہد بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”اے لوگو! دنیا والے تیزی سے دل کے غموں، نفسانی خواہشات اور بدن کو تھکا دینے میں جلدی کر رہے ہیں حالانکہ حساب سخت ہے، اہل رغبت کے لیے رغبت دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے اور زاہدین کے لیے زہد دنیا و آخرت میں راحت ہے، بے شک حضرت سیدنا داود طاہی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے دل سے اپنے آگے کے معاملے

کو دیکھا تو آپ کے دل کی بصیرت نے آنکھوں کی بصارت کو ڈھانپ دیا گویا جو تم دیکھتے ہو اسے وہ نہیں دیکھتے اور جسے وہ دیکھتے ہیں اسے تم نہیں دیکھتے، تم ان پر تعجب کرتے تھے اور وہ تم پر، جب انہوں نے دیکھا کہ تم دنیا کی محبت اور اس کے دھوکے میں ایسے ڈوبے ہو کہ تمہاری عقلیں دنیا پر فدا ہو گئیں، دنیا سے محبت کے سبب تمہارے دل مردہ ہو چکے، تم دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گئے اور تمہاری نظریں دنیا کی طرف پھیل گئیں تو وہ زائد تم سے نامانوس ہو گیا۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو جان لیتے کہ وہ دنیا والوں سے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ مردوں کے درمیان زندہ تھے۔

پھر حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے داود! آپ کی شان بڑی نرمی ہے، آپ کی خوبی میں مزید اضافہ اس بات سے ہوا کہ آپ نے اپنے اہل زمانہ میں اپنے نفس پر خاموشی لازم کر لی حتیٰ کہ اپنے نفس کو عدل پر قائم کر دیا، آپ نے اس کی توہین کی تو اسے عزت دینے کی نیت سے، اسے ذلیل کیا تو اسے اعزاز اکرام دینے کے ارادے سے، اسے جھکا یا تو اسے بلند کرنے کے ارادے سے، اسے تھکا دیا تاکہ اسے راحت نصیب ہو، اسے بھوکا رکھا تاکہ وہ سیر ہو جائے، اسے پیاسا رکھا تاکہ وہ خوب سیراب ہو جائے، اسے کھر در لباس پہنایا تاکہ وہ نرم لباس پہن سکے، اسے معمولی کھانا کھلایا تاکہ عمدہ و پاکیزہ کھانے کھا سکے، آپ نے مرنے سے پہلے ہی اسے ماردیا، تدفین سے پہلے ہی اسے دفن کر دیا، اس کو عذاب ہونے سے پہلے عذاب میں مبتلا کیا، اسے لوگوں سے چھپائے رکھا کہیں اسے شہرت نہ مل جائے، آپ نے اسے دنیا سے دور رکھ کر دنیا کو کوئی قدر و اہمیت نہ دی اور آپ نے اخروی بیویوں، اخروی لباس، موٹے و باریک ریشم کی خاطر اپنے نفس کو دنیوی بیویوں، کھانوں اور لباس سے دور رکھا۔

میرا یہی گمان ہے کہ آپ نے جس کی رغبت کی اور جسے طلب کیا اسے پانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی پہچان چہرہ اور ظاہر کے بجائے آپ کا عمل اور باطن تھا، آپ نے اپنے دین میں فقہات حاصل کی پھر لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ فتویٰ دینے اور فقہ سیکھنے میں لگے ہیں، آپ نے احادیث کی سماعت کی اور لوگوں کو حدیثیں بیان کرتا اور روایات کرتا چھوڑ دیا، آپ بولنے سے گونگے ہو گئے اور لوگوں کو باتیں کرتا چھوڑ دیا، آپ نے نیک لوگوں سے حسد کیا نہ شریر لوگوں کو بُرا بھلا کہا، خلیفہ کا عطیہ قبول کیا نہ امیروں کا ہدیہ، حرص و دلالت آپ کو زلت میں ڈالانے آپ نے لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لی، بارگاہ الہی میں خلوت نشین رہتے تو مانوس رہتے، لوگوں میں بیٹھتے تو گھبراہٹ کا شکار رہتے، جس سے آپ گھبراتے اس سے لوگ انسیت پاتے تھے اور جس سے

آپ انسیت پاتے اس سے لوگ گھبراتے تھے، آپ سفر میں رہنے والے مسافروں کی حد کو پار کر گئے اور اس حد سے بھی بڑھ گئے جو قید خانے میں قیدیوں کی ہوتی ہے۔

مسافر تو اپنا کھانا اور مٹھائی اٹھائے ہوتے جبکہ آپ کے پاس مہینہ بھر کے لیے ایک یا دو روٹیاں ہوتیں جنہیں آپ اپنے منکے میں ڈال دیا کرتے، جب روزہ افطار کرتے تو اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق روٹی لے کر اسے اپنے وضو کے برتن میں ڈالتے پھر اس پر بقدر حاجت پانی ڈالتے اور نرم کرنے کے لئے اسے ملا لیتے تو یہ آپ کا سالن، آپ کا میٹھا اور آپ کی راحت کا کُل سلمان ہوتا، تو کوئی ہے جس نے آپ کے صبر جیسا صبر اور آپ کے عزم جیسا عزم کرنے والی کسی ہستی کے بارے میں سنا ہو؟ میرا گمان یہی ہے کہ آپ اسلاف میں شامل اور بعد والوں پر فضیلت رکھنے والے ہیں، آپ نے عبادت گزاروں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اے داؤد! آپ بعد والوں میں زندہ رہے اور پہلے والوں سے جاملے اور یقیناً آپ نے دنیا کے متوالوں کے دور میں رہتے ہوئے زاہدوں کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبے کو حاصل کیا۔

اور قیدی تو لوگوں کے ساتھ قید ہوتا ہے اور ان سے انسیت حاصل کرتا ہے کیونکہ ایک قیدی کے ساتھ بہت سے اور قیدی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے خود کو اپنے گھر میں تنہا قید رکھا جہاں آپ کا کوئی ہم نشین تھانہ کوئی بات کرنے والا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دو معاملوں میں سے کونسا آپ پر زیادہ سخت تھا: (۱)۔ گھر میں خلوت نشین جس میں کئی مہینے اور سال گزر گئے یا (۲)۔ آپ کا طرح طرح کے کھانوں اور مشروبات سے منہ موڑنا کہ نہ آپ نے ان سے کچھ کھایا اور نہ کسی چیز سے راحت حاصل کی، آپ کے دروازے پر کوئی پردہ نہ ہوتا، آپ کے نیچے کوئی بچھونا نہ ہوتا، آپ کے پاس کوئی ایسا مکان نہ تھا جس میں آپ کے لئے پانی ٹھنڈا ہوتا اور نہ ہی الگ سے کوئی ایسا پیالہ جس میں آپ کا ناشتہ یا رات کا کھانا ہوتا، پاکی حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس صراحی اور پانی پینے کے لئے ایک پیالہ تھا۔

اے داؤد! آپ کا ہر معاملہ حیرانی میں ڈالنے والا ہے، کیا آپ کو ٹھنڈے پانی، عمدہ کھانے اور نرم لباس کی خواہش نہیں ہوئی؟ ضرور ہوئی ہوگی لیکن آپ نے ان چیزوں میں زہد اختیار کیا کیونکہ آپ کے مد نظر وہ معاملہ تھا جس کی طرف آپ کو بلا یا گیا اور جس میں آپ رغبت رکھتے تھے پس آپ نے جو خرچ کیا وہ کوئی چھوٹی شے نہیں اور آپ نے جو چھوڑا وہ کوئی معمولی و حقیر چیز نہیں اور اپنی امید یا طلب کے سلسلے میں آپ نے جو کیا وہ آسان نہ تھا، بہر حال آپ جلد ملنے والی راحت میں کامیاب ہو گئے اور ان شاء اللہ عزوجل آپ دائمی زندگی میں بھی

کامیاب ہوں گے، آپ نے ہر حال میں اپنی خواہش کو مارا کہ کہیں اس کی محبت اور اس کا فتنہ آپ کو گھیر نہ لے، جب آپ وصال فرما چکے تو آپ کے رب ﷺ نے آپ کی موت کے سبب آپ کو مشہور کر دیا اور آپ کو آپ کے عمل کی چادر سے ڈھانپ دیا، جو عمل آپ نے چھپ کر کیا اور اس کا چرچا نہیں کیا تو اللہ ﷻ نے آج اسے ظاہر فرما دیا اور آپ کے نفع کو بڑھایا، آپ لوگوں سے وحشت زدہ رہے پس اگر آج آپ اپنے پیر و کاروں کی کثرت دیکھتے تو جان لیتے کہ آپ کے رب ﷻ نے آپ کو عزت و شرف سے نواز دیا ہے، آج آپ ہی اپنے قبیلے والوں کو بتائیے کہ آپ ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کا رب ﷻ اس قبیلے کی فضیلت ظاہر کر رہا ہے کیونکہ آپ کا اس سے تعلق ہے، لہذا آپ کو اپنی نیکی کے سبب اس اچھی شہرت اور کثیر پیر و کاروں کے اس حسین اجتماع کی صورت میں راحت مل رہی ہے، بے شک آپ کا رب ﷻ کسی اطاعت گزار کو ضائع نہیں کرتا نہ کسی عمل کرنے والے کو بھولتا ہے، وہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی اپنی مخلوق کو ان کے شکر سے بھی بڑھ کر بدلہ عطا فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو صلہ دیتی، جزا عطا فرماتی اور ثواب سے نوازتی ہے۔

### عظیم شان کے مالک:

﴿10972﴾... حضرت سیدنا محمد بن صباح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عباس محمد بن سہاک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے جنازے میں فرمایا: آپ کی شان بڑی نرالی ہے، ہمارے تعجب میں اس بات سے اور بھی اضافہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی تدفین سے پہلے ہی اپنے زمانے والوں سے اپنے نفس کو دفن کر دیا، آپ نے موت آنے سے پہلے ہی اے ماریا، آپ ایک یادوروٹیوں کا قصد فرماتے اور اسے اپنے منکے میں ڈال دیا کرتے، جب رات کا وقت ہو تا تو وضو کے برتن کو اپنے قریب کرتے، منکے سے روٹی نکال کر اس پر پانی ڈالتے پھر اسے ملا لیتے تو یہی آپ کا سالن ہو تا اور یہی میٹھا بھی، آپ کو عمدہ کھانے کی خواہش ہوئی تو سادہ کھانا کھایا، نرم لباس کی خواہش ہوئی تو گھردار لباس پہنا، آپ نے جو چھوڑا اسے بڑا نہیں سمجھا، لوگ جس چیز سے مانوس ہوتے آپ اس سے گھبراتے تھے اور جس سے لوگ گھبراتے آپ اس سے مانوس ہوتے تھے، آپ نے اپنے لئے فقہ حاصل کر کے لوگوں کو فقہ حاصل کرنا چھوڑ دیا اور اپنے لئے علم حاصل کر کے لوگوں کو علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو کوئی ہے جس نے سنا ہو کہ آپ کے عزم کی طرح کسی کا عزم تھا یا پھر آپ کے عمل جیسا کسی کا عمل تھا؟ آپ نے

ساری زندگی اپنی خواہش کو مارتا کہ وہ آپ کو قتلے میں مبتلا نہ کر دے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو مشہور کر دیا، آپ کو آپ کے عمل کی چادر سے ڈھانپ دیا اور آپ کے لئے لوگوں کو جمع فرمادیا، اگر آج آپ اپنے پیروکاروں کو دیکھتے تو جان لیتے کہ اللہ عزوجل نے آپ کو عزت و شرف عطا فرمایا ہے، اگر قبیلے طے والے اپنے منہ سے آپ کے سبب اپنی بڑائی بیان کریں تو یقیناً وہ اس کے حقدار ہیں کیونکہ ابو سلیمان! آپ ان ہی میں سے ہیں۔

**کنگھی کرنے کی فرصت نہ ہوتی:**

﴿10973﴾... حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا: ابو سلیمان! کیا آپ اپنی داڑھی میں کنگھی نہیں کرتے؟ فرمایا: مجھے اس کی فرصت نہیں۔

﴿10974﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابو داود خزیمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا: آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: اگر میں کنگھی میں مشغول ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فارغ ہوں۔

﴿10975﴾... حضرت سیدنا حفص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: دنیا سوگ کا گھر ہے۔

## فضائل پر لوگوں کی گواہی:

﴿10976﴾... حضرت سیدنا ابو بکر بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا اسحاق بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں سن 205 ہجری میں فرمایا: جب حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگ آپ کے جنازے کے ساتھ گئے، جب آپ کی تدفین ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو عباس ابن سماک رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے داود! آپ ساری رات جاگتے رہتے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ تمام حاضرین نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ انہوں نے فرمایا: آپ اس وقت نفع اٹھا رہے تھے جب لوگ نقصان اٹھا رہے تھے۔ سب لوگوں نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ انہوں نے فرمایا: آپ بڑائیوں سے دور رہے جب لوگ ان میں پڑے ہوئے تھے۔ تمام حاضرین نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ حتیٰ کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فضائل گنوائے، جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر بن ہشام رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ عزوجل



کی حمد کی پھر فرمایا: اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! لوگ جتنا جانتے تھے کہہ چکے، اے میرے اللہ عَزَّوَجَلَّ! امینی رحمت سے ان کی مغفرت فرما اور انہیں ان کے عمل کے سچرہ نہ فرما۔

## مذکرہ جہنم سے بیماری و موت:

﴿10977-78﴾... حضرت سیدنا حفص بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَئی روز بیمار رہے، آپ کی بیماری کا سبب یہ تھا کہ آپ نے جہنم کے تذکرے پر مبنی ایک آیت پڑھی تو رات میں اس کی تکرار کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ وصال فرما چکے تھے اور آپ کا سر اینٹ پر تھا، آپ کے بھائی اور پڑوسی آپ کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابو عباس ابن سماک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی تھے، جب انہوں نے آپ کے سر کو دیکھا تو کہنے لگے: اے داود! آپ نے تو قاریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جب آپ کو قبر تک لے جایا گیا تو آپ کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، حضرت سیدنا ابو عباس ابن سماک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا: اے داود! آپ نے قید ہونے سے پہلے اپنے نفس کو قید کیا اور اپنے محاسبے سے قبل اپنے نفس کا محاسبہ کیا لہذا آج آپ وہ ثواب دیکھ رہے ہیں جس کی آپ کو امید تھی، اسی ثواب کے لئے آپ محنت و مشقت اور عمل کرتے رہے۔ پھر آپ کی قبر کے کنارے کھڑے حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! داود کو اس کے عمل کے سچرہ نہ فرما۔ ان کے کلام پر لوگ متعجب ہو گئے۔

﴿10979﴾... حضرت سیدنا ابو عباس ابن سماک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے وصال کے دن ان کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر میں مٹی پر لیٹے تھے اور سر کے نیچے اینٹ رکھی تھی، میں ان کا حال دیکھ کر رو پڑا، پھر مجھے وہ انعامات یاد آئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے کرام کے لئے تیار کر رکھے ہیں، میں نے کہا: اے داود! آپ نے قید ہونے سے پہلے اپنے نفس کو قید کیا اور عذاب دیئے جانے سے قبل ہی اپنے نفس کو مبتلائے عذاب کیا لہذا آج آپ وہ ثواب دیکھیں گے جس کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔

﴿10980﴾... حضرت سیدنا محمد بن عبس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا لوگ تین راتوں سے یہاں آ رہے ہیں صرف اس خوف سے کہ کہیں حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی نماز جنازہ فوت نہ ہو

جائے، میں نے تمام لوگوں کو آپ کے لئے روتا دیکھا، مجھے وہ قیامت کا دن لگ رہا تھا۔

## نزع کی شدت:

﴿10981﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد و طیالسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داؤد طالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے جنازے میں حاضر تھا اور ان کے وصال کے وقت بھی ان کے پاس موجود تھا، میں نے نزع کی سختی ان سے زیادہ کسی کی نہیں دیکھی، ہم رات کو آپ کے پاس آئے تو اندر جانے سے پہلے ہی آپ کے دم نکلنے کی آواز آرہی تھی، پھر ہم اگلی صبح آپ کے پاس آئے تو آپ ابھی حالت نزع میں ہی تھے، پھر ہم ان کا دم نکلنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔

## جنازے میں لوگوں کی کثرت:

﴿10982﴾... حضرت سیدنا حسن بن بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا داؤد طالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے جنازے میں حاضر تھا، آپ کے وصال کی خبر وقفے وقفے سے دی جا رہی تھی، ہمارے دل اسے قبول نہیں کر رہے تھے، آپ کو دو یا تین چار پائیوں پر رکھا گیا کیونکہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے چار پائی ٹوٹ جاتی تو پھر چار پائی بدل دی جاتی، آپ کی نماز جنازہ کئی دفعہ پڑھی گئی، میں نے دیکھا کہ آپ کی چار پائی کو قبر پر رکھا جاتا پھر کچھ لوگ آکر اسے اٹھا کر لے جاتے پھر واپس ان کی قبر کے مقام پر لے آتے۔

﴿10983﴾... حضرت سیدنا ابو داؤد و طیالسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا داؤد طالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے وصال کے وقت کوفہ آیا، میں نے آپ سے زیادہ سخت موت کے غرغرے کسی کے نہیں دیکھے، میں ان کی ایسی آواز سن رہا تھا جیسے تیل کی آواز نکلتی ہے۔

﴿10984﴾... حضرت سیدنا یونس بن عروہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد طالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے جنازے میں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے میری چپل ٹوٹی اور ضائع ہو گئی اور میرے کاندھوں سے چادر اتری اور وہ بھی گم ہو گئی۔

## عمل کب کرے گا؟

﴿10985﴾... حضرت سیدنا خفص بن حمید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داؤد طالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: جب کوئی جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے لئے سامان جنگ جمع

نہیں کرتا؟ پھر اگر وہ اپنی عمر سامان جمع کرنے میں گزار دے تو جنگ کب کرے گا؟ بے شک علم عمل کا آلہ ہے لہذا اگر کوئی اپنی عمر حصولِ علم میں ہی گزار دے تو عمل کب کرے گا؟

## سال بھر گفتگو میں حصہ نہ لیا:

﴿10986﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو ان کے کسی ساتھی نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے گوشہ نشین ہونے کا سبب یہ تھا کہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے آپ سے فرمایا: ابو سلیمان! ہم ہتھیار مُسْتَحْکَم کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا: پھر کون سی چیز رہ گئی؟ فرمایا: اس پر عمل کرنا باقی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اس کے بعد میرا نفس گوشہ نشین اور اکیلے رہنے کے معاملے میں مجھ سے جھگڑنے لگا، میں نے اس سے کہا: جب تک تو شرکائے مجلس میں رہے کسی سوال کا جواب نہ دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں ایک سال تک بیٹھتے رہے، آپ فرماتے ہیں: جب مجلس میں کوئی مسئلہ آتا تو مجھے جواب دینے کی خواہش یہاں سے کو پانی کی خواہش سے بھی زیادہ ہوتی مگر میں اس کا جواب نہ دیتا، پھر میں نے ان سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔

## لوگوں سے دوری میں شدت:

﴿10987﴾... حضرت سیدنا سعید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ گوشہ نشینی میں انتہائی سخت تھے وہ اپنے نفس کا علاج خاموشی کے ذریعے کیا کرتے تھے جبکہ اس سے قبل آپ زیادہ گفتگو کرنے والے تھے اس کا علاج یہ تھا کہ آپ بولنا چھوڑ دیں، اس علاج نے آپ کو فکر آخرت میں مبتلا کیا اور اس فکر کی بدولت آپ نے اپنے نفس پر قابو پالیا، میں ایک دن نماز کے وقت آپ کے یہاں آیا اور آپ کا انتظار کرنے لگا جب آپ نماز کے لئے نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، مسجد آپ کے قریب ہی تھی، آپ مسجد کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے تو میں نے پوچھا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پس آپ میرے ساتھ خالی گلیوں میں چلتے رہے حتیٰ کہ ہم مسجد کی طرف نکل آئے۔ میں نے کہا: آپ کے لئے قریبی راستہ تو وہاں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا: سعید! لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہو، جو بھی لوگوں میں گھل مل کر رہا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عہد بھلا دیا۔

﴿10988﴾... حضرت سیدنا ابونور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس کو آزمانا چاہا کہ یہ گوشہ نشینی پر پختہ رہ سکے گا یا نہیں؟ چنانچہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ انجمن کی مجلس میں ایک سال اس طرح بیٹھے کہ کوئی کلام نہیں کیا پھر لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے۔

﴿10989﴾... حضرت سیدنا ابواسامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: آپ دونوں ایک مرتبہ میرے پاس آچکے ہیں لہذا اب دوبارہ نہ آئیے گا۔

### گوشہ نشینی کے ساتھ پابندی جماعت:

﴿10990﴾... حضرت سیدنا ابو ریح اعرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، آپ اپنے گھر سے تب ہی نکلتے تھے جب مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہتا، آپ گھر سے نکل کر نماز ادا کرتے اور جب امام سلام پھیرتا تو آپ اپنی چیل پہنتے اور اپنے گھر چلے جاتے، میرے ساتھ یہ معاملہ کافی عرصے رہا ایک دن میں نے انہیں پالیا اور کہا: ابو سلیمان! ذرا ٹھہریے۔ وہ میرے لئے رک گئے، میں نے کہا: ابو سلیمان! مجھے نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل سے ڈرو اور اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بات تین دفعہ کہی پھر چوتھی مرتبہ فرمایا: تمہارا بھلا ہوا دنیا سے روزہ رکھو اور اپنی موت کو افطار بنالو، لوگوں سے کنارہ کش رہو مگر ان کی جماعت نہ چھوڑو۔

﴿10991﴾... حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام کرنے ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، میں کمرے کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور کہا: اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے! آپ یہاں اکیلے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اللہ عزوجل آپ پر بھی رحم فرمائے! کیا تنہائی اور گوشہ نشینی کے علاوہ بھی اب کسی چیز میں انسیت ہے؟ کوئی آپ کے لیے دکھاوا کرے یا آپ کسی کے لیے تکلف کرو تو پھر بھلائی کس میں ہے؟

﴿10992﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن اوریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا: لوگوں سے جان پہچان کم رکھو۔ میں نے کہا: مزید نصیحت کیجئے۔ فرمایا:

دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی دین پر راضی رہو جیسے دنیا والے دین میں خرابی کے باوجود دین پر راضی ہو گئے۔ میں نے کہا: اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا: دنیا کو اس دن کی طرح بنا لو جس کا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر موت پر افطار کرو۔

## وحشت دور کرنے والی وحشت:

﴿10993﴾... حضرت سیدنا ابو یحییٰ احمد بن ضرار علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آیا، آپ بڑے رقبے والے کھنڈر مکان میں رہتے تھے جس میں فقط ایک ہی کمرہ تھا اور اس کا بھی دروازہ نہیں لگا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے آپ سے کہا: آپ ویران گھر میں رہتے ہیں، کیا یہی بہتر ہو کہ آپ اس کمرے میں ایک دروازہ لگوا لیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا: میرے اور دنیاوی وحشت کے درمیان قبر کی وحشت حائل ہو چکی ہے۔

## تین کے لیے تین کافی:

﴿10994﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: دنیا سے یوں گھبراؤ جیسے درندوں سے گھبراتے ہو۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے: زہد کے لیے یقین، عبادت کے لیے علم اور مصروفیت کے لیے عبادت کافی ہے۔

﴿10995﴾... حضرت سیدنا عمیر بن صدقہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ میرے دوست تھے اور ہم دونوں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے حلقہ درس میں بھی ساتھ بیٹھا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے تو میں آپ کے پاس آیا اور کہا: ابو سلیمان! آپ نے تو ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ابو محمد! تمہاری یہ مجلس اخروی معاملے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ پھر اَسْتَغْفِرُ اللہَ، اَسْتَغْفِرُ اللہَ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔

﴿10996﴾... حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کس کی ہم نشینی اختیار کی جائے اس کی جو تمہاری لغزش کو یاد رکھتا ہو؟ یا اس لڑکے کی جو تمہیں مشقت میں ڈال دے؟

﴿10997﴾... حضرت سیدنا ابن مساک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے میری گفتگو ہوئی، میں نے ان سے کہا: کیا یہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا: تم دو

قسم کے لوگوں کے درمیان ہو گئے: (۱)۔ بچوں کے جو تمہاری عزت نہیں کریں گے اور (۲)۔ بڑوں کے جو تمہیں تمہارے عیب گنوائیں گے۔

## زاہدین کی نشانی:

﴿10998﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: دنیا میں زہد کا ارادہ رکھنے والوں کی نشانی ایسے شخص کی ہم نشینی کو چھوڑنا ہے جو ان جیسا ارادہ نہیں رکھتا۔

﴿10999﴾... حضرت سیدنا حفص بن عمر جُعْفٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوشیار آدمی حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ملنے آیا مگر آپ نے اسے ملاقات کا کوئی موقع ہاتھ نہ آنے دیا، آپ اپنے کپڑے میں لپٹے ہوئے نکلتے گویا خوفزدہ ہیں اور جیسے ہی امام سلام پھیرتا آپ تیزی سے روانہ ہو جاتے گویا بھاگ رہے ہیں حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔

## زاہد کون؟

﴿11000﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن منصور سَلَوٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آئے، آپ مٹی پر تشریف فرما تھے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا: یہ دنیا سے بے رغبت شخص ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: زاہد تو وہ ہے جو قدرت کے باوجود دنیا ترک کر دے۔

﴿11001﴾... حضرت سیدنا حسن بن عطیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نہ آئے، آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے لہذا طالب علموں میں سے کسی شخص کے ذریعے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس پہنچے جبکہ وہ طالب علموں کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے۔ پس حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اُن سے مسئلہ پوچھنے لگے مگر آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، جب انہوں نے کئی مرتبہ وہ مسئلہ دہرایا اور آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کسی نے عرض کی: آپ کے چچا زاد آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے مگر آپ نے انہیں جواب ہی نہیں دیا؟ جب آپ سے بہت زیادہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی:

فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ترجمہ کنز الایمان: تو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے ہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھتے۔

﴿۱۸﴾ (المؤمنون: ۱۰۱)

﴿11002﴾... اسماعیل بن احمد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰسَیْہِ پچھاڑا دیجائیوں کو احادیث بیان کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے آپ سے کوئی بات کی مگر آپ نے اُس سے بات نہ کی، اُس نے بات بڑھائی مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ غصہ میں آگیا اور آپ کو بہت باتیں سنائیں، پھر چلا گیا تو حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

فَاِذَا نُوْفِعَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ  
وَلَا يَنْسَاْءُ لَوْ نَوْنٌ ﴿۱۸﴾ المؤمنون: ۱۰۱

ترجمہ کنز الایمان: تو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں  
رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔

﴿11003﴾... حضرت سیدنا بکر بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔

### ایک رات داود طائی عَلَیْہِ الرَحْمَہ کے ساتھ:

﴿11004﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ آغزج یا کسی اور بزرگ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آیا اور آپ کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی، آپ نوافل مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے لہذا میں آپ کے پیچھے چلنے لگا، آپ نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، میں نے کہا: کیا میں آج رات آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ آپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اندر آگیا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر دو خشک روئیاں نکالیں اور مجھ سے فرمایا: قریب آؤ اور کھاؤ، مجھے اس بات پر رحم آیا کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، کھانا کھانے کے بعد آپ مشکیزے کے پاس آئے جو گرم موسم کے باوجود کمرے میں رکھا ہوا تھا آپ اس سے پانی پینے لگے۔ میں نے کہا: ابو سلیمان! بہتر ہوتا اگر آپ کسی کو کہہ دیتے جو آپ کے لئے اس پانی کو ٹھنڈا کر دیتا؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موسم گرمیوں میں جس کے لیے پانی ٹھنڈا کیا جائے اور موسم سرما میں گرم کیا جائے ایسا شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ میں نے کہا: مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت میں اس سے افطار کرنا۔ میں نے کہا: مزید نصیحت کیجئے۔ فرمایا: کرنا کاتبین ہی تم سے بات کریں (یعنی غلو اختیار کرو)۔ میں نے کہا: اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا: اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نے کہا: مزید نصیحت کیجئے۔ فرمایا: لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو مگر ان کی جماعت سے الگ نہیں ہونا۔ اس کے بعد میں چلا آیا۔

## ہر دن سامانِ آخرت تیار کرو:

﴿11005﴾... حضرت سیدنا محمد بن اشکاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان ہے: حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے گھر کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دن حضرت سے کہا: ابو سلیمان! آپ اپنے اور میرے درمیان رشتے سے واقف ہیں لہذا مجھے نصیحت کیجئے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے پھر مجھ سے فرمایا: اے میرے بھائی! دن اور رات تو سفر کی منزلیں ہیں، جو لوگوں کے پاس ایک ایک کر کے آتی رہیں گی حتیٰ کہ لوگوں کے آخری سفر پر ان کا اختتام ہو جائے گا لہذا اگر ہر دن اپنی آخرت کے لیے زادِ راہ آگے بھیج سکو تو ایسا کرو کیونکہ سفر چاہے جیسا بھی ہو عنقریب منقطع ہو جائے گا جبکہ موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے پس تم اپنے سفر کے لیے زادِ راہ لو اور جو عمل کرنا ہے کرو، گویا موت تمہیں اچانک آنے والی ہے، یہ نصیحت میں کر رہا ہوں حالانکہ مجھ سے زیادہ اس نصیحت کو ضائع کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ فرما کر آپ چلے گئے۔

## متقین کی صحبت کا فائدہ:

﴿11006﴾... صالح بن موسیٰ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ یہ تم پر دنیا والوں سے کم بوجھ ڈالیں گے اور دنیا والوں سے زیادہ مدد کریں گے۔

﴿11007﴾... حضرت سیدنا ابوالانیم بن اویم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہا کرتے تھے: بے شک خوف کی کچھ علامتیں ہیں جو خوف والوں میں دکھائی دیتی ہیں اور اس کے کچھ مقلات ہیں جنہیں محبت والے جانتے ہیں اور کچھ بے قراریاں ہیں جن کی بدولت شوق والے کامیاب ہوتے ہیں اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: جب تم غنڈہ اپانی ہو گے، لذت سے بھرپور عمدہ کھانا کھاؤ گے اور گھٹے سائے میں چلو گے تو موت اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کو کب محبوب رکھو گے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رو پڑے۔

## آپ علیہ السلام کے معاشی معاملات:

﴿11008﴾... حضرت سیدنا حفص بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: میں نے



اللہ تعالیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ترکہ سے چار سو درہم کے وارث ہوئے تو 30 سال تک اسے کھا کر گزارہ کرتے رہے جب وہ ختم ہو گئے تو مکان کی چھت توڑ توڑ کر بیچنے لگے یہاں تک کہ لکڑیاں، چٹائیاں اور اینٹیں بھی بیچ ڈالیں حتیٰ کہ آدھی چھت باقی رہ گئی اور آپ کے گھر کی دیواریں ان معمولی عزمی اینٹوں کی تھیں جن سے کوڑے خانے بنائے جاتے تھے اور گھر کا دروازہ درمیانے درجے سے بھی اتنا چھوٹا تھا کہ اگر کوئی لڑکا چھلانگ لگائے اندر پہنچ جائے، ایک مرتبہ آپ کے ایک دوست نے آکر کہا: ابو سلیمان! اگر آپ یہ اینٹیں مجھے دے دیں تو میں آپ کے لئے انہیں بیچ دوں؟ شاید ہم آپ کے لئے اس میں کچھ زیادہ منافع حاصل کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ وہ اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ آپ نے اینٹیں اسے دے دیں پھر اس معاملے میں غور کیا تو اگلے روز عشا کی نماز میں اس سے ملے اور فرمایا: مجھ وہ واپس لوٹا دیجئے۔ اس نے کہا: میرے بھائی! آخر کیوں؟ فرمایا: مجھے ان میں نجاست شامل ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ اینٹیں لے لیں۔

﴿11009﴾... حضرت سیدنا حفص بن غیاث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: آپ کے پاس اپنے غلام کی قیمت میں سے کتنی رقم باقی بچی ہے؟ آپ نے کہا: اتنے اتنے دینار۔ اس واقعہ کے ایک راوی حضرت ابو نعیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: میرے خیال سے وہ بارہ یا تیرہ دینار تھے۔ حضرت سیدنا حفص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: وہ رقم دے دیجئے، ہم آپ کے لئے اسے ایسے کام میں لگا دیں گے جس سے آپ کو نفع ملتا رہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو عافیت میں رکھے، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا، اس مال کو آپ نہ لیجئے کیونکہ آپ اسے اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر خرچ کرتے رہیں گے۔

﴿11010﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم حَلَبِی عَنِہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے 20 سال 300 درہم پر گزارہ کیا، اس رقم کو وہ اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے بھتیجے نے ان کے پاس آکر کہا: چچا! کیا آپ کو تجارت ناپسند ہے؟ فرمایا: ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا: مجھے کچھ رقم دیجئے میں اس سے تجارت کروں گا۔ آپ نے اسے 60 درہم دے دیئے، وہ ایک مہینے کے بعد آپ کے پاس 120 درہم لایا اور کہنے لگا: یہ اس کا منافع ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم پورا مہینہ درہم کا نفع درہم سے حاصل کرتے رہے؟ تمہارے پاس تو مال سے بھر اگھر ہونا چاہئے تم نے مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ درہم

پھینک دیئے اور فرمایا: مجھے میرا اصل مال واپس کر دو۔

## گھر کی مرمت نہ کرواتے:

﴿11011﴾... حضرت سیدنا عثمان بن زُفر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے چچا زاد نے مجھے بتایا کہ آپ کو اپنے والد سے وراثت میں 20 دینار ملے جو آپ نے 20 سال میں کھائے، ہر سال ایک دینار خرچ کرتے، اسی سے کھانا کھاتے اور اسی سے صدقہ کرتے اور ایک گھر وراثت میں ملا، آپ اس میں کوئی تعمیر نہیں کرواتے تھے جب بھی کوئی گوشہ ٹوٹ پھوٹ جاتا آپ اسے چھوڑ کر دوسرے گوشے میں منتقل ہو جاتے حتیٰ کہ جس کو نے میں آپ رہ رہے تھے اس کے سوا سارا گھر ٹوٹ پھوٹ گیا۔

﴿11012﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اپنی والدہ سے وراثت میں گھر اور کچھ دینار ملے، آپ گھر کے کمروں میں منتقل ہوتے رہے جب بھی کوئی کمرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا آپ دوسرے کمرے میں منتقل ہو جاتے اور اس کی تعمیر نہیں کرواتے۔ یہاں تک کہ گھر کے سب ہی کمروں میں رہے اور اپنے والد کی جانب سے بھی کچھ دیناروں کے وارث ہوئے تو انہی میں سے خرچ کرتے رہے حتیٰ کہ آخری دینار سے آپ کو کفن دیا گیا۔

## 20 سالوں کے لیے 20 دینار:

﴿11013﴾... حضرت سیدنا محمد بن زکریا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ان کے کسی ساتھی نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو اپنی لونڈی کی وراثت میں 20 دینار ملے جو 20 سال کے لیے آپ کو کافی ہو گئے حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔

﴿11014﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ حضرت محمد بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھ سے تجارت چھوڑ دینے کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے اور حضرت محمد بن نعمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے انہیں اپنی ذات کے لئے اسے جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ہمارا دیا ہوا مشورہ بغداد میں اپنے بھائی کو لکھ کر بھیجا، اس نے جواب میں لکھا: تمہارے دونوں ساتھیوں نے تمہیں نصیحت نہیں کی، حضرت سیدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنا مال واسباب بیچ دیا تو کسی نے ان سے کہا: آپ اسے تجارت میں لگا دیتے تو آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ نفع ملتا۔ آپ نے

فرمایا: نہیں، وہ مال یا مجھ سے آگے نکل جائے گا یا میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ لہذا وہ اپنے مال کو ایک ایک دینار کر کے خرچ کرتے رہے، جب ان کا انتقال ہوا تو صرف ایک دینار بچا ہوا تھا جس سے آپ کے کفن کا انتظام کیا گیا۔

**مختصر ساز و سامان:**

﴿11015﴾... حضرت سیدنا عبید اللہ بن صالح بن مسلم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرض و وفات میں ان کے پاس آیا، ان کے گھر میں فقط یہ چیزیں تھیں: ایک تار کول ملا ہوا سٹکا جس میں خشک روٹی ہوتی تھی، ایک لونٹا اور مٹی پر پڑی ایک بڑی شاہجہانی اینٹ تھی جسے آپ تکیہ بناتے تھے، اسی سے ٹیک لگاتے اور اسی پر گال رکھتے، آپ کے گھر میں کوئی چٹائی نہ تھی نہ چھوٹی نہ بڑی۔

**نیچ و کمزور ہونا:**

﴿11016﴾... حضرت سیدنا عبدالرحمن بن مُضْعَب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پشت میں ریڑھ کی ہڈی کو اس اخروٹ والے تھیلے سے تشبیہ دیتا ہوں جس سے اخروٹ ظاہر ہو رہے ہوں (کمزوری کے سبب) آپ کی ریڑھ کی ہڈی بھی اسی طرح ابھری ہوئی تھی۔

**آپ علیہ السلام کا جود و کرم:**

﴿11017﴾... حضرت سیدنا قیس بن مسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بتایا کہ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کی ایک عورت نے گھی سے ٹرید بنا کر افطار کے وقت ایک لونڈی کے ساتھ حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھیجا، آپ کے اہل خانہ اور اس عورت کے درمیان رضائی رشتہ تھا۔ وہ لونڈی ایک بڑے پیالے میں اسے لے کر آئی اور حجرے میں اسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس میں سے کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دروازے پر ایک سائل آکر کھڑا ہوا، آپ اٹھے اور وہ پیالہ اس سائل کو دیا اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر بیٹھ گئے، جب وہ کھا کر فارغ ہو گیا تو آپ اندر آئے، پیالے کو دھویا پھر اپنے سامنے موجود چھوہارے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لونڈی کا بیان ہے کہ میرے خیال میں آپ نے اسے رات کے کھانے کے لئے رکھا تھا۔ آپ نے وہ چھوہارے پیالے میں ڈالے اور پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا: اپنی مالکین کو میرا سلام کہنا۔ اس لونڈی کا بیان ہے کہ جو ہم لائے وہ آپ نے سائل کو

دے دیا اور جس سے آپ افطار کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں دے دیا، شاید آپ نے بھوکے پیٹ ہی رات گزاری۔  
حضرت سیدنا قیصہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں آپ کو دیکھا کرتا تھا آپ انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔

## کھانے پینے میں سادگی:

﴿11018﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قَدِسَ سِرُّہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ روٹی تین خاتوں میں کھایا کرتے تھے، اولاد وہ روٹی تازہ گرم ہوتی پھر باسی ہو جاتی اور آخر میں ایسی خشک ہو جاتی تھی کہ آپ اسے اپنے منگے میں بھگویا کرتے، آپ کے پاس دو منگے تھے ایک پانی کا منگکا اور دوسرا روٹی کا منگکا، پانی کے منگے کو آپ نے زمین میں گاڑا ہوا تھا کہ کہیں اسے ہوا لگ کر وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔

## 64 سال عورتوں سے صبر:

﴿11019﴾... حضرت سیدنا ابو سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 64 سال کنوارے رہے۔ کسی نے آپ سے کہا: آپ نے عورتوں سے کیسے صبر کیا؟ فرمایا: میں نے اپنی بلوغت کے وقت سے ایک سال تک ان کی خواہش کو برداشت کیا پھر ان کی خواہش میرے دل سے چلی گئی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: ہماری رائے یہ ہے کہ جس نے اپنی بلوغت کے بعد ایک سال تک عورتوں سے یوں صبر کیا کہ حلال اور حرام کے اعتبار سے ان کی پہچان نہ رکھی اسے ان سے قربت کی خواہش نہیں رہتی۔

## نفس کے زبردست محاسب:

﴿11020﴾... حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے لئے 60 روٹیاں پکائی جاتی تھیں، جنہیں وہ ایک تھیلے میں ڈال کر لڑکا دیتے تھے، ہر رات پانی اور نمک کے ساتھ دو روٹیوں سے افطار کرتے تھے ایک رات آپ نے اپنی افطاری لی اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کی سیاہ قام لونڈی آپ کو دیکھ رہی تھی وہ اٹھی اور ایک طباق میں چند کھجوریں لے آئی، آپ نے اس سے افطار کیا پھر ساری رات عبادت کی اور صبح روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے اپنی روٹی، نمک اور پانی لیا۔ حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ آپ کے پڑوسی نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا کہ حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: تو نے کل کھجور کھانے کی خواہش کی تو میں نے تجھے وہ کھلا

دی، آج رات بھی تو نے کھجور کی تمنا کی ہے، سن لے! داود جب تک دنیا میں ہے کھجور چکھے گا بھی نہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے وصال تک کبھی کھجور نہیں چکھی۔

## اپنے وصال تک نمک نہیں چکھا:

﴿11021﴾... حضرت سیدنا محمد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں حضرت سیدنا داود طالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئے، پھر ایک بڑے منکے کے پاس آئے، اس سے ایک خشک روٹی نکالی اور اسے پانی میں ڈبو دیا، پھر فرمایا: آئیے کھانا کھائیے۔ میں نے کہا: ”بَارَكَ اللهُ لَكَ يَٰ بَشَرُ إِنَّهُ عَطَاكَ“۔ پھر آپ نے اسے کھایا تو میں نے کہا: ابو سلیمان! آپ کچھ نمک بھی لے لیتے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: میرا نفس نمک کے لئے مجھ سے جھگڑ رہا ہے اور اب داود جب تک دنیا میں ہے نمک نہیں چکھے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال تک نمک نہیں چکھا۔

## گاجر اور کھجور نہ کھانے کی قسم:

﴿11022﴾... حضرت سیدنا حماد بن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا، میں نے انہیں یہ فرماتے سنا کہ تو نے گاجر کی خواہش کی تو میں نے تجھے کھلا دی، اب تجھے گاجر اور کھجور کی خواہش ہو گئی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ تو اسے کبھی نہیں کھائے گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اجازت لی اور سلام کر کے گھر میں داخل ہوا تو پتا چلا کہ وہ اپنے نفس پر عتاب کر رہے تھے۔

﴿11023﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا داود طالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا، جیسے ہی اندر جانے لگا تو میں نے اندر سے ان کی آواز سنی وہ اپنے نفس سے مخاطب تھے مگر میں سمجھا ان کے پاس کوئی شخص ہے جس سے وہ گفتگو کر رہے ہیں لہذا میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا پھر میں نے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا: آجاؤ۔ جب میں اندر آیا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس آنے کے لئے اجازت کیوں لی؟ میں نے کہا: میں نے آپ کو گفتگو کرتے سنا تو سمجھا آپ کے پاس کوئی شخص ہے جس سے آپ جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا: نہیں بلکہ میں تو اپنے نفس سے جھگڑ رہا تھا، کل مجھے کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو

میں کھجور خریدنے نکلا جب میں کھجور لے آیا تو مجھے گاجر کی خواہش ہوئی چنانچہ میں نے اللہ عزوجل سے وعدہ کیا کہ میں کھجور اور گاجر نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ اس سے جاموں۔

**بھی کھجور نہیں کھاؤں گا:**

﴿11024﴾... حضرت سیدنا مضعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رضی اللہ عنہ نے مجھے درہم دے کر بھیجا کہ میں اس سے آپ کے لئے کھجوریں خرید لوں، پھر جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ میرے ساتھ آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: تم نے کھجوریں کہاں سے خریدی تھیں؟ میں سمجھا آپ ان کا عیب بیان کریں گے، میں نے کہا: ابو سلیمان! ان میں کیا خرابی تھی؟ خدا کی قسم! میں نے آپ کے لیے سب سے اچھی کھجوریں خریدیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ مجھے اچھی لگیں لہذا میں نے قسم کھالی کہ آئندہ کبھی کھجور نہیں کھاؤں گا۔

**روٹی گھول کر پینے کی حکمت:**

﴿11025﴾... حضرت سیدنا اسماعیل بن ریان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رضی اللہ عنہ کی دایہ نے کہا: ابو سلیمان! کیا تمہیں روٹی کھانے کا جی نہیں کرتا؟ آپ نے کہا: روٹی کھانے کے بجائے گھول کر پینے سے 50 آیات پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے۔

﴿11026﴾... حضرت سیدنا عامر بن اسماعیل احمس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رضی اللہ عنہ سے کہا: مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہ باسی روٹیاں سخت کر کے کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: سُبْحَنَ اللہ! بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں آزما چکا ہوں کہ سخت کے بجائے نرم روٹی کھانے سے مجھے 200 آیات کی تلاوت کا وقت مل جاتا ہے۔ لیکن میرے لئے پکانے والا کوئی نہیں ہے اسی لئے میری روٹیاں اکثر باسی ہو جاتی ہیں۔

**یتیموں سے خیر خواہی:**

﴿11027﴾... حضرت سیدنا حماد بن ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا: حضرت سیدنا داود طائی رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے آپ سے کہا: کیا میں آپ کے لئے چربی والا گوشت پکا دوں؟ آپ نے فرمایا: پکا دو۔ چنانچہ وہ پکا کر آپ کے پاس لائی تو آپ نے اس سے پوچھا: بنو فلاں کے یتیموں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: وہ اپنی اسی حالت پر ہیں۔ فرمایا: یہ جا کر انہیں دے دو۔ لونڈی نے کہا: میں نے یہ کھانا آپ کو اس لئے دیا ہے کہ آپ یہ روٹی پانی میں

ڈبو کر نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میں اسے کھاؤں گا تو یہ بیت الخلاء میں جائے گا اور اگر وہ یتیم کھائیں گے تو یہ اللہ عزوجل کے پاس ذخیرہ ہو گا۔

﴿11028﴾... حضرت سیدنا حفص بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا: ابو سلیمان! آپ نے اپنے گھر کی ہر چیز حشر کی مٹی بھی فروخت کر دی ہے اور آدمی چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اگر آپ اس چھت کو ٹھیک کر لیں تو یہ آپ کو گرمی، بارش اور ٹھنڈ سے محفوظ رکھے گی۔ آپ نے کہا: اللہ عزوجل معاف فرمائے! بزرگانِ دین فضول گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، اے اللہ کے بندے! یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میرے دل کو غافل کر دیا ہے، مجھے جلدی ہے کہ کہیں قلم خشک نہ ہو جائے اور نامہ اعمال لپیٹ نہ لیا جائے۔ اس نے کہا: ابو سلیمان! مجھے پیاس لگی ہے۔ فرمایا: جاؤ پانی پیو۔ وہ گھر میں گھومنے لگا، اسے پانی نہیں ملا تو آپ کے پاس آکر کہنے لگا: ابو سلیمان! گھر میں کوئی گھڑا ہے نہ مٹکا۔ کہا: اللہ عزوجل معاف فرمائے! (پھر اشارہ کر کے فرمایا: پانی وہاں ہے۔ وہ پانی تلاش کرنے لگا تو وہاں اس گیلے کو مٹکا بنایا ہوا تھا جس میں مٹی بھری جاتی ہے، اور پیالے کی تہہ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے وہ کپڑا الے کر اس کے ذریعے پانی لیا، پانی اتنا گرم تھا جو شہ مار رہا ہو، وہ اسے حلق سے نہ اتار سکا تو آپ کے پاس واپس آکر کہا: ابو سلیمان! یہ گرمی ایسی ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی کھالیں اتر جائیں اور آپ کا مٹکا زمین میں دفن ہے اور پیالہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ کاش! چھوٹا مٹکا اور صراحی ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: حیرہ شہر کا ٹھنڈا کنواں، کچا گھڑا، انگور کی تیل کا سجا ہوا سائبان، حسین لونڈیاں، دنیاوی ساز و سامان، درہم و دینار اور اضافی اشیاء بھی ہوتیں؟ اگر میں دل کو مشغول کرنے والی ان چیزوں کو اختیار کرتا تو خود کو یہاں قید نہ کرتا میں نے اپنے نفس کو ان شہوات سے آزاد کر کے خود کو قید کر لیا ہے تاکہ میرا مالک و مولیٰ اللہ عزوجل مجھے دنیا کی قید سے نکال کر آخرت کی راحت کی طرف لے جائے۔ اس شخص نے کہا: ابو سلیمان! اس گرمی میں آپ کہاں سوتے ہیں، آپ کے پاس تو سونے کے قابل چھت ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے اپنے مولیٰ اللہ عزوجل سے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے دنیا میں اپنے نفس کی راحت کے لئے ایک قدم بھی اٹھاتا ہوا دیکھے حتیٰ کہ میرا مولیٰ تبارک و تعالیٰ دنیا اور دنیا والوں سے مجھے راحت دے دے۔ میں نے کہا: مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور اپنی موت پر افطار کرو حتیٰ کہ موت کے

وقت جب خازنِ جنت حضرت رضوان علیہ السلام تمہارے پاس جنتی مشروب لائیں گے تو تم اسے اپنے بستر پر بیٹھ گے تو دنیا سے تروتازہ ہو کر جاؤ گے اور تمہیں حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے حوضوں میں سے کسی حوض کی محتاجی نہ رہے گی یہاں تک کہ تروتازہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

حضرت سیدنا خفص بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داؤد طائی اور حضرت سیدنا محمد بن نصر حارثی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی خاطر اس کی اطاعت کرنے اور عبادت میں خود کو تھکا دینے والوں میں سے تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت محمد بن میمون رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نامی کوفہ کی عبادت گزار شخصیت جن کی فضیلت لوگوں میں مشہور ہے نے خواب میں کسی منادی کو یہ ندا کرتے سنا: سنو! داؤد طائی اور محمد بن نصر حارثی نے اپنی مراد پائی ہے۔

### فضول نظری سے اجتناب:

﴿11029﴾... حضرت سیدنا عباہ بن کثیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: اگر آپ حکم کریں تو کمرے کی چھت میں مکڑی کے بنے ہوئے جالے صاف کر دیئے جائیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں فضول دیکھنا پسندیدہ چیز ہے۔ پھر فرمایا: مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت سیدنا مجاہد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے گھر میں زندگی بسر کی اور کئی سال اسے دیکھنا اس کی طرف توجہ کی۔

﴿11030﴾... حضرت سیدنا ابن سماک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ 13 دینار کے وارث ہوئے تو اس سے 20 سال تک کھایا، نہ کبھی عمدہ کھانا کھایا اور نہ ہی نرم لباس پہنا۔

﴿11031﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مُصْعَب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر پھٹا ہوا جبہ دیکھا گیا تو ایک شخص نے ان سے کہا: آپ اسے کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فضول دیکھنے کی ممانعت ہے۔

﴿11032﴾... حضرت سیدنا بکر بن محمد عابد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: کیا آپ دن بھر میں ایک روٹی کھاتے ہیں؟ فرمایا: جی ہاں اور دو بھی کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا: کیا آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ فرمایا: جی ہاں۔

﴿11033﴾... حضرت سیدنا حماد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا داؤد طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے کہا: ابو سلیمان!



آپ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی کم پر راضی ہوا ہے؟ وہ شخص جو آخرت کے بدلے پوری دنیا ملنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت سیدنا حامد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے آپ سے کہا: آپ میرے اور اپنے درمیان رشتہ اخوت سے واقف ہیں، آپ مجھ سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیجئے تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا: مجھے برنی کھجوروں کی خواہش ہے۔ انہوں نے برنی کھجور کی کئی ٹوکریاں لا کر آپ کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیں، آپ نے اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں کھائی حتیٰ کہ ان میں کینڑے پڑ گئے۔

آپ کے ساتھ گھر میں آپ کی لونڈی رہتی تھی، ایک دن آپ نے اس سے کہا: میرا دودھ پینے کا جی کر رہا ہے، روٹی لو اور اس سے دوکاندار کے پاس جا کر دودھ خرید لو اور دوکاندار کو یہ نہ بتانا کہ کس نے منگوایا ہے۔ وہ گئی اور دودھ لے آئی، وہ لونڈی آپ کے لئے ہر چندہ دن میں ایک مرتبہ روٹی پکایا کرتی تھی، آپ نے دودھ نوش فرمایا، بعد میں دوکاندار بھانپ گیا کہ یہ لونڈی حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے لئے دودھ لیتی ہے لہذا اس نے آپ کے لئے بلا عوض دودھ دے دیا، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس لونڈی سے فرمایا: کیا دوکاندار کو معلوم ہو گیا کہ تم کس کے لئے دودھ لیتی ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے کہہ دیا کہ ابو سلیمان کے لئے لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: اسے اٹھا لو۔ پھر آپ نے اسے نہیں پیا۔

ایک دن حضرت سیدنا فَضِّل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ آپ کے پاس آئے لیکن آپ نے دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے اور آپ اندر اور یہ باہر بیٹھ روتے رہے مگر دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے حضرت سیدنا محمد بن بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لوگوں کے لئے دروازہ کھول دیا کرتے تھے تو پھر بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کو گھیر لیتے تھے چنانچہ آپ نے ان سب کو روک دیا، اب جو کوئی آتا تو آپ دروازے کے پیچھے سے ہی اس سے بات کرتے۔

آپ کی والدہ نے آپ سے کہا: اگر تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو تو میں بنا دوں؟ آپ نے کہا: امی جان! بہت اچھا کر کے کچھ بنائیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ان کے لیے

بہت اچھا کھانا بنایا اور وہ خود دروازے پر بیٹھ گئے، جو بھی مانگنے والا وہاں سے گزرتا اسے اندر بلا لیتے، پھر انہیں کھانا پیش کر دیتا تو والدہ نے کہا: اگر تم اسے کھا لیتے تو بہتر تھا۔ عرض کی: بھلا میرے سوا کس نے کھایا ہے؟ آپ نے بہت مجاہدہ کیا، والدہ کے انتقال کے بعد ان کا چھوڑا ہوا سارا مال تقسیم کر دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچا حالانکہ آپ کی والدہ کافی مال دار تھیں۔

﴿11034﴾... حضرت سیدنا مؤید بن عمر و کلبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْنِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ایک ساتھی آپ کے پاس دو ہزار درہم لے کر آیا اور کہا: ابو سلیمان! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بن مانگے اور بغیر چاہت کے یہ چیز آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ ان ہی لوگوں کے زیادہ لائق ہے جو اسے لیتے ہیں اس نے کہا: آپ اسے کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا: شاید اس کو نہ لینے میں ہی زیادہ نجات ہو۔

﴿11035﴾... حضرت سیدنا مسعر بن کدام عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا ایک آدمی کے ہمراہ حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آئے، حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنی خرابی صحت کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا مسعر بن کدام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: آپ بچھنے لگو! بچھنے۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس حجام کو بھیج دو۔ وہ دونوں وہاں سے نکل کر میدانِ بشر میں آئے اور حجام سے کہا: حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس جاؤ، ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، حجام حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آیا اور آپ کو بچھنے لگا کر واپس چلا گیا، ان دونوں نے حجام سے پوچھا تو اس نے کہا: میں نے انہیں بچھنے لگائے تو وہ اٹھنے اور یہ دینار لا کر مجھے دے دیا۔ ان دونوں میں سے کسی نے کہا: ان کے پاس اس دینار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، آپ کے پاس یہ دینار آپ کی زر خرید لو نڈی کی قیمت سے بچ گیا تھا۔

### غیرت مند کی کا زبردست مظاہرہ:

﴿11036﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن منصور عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ جنید حجام کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا داود طَالِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس آیا، آپ کی زبان پر ایک چھال نکل آیا تھا، میں نے اسے پھڑا اور تھوڑی سی دوا نکال کر ایک کپڑے میں ڈالی اور کہا: یہ دوا رات کو پھوڑے والی جگہ پر رکھ لیما۔ آپ نے فرمایا: وہ گدا اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہاں دینار رکھا تھا، آپ نے فرمایا: اسے لے لو۔ میں نے کہا: ابو سلیمان! اس دوا کی

قیمت اتنی نہیں بلکہ ایک دانق ہے۔ چنانچہ میں وہ دوا روشتہ ان میں رکھ کر چلا گیا، پھر میں دو دن بعد واپس آیا تو دوا جوں کی توں رکھی تھی، میں نے کہا: سبحن اللہ، ابو سلیمان! آپ نے اس دوا سے اپنا علاج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: تم دینار نہیں لوگے تو میں بھی اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔

حضرت سیّدنا احمد بن سعید رباعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”اگر تم دینار نہیں لوگے تو ہم بھی اس کا علاج نہیں کریں گے۔“

**بلا عوض خدمت قبول نہ کی:**

﴿11037﴾... حضرت سیّدنا ابو یعقوب یوسف قواریری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ جنید حجام نے کہا: میں حضرت سیّدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بچنے لگانے گیا انہوں نے مجھے دینار دیا اور کہا: اسے لے لو ورنہ بچنے مت لگانا۔ یونہی میں حضرت سیّدنا مسعر بن کدام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے روٹی دی اور فرمایا: یہ لے لو ورنہ بچنے مت لگانا۔

﴿11038﴾... حضرت سیّدنا اسماعیل بن ریان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ ایک حجام نے حضرت سیّدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بچنے لگائے تو آپ نے اسے ایک دینار دے دیا حالانکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔

**بے مروت عابد نہیں ہوتا:**

﴿11039﴾... (الف) حضرت سیّدنا ابو سعید سمری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بچنے لگوائے اور حجام کو ایک دینار دیا، آپ سے کسی نے کہا: یہ اسراف ہے۔ آپ نے فرمایا: جس میں مروت نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں۔

﴿11039﴾... (ب) حضرت سیّدنا ابو نفیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ مجھے جنید حجام نے بتایا: میں نے حضرت سیّدنا داود طائی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی داڑھ نکالی تو آپ نے مجھے ایک درہم دیا، میں نے کہا: اس کی اجرت تو صرف دو دانق ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے رکھ لو۔

**راحت کے لئے دھوپ لینا پسند نہیں:**

﴿11040﴾... حضرت سیّدنا ولید بن عقبہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ایک مرتبہ عمرِ دو دن میں حضرت سیّدنا داود

طاہی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا گیا: آپ دھوپ میں آجائیں تو بہتر رہے گا۔ آپ نے فرمایا: میں دھوپ میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ ایسا قدم ہے جسے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ دھوپ میں نہیں آئے۔

﴿11041﴾... حضرت سیدنا جبر بن مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیمار ہوئے تو ان سے کسی نے کہا: اگر آپ صبح کی ہوا میں نکلیں تو آپ کے دل کو راحت ملے گی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس طرف قدم بڑھاؤں جس میں میرے جسم کی راحت ہو۔

﴿11042﴾... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن نضیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیمار ہوئے، لوگ آپ کی عیادت کرنے آئے تو بولے: ابو سلیمان! اگر آپ گھر کے صحن میں آجائیں تو آپ کو زیادہ راحت ملے گی۔ آپ نے فرمایا: مجھے ایسا کوئی قدم اٹھانا پسند نہیں جو میری بدنی راحت کی طلب میں لکھا جائے۔

﴿11043﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن نخبین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا پاس عیادت کرنے آئے تو آپ نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمایا: مجھ سے کم ملا کرو کیونکہ میں لوگوں سے تعلقات ختم کر چکا ہوں۔

## دنیا قید خانہ اور موت رہائی ہے:

﴿11044﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن قریظ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ حیرہ کے صحرائیں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: ابھی قید سے چھوٹا ہوں۔ لوگوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ آپ کے انتقال کا وقت وہی تھا۔

﴿11045﴾... حضرت سیدنا خفص بن غیاث رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے، ہمارے ساتھ حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی تھے، جب ہم نے نماز جنازہ ادا کر لی تو میت کو قبر میں رکھنے کے لئے لایا گیا، کپڑا اٹھایا گیا اور اس کا کفن ظاہر ہوا تو حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

﴿11046﴾... حضرت سیدنا داود طاهي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اللہ عَزَّ وَجَلَّ جب کسی بندے کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقویٰ کی عزت تک لے جاتا ہے تو اسے مال کے بغیر غنی کرتا، خاندان کے بغیر عزت عطا فرماتا اور

انسیہ دینے والے کے بغیر انسیہ عطا فرماتا ہے۔

## مردے منتظر ہیں:

﴿11047﴾... حضرت سیدنا بکر بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: مردوں کا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

﴿11048﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ہر نفس کو اس کی خواہش کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو کبھی بھلائی کی خواہش ہوتی ہے اور کبھی برائی کی۔

## نکاح نہ کرنے کی وجہ:

﴿11049﴾... حضرت سیدنا یعلیٰ بن عبید کے بھائی حضرت سیدنا ابراہیم بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نکاح کے معاملے میں ملامت کی گئی، ان سے کہا گیا: آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا: میرا کمزور دل جو ایک فکر کو سنبھال نہ سکے اس پر دو فکریں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟

﴿11050﴾... حضرت سیدنا قاسم بن ضحاک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک دن اپنے دوست حضرت عقبہ بن موسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے فرمایا: عقبہ! وہ شخص غم سے کیسے رہائی پاسکتا ہے جس کی مصیبتیں ہر وقت تازہ ہو رہی ہوں؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عقبہ بن موسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بے ہوش ہو کر گر گئے۔

﴿11051﴾... حضرت سیدنا عبدالاعلیٰ بن زیاد انسلی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو نہر فرات کے کنارے حیرانگی کی حالت میں کھڑے دیکھا تو پوچھا: ابو سلیمان! آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں کشتی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی اطاعت میں دریا میں کیسے چل رہی ہے۔

## آپ عَلَیْہِ الرَحْمَةُ کی شب بیداری:

﴿11052﴾... نفع قبیلہ سے تعلق رکھنے والے عبادت گزار بزرگ حضرت سیدنا سعید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ حضرت سیدنا اُمّ سعید بن علقمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِا جن کا تعلق قبیلہ طے سے تھا فرماتی ہیں: ہمارے اور حضرت

سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی، میں اکثر رات میں آپ کی نہ تھننے والی رونے کی آواز سنتی تھی اور کبھی کبھی رات کے درمیانی حصے میں آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتی: ”اے میرے مولیٰ! تیری یاد نے میرے غم ختم کر دیئے، میری شب بیداری سے دوستی کر دادی اور تیرے دیدار کے شوق نے لذتوں و خواہشوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے، اے کرم فرمانے والے محبوب و مطلوب! میں تیری قید میں ہوں۔“ جب صبح کے وقت آپ خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو مجھے لگتا گویا اس گھڑی دنیا کی تمام نعمتیں آپ کی سریلی آواز میں سما گئی ہیں۔ آپ گھر میں اکیلے رہنے کے باوجود چراغ روشن نہیں کرتے تھے۔

﴿11053﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: حسن ظن پر ہی اعتماد کیا جاتا ہے جبکہ غفلت نے اجسام پر قبضہ کر رکھا ہے۔

﴿11054﴾... حضرت سیدنا محمد بن عبدالحزیز تیسری رات رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کہا: آپ اس آیت کی قراءت کس طرح کرتے ہیں ”قَلْبًا تَرَاۤیَ الْجَنَّةَ“ یا ”تَرٰی الْجَنَّةَ“؟ آپ نے فرمایا: ”اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔“

### تیری اوقات ایک درہم کے برابر بھی نہیں:

﴿11055﴾... حضرت سیدنا یحییٰ طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا عمر و رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی گلی سے گزرے تو آپ نے وہاں ترتیب سے رکھی پکی ہوئی تازہ کھجوریں دیکھیں تو آپ کا دل کھجور کی خواہش کرنے لگا لہذا آپ نے ایک کھجور فروش کے پاس جا کر کہا: مجھ ایک درہم کی کھجور دے دو۔ اس نے کہا: درہم کہاں ہے؟ آپ نے کہا: کل دے دوں گا۔ اس نے کہا: چلے جاؤ۔ آپ کے کسی جاننے والے نے آپ کو دیکھا تو کھجور فروش کے پاس گیا اور اسے آپ کے بارے میں بتایا اور 100 درہم سے بھری ایک تھیلی نکال کر کہا: جاؤ ان سے ملو اگر وہ تم سے ایک درہم کی کھجور لے لیں تو یہ سب تمہارے ہیں۔ چنانچہ کھجور فروش آپ کے پاس پہنچا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے نفس سے فرما رہے تھے: تیری اوقات اس دنیا میں ایک درہم کے برابر بھی نہیں اور تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اس کھجور والے نے بہت کوشش کی کہ آپ واپس آکر کھجوریں لے لیں مگر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انکار کر دیا۔

## دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں:

﴿11056﴾... حضرت سیدنا ابو محمد صدق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ہم کوفہ میں حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، تدفین کے وقت آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، دیگر لوگ بھی آپ کے پاس آکر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: جو وعدہ عذاب کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے دور بھی نزدیک ہوتا ہے، جس کی امیدیں زیادہ ہوں اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، پیش آنے والا ہر معاملہ قریب ہی ہے، اے میرے بھائی! یاد رکھو جو چیز تمہیں اللہ عزوجل کی یاد سے غافل کرے وہ تمہارے لئے منحوس ہے، جان لو! دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں کہ جو کچھ آگے کے لئے جمع کر کے رکھتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس پر افسوس کرتے ہیں۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جس چیز پر قبر والے افسوس کرتے ہیں دنیا والے اس کی خاطر باہم قتل و غارت گری کرتے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور اس کے لیے قاضیوں (ججوں) کے ہاں مقدمہ بازی کرتے ہیں۔

﴿11057﴾... حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاندنی رات میں غور و فکر میں مشغول تھے، اسی حالت میں اٹھے اور چھت پر چلنے لگے حتیٰ کہ پڑوسی کے گھر میں جا گرے حالانکہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ پڑوسی بنا کپڑوں ہی کے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو چور سمجھ کر تلوار تھام لی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو واپس پلٹا، کپڑے پہنے، تلوار رکھی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا۔ جب حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھے پتائی نہیں چلا یا (فرمایا:) احساس نہیں ہوا۔

## عظیم نصیحت:

﴿11058﴾... حضرت سیدنا ابن سہاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی حضرت سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نصیحت کی: اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں اللہ عزوجل تمہیں اس جگہ نہ دیکھے جس سے تمہیں منع کیا ہے اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں کا تمہیں حکم دیا ہے اور اس سے حیا کرو کہ وہ تم سے قریب اور تم پر قدرت رکھنے والا ہے۔

## حکام کی قربت کے خطرات:

﴿11059﴾... حضرت سیدنا سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ سے پوچھا گیا: آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو حکمرانوں کے پاس جا کر انہیں بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے؟ فرمایا: مجھے اس پر کوڑے کا خوف ہے۔ سائل نے کہا: وہ طاقتور ہے۔ فرمایا: مجھے اس پر تلوار کا خوف ہے۔ سائل نے کہا: وہ طاقتور ہے۔ فرمایا: مجھے اس پر خود پسندی کے پوشیدہ مرض کا خوف ہے۔

## نماز میں نیکسوئی:

﴿11060﴾... حضرت سیدنا ابو خالد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ سے پوچھا گیا: نماز بغرض سلام حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ میں نے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز والی جگہ کے اوپر سے ججے کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر آپ کے قریب آگرا لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ نے اس سے بچنے کی کوشش کی نہ ہی آپ گھبرائے بلکہ اپنی نماز میں ہی متوجہ رہے۔

## غیبی چراغ:

﴿11061﴾... احمد بن شراح نامی شخص کا بیان ہے: میں رات کے وقت زمین میں پانی لگا رہا تھا کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ کی قبر کے پاس ایک چراغ دیکھا، میں اسے قریب سے دیکھنے گیا تو وہ اچانک غائب ہو گیا، میں دوبارہ پانی لگانے میں مصروف ہو گیا تو پھر چراغ نظر آیا، میں آگے بڑھا تو وہ غائب ہو گیا، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا پھر میں جا کر سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے: ”قبر کے پاس پانی مت لگانا اور نہ ہی اس کے قریب جانا۔“ پھر میں نے وہاں کا رخ نہیں کیا اور بیمار پڑ گیا۔ سیف بن بناس طائی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ احمد بن شراح کو تپ دق کا مرض ہو گیا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔

﴿11062﴾... حضرت سیدنا ابو عبد عبد العزیز بن محبوب بن ابی فزیر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰوْنَ سَلٰوٍ سے پوچھا گیا: میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا کر پی لیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: بھتیجے! آئندہ بغیر اجازت ہر گز نہ پینا۔



ایک بار کسی شخص نے اپنا کھجور کا درخت کاٹا تو لوگ اس کا ایک خوشہ لے آئے، آپ نے پوچھا: یہ کیا!۔ بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنا کھجور کا درخت کاٹا ہے۔ اس پر فرمایا: کھجوریں تیار ہونے کے باوجود کاٹ دیا!!!۔

### تعریف پر ردِ عمل:

﴿11063﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو خبر ملی کہ کسی حاکم کے پاس آپ کا تہ کرہ ہوا تو اس نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا: لوگوں کے درمیان پر وہ رکھا گیا ہے، اگر ہمارے اندر پائی جانے والی برائیوں سے تھوڑا بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی کوئی زبان ہمیں بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے۔

﴿11064﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: گناہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں لوگوں میں زیادہ بیٹھنے سے حیا آتی ہے۔

﴿11065﴾ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ہمارے ان اعمال کا راستہ تو مایوسی ہے لیکن دل امید رحمت کے مشتاق ہیں۔

﴿11066﴾... حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: بے شک غم کے اثرات ہوتے ہیں۔

### غلطی آگے نہ بڑھائی جائے:

﴿11067﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن اور لیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے میرے سامنے تلاوت کی تو ایک قراءت میں غلطی واقع ہوئی، میں نے وہ قراءت حضرت قاسم بن متعن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے اسی طرح ذکر کی تو انہوں نے اسے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی طرف منسوب کیا، پھر جب میں آپ سے ملا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: تم نے اس غلطی کو آگے بیان کیوں کیا؟

﴿11068﴾... حضرت سیدنا محمد بن بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہمارے پاس شہر سے متصل گاؤں سے آئے تھے، ہم آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ اپنے وصال سے پہلے ہم پر برتری و فوقیت لے گئے۔

﴿11069﴾... حضرت سیدنا عبد العزیز بن محمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے: کون حاضر ہو گا؟ کون حاضر ہو گا؟ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں تمہاری

بات کا مطلب جانے آیا ہوں۔ اس نے کہا: کیا تمہیں وہ شخص نظر نہیں آ رہا جو کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور انہیں اولیاء اللہ کے بلند مرتبوں کے بارے میں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس جاؤ شاید تم اس کے لوٹنے سے پہلے اس سے مل کر اس کی گفتگو سن سکو۔ میں اس کے پاس آیا تو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور وہ یہ شعر کہہ رہا تھا:

مَا قَالَ عَبْدٌ مِّنَ الرَّحْلَيْنِ مَنُودَةً  
أَعْلَىٰ مِنَ الشَّوْقِ إِنَّ الشَّوْقَ مَخْمُودٌ

**ترجمہ:** کسی بندے نے شوق سے بڑا مرتبہ رحل عزاز سے حاصل نہیں کیا، بے شک شوق قابل ستائش ہے۔

پھر وہ خطاب کرنے والے سلام کر کے نیچے اتر آئے، میں نے اپنے برابر والے سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: یہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہیں۔ میں بڑا متعجب ہوا تو اس نے کہا: کیا تم اس پر متعجب ہو جو تم نے دیکھا ہے؟ خدا کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا اس سے بڑا مرتبہ اور اس سے زیادہ اجر ہے۔ پھر حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اصل اشتیاق کسی غائب ہی کا ہوتا ہے۔

## شدت غم:

﴿11070﴾... حضرت سیدنا ابو نعیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے چہرے پر اوپر نیچے دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی لیکن غم کی وجہ سے آپ کو اس کا احساس ہی نہیں تھا۔

﴿11071﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کسی کو ایک درہم دے کر بھیجا اور فرمایا: ایک دائق سے یہ خرید لینا، ایک دائق سے یہ خرید لینا حتیٰ کہ پورے درہم سے چیزیں خریدنے کو کہا، جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے فرمایا: واپس آ جاؤ اور ہمارا درہم ہمیں واپس کر دو، ہمیں دین میں لطف اندوزی مناسب نہیں۔

## فضولیات سے احتیاط:

﴿11072﴾... حضرت سیدنا معاویہ بن عمرو رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس تھے کہ روشن دان سے دھوپ آنے لگی، حاضرین میں سے کسی نے کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ روشن دان بند کر دوں۔ آپ نے فرمایا: ہمارے اسلاف فضول نظری کو ناپسند کرتے تھے۔

یو نہی ایک اور دن ہم آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس تھے، وہاں ایک پوسٹین تھی جو پھٹ چکی تھی اور اس کے ریشے نکل رہے تھے، حاضرین میں سے کسی نے کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے سی دوں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے اسلاف فضول گفتگو کو ناپسند کرتے تھے۔

### ادب یاد دلانے والے کو دُعا:

﴿11073﴾... حضرت سیدنا سعید طحان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے کہا: ابو سلیمان! کیا آپ اپنی چپلیں اپنی دائیں جانب نہیں دیکھ رہے، مناسب ہو گا کہ آپ انہیں اپنے سامنے یا اپنی بائیں جانب رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری فقاہت میں برکت عطا فرمائے۔

﴿11074﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن اوریس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داود طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو عُبَیْدُ اللہ بن عُبَیْدُ اللہ کے یہ اشعار پڑھتے سنا:

أَلَا أَيْلَعَا عَنِّي بَرَآكِ بْنِ مَالِكٍ      وَلَا تَدْعَا أَنْ تُثْنِيَا بِأَيِّ بَنِي  
فَقَدْ جَعَلْتَ ثُبُوًا شَوَاكِلُ وَمَنْكُبَا      كَاكُبَا لِي مُؤَقَّرَانِ مِنَ الضَّخْرِ  
فَلَا تَدْعَا أَنْ تُسَلِّكَا وَتُسَلِّتَا      قَبَا حُسَيْنِ الْإِنْسَانِ شَرًّا مِنَ الْكِبَرِ  
وَمَسَا لُتَابِ الْأَرْضِ مِنْهَا خَلِيقُ ثُبَا      فِقْهَهَا الْبُعَادُ وَالْبَصِيرُ إِلَى الْعَشِيرِ  
وَلَوْ شِئْتُ أَذَلُّ فِينَكُمَا غَيْرُ وَاحِدٍ      عَلَانِيَةً أَوْ قَالٍ عِنْدِي فِي السِّرِ  
فَإِنْ أَقَا لَمْ أَمُرْهُ وَكَمْ أَنَّهُ عَنَكُمَا      صَحِحْتُ لَهُ حَقٌّ يَدِيحُ وَيَسْتَشْفِرِي

**ترجمہ:** (۱)... حضرت عراق بن مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو میرا پیغام پہنچا دیتا اور حضرت ابو بکر بن سلیمان رَحْمَةُ اللہِ

تَعَالٰی عَلَیْہِ کو بھی تعریف کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ (۲)... تمہاری شاخیں نکل چکی ہیں، تم پتھر ملی زمین میں میرے لئے پھلدار درخت کی طرح ہو۔ (۳)... لہذا اطلب اور اطاعت کو نہ چھوڑنا کیونکہ انسان میں آنے والی کوئی بُرائی تکثر سے بڑی نہیں۔ (۴)... اور زمین کی مٹی چھو اس سے تمہاری تخلیق ہوئی اور اسی میں لوٹنا اور محشر کی طرف جانا ہے۔ (۵)... اگر میں چاہتا تو میرے پاس کئی لوگ اعلانیہ یا پوشیدہ تمہاری بُرائیاں کرتے۔ (۶)... اگر میں نے انہیں حکم نہ دیا ہوتا اور تمہاری بُرائی سے نہ روکا ہوتا تو میں ان کے لئے مسکراتا شخی کہ وہ جھگڑا و فساد کرتے اور اس پر اڑے رہتے۔

## سیدنا اود طائی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کی مرویات

حضرت سیدنا اود بن فضال طائی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے تابعین کی ایک جماعت سے احادیث روایت کی ہیں جن میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن غنیم، حضرت سیدنا اسماعیل بن ابی خالد، حضرت سیدنا امام اعش، حضرت سیدنا حمید طویل رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى شامل ہیں اور آپ کی اکثر روایات حضرت سیدنا امام اعش رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے ہیں نیز حضرت سیدنا مصعب بن مقدام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی سب سے زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں۔

حضرت سیدنا اسماعیل بن علقمہ اور حضرت سیدنا زافر بن سلیمان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا آپ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کا وصال ۱۶۶ھ اور ایک قول کے مطابق ۱۶۵ھ میں ہوا۔

۱۱۰۷۵ھ... حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کا بیان ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی خدمت حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی شکایت کرتے ہوئے بولے: خدا کی قسم! سعد بن ابی وقاص اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا: ابواسحاق (یعنی حضرت سعد) کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا: ان لوگوں کا گمان ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے عرض کی: میں تو انہیں رسول پاک، صاحب لولا کہ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، پہلی دو رکعتوں میں قیام کو طویل کرتا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: ابواسحاق! میرا آپ کے بارے میں یہی خیال تھا۔

### بلا ضرورت سوال کی مذمت:

۱۱۰۷۶ھ... حضرت سیدنا زید بن غلبہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے کہا: آپ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا: حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”سوال ایک طرح کی خراش ہے کہ آدمی اس سے اپنا منہ نوچتا ہے، جو چاہے اسے اپنے منہ پر باقی رکھے اور جو چاہے نہ رکھے سوائے یہ کہ آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اُس سے چارہ نہ ہو۔“ حجاج نے کہا: میں سلطنت والا ہوں لہذا آپ اپنی حاجت

بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا: میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حجاج نے کہا: ہم نے اس کے لئے سو دینار مقرر کئے۔<sup>(۱)</sup>

### بہترین علاج:

﴿11077﴾... حضرت سیدنا سترہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ کا ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حجامہ کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سینگ سے پھینے لگانے کے لئے استرے سے زخم لگا رہا تھا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے اپنی کھال کاٹنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ ارشاد فرمایا: یہ حجامہ ہے اور یہ لوگوں کے طریقہ علاج میں سب سے بہتر ہے۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی یہ حدیث صحیح ہے، اسے حضرت سیدنا امام شعبہ، حضرت سیدنا شیبان، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا زامدہ، حضرت سیدنا ابو عوانہ اور حضرت سیدنا جریر نے حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح روایت کیا۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فہ کے بڑے تابعین میں سے ہیں، آپ نے 30 صحابہ کرام علیہم السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ان میں سے بعض سے حدیثیں سنیں اور بعض کی فقط زیارت سے فیض یاب ہوئے۔

﴿11078﴾... حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عزوجل اس پر رحم نہیں فرماتا۔<sup>(۳)</sup>

### قابل رشک لوگ:

﴿11079﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رغزفت رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو افراد کے سوا کسی پر رشک جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ عزوجل مال دے کر نیک کاموں میں خرچ کرنے پر لگا دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ عزوجل علم دے تو وہ اس کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے۔<sup>(۴)</sup>

①... موسوعة للامام ابن ابی الدنيا، كتاب القناعة والعفاف، باب منه السالفة... الخ، ۲/۲۳۳، حدیث: ۲۱

②... مسند امام احمد، حدیث: سمرة بن جندب، ۲۵۳/۴، حدیث: ۲۰۱۱۴

③... مسلم، كتاب الفضائل، باب: رحمة من الله عليه وسلم الصبيان... الخ، ص ۱۲۶۸، حدیث: ۲۳۱۹

④... معجم اوسط، ۱/۳۶۵، حدیث: ۱۷۱۲

اہل یمن کی فضیلت:

﴿11080﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس اہل یمن آئے وہ ملائم طبیعت اور نرم دل ہیں، پیارا ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت تو یمنی ہے البتہ بے رحمی اور سنگدلی شور مچانے والے ان اونٹ والوں میں ہے جو جانب مشرق واقع قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے ہیں۔<sup>(۶)</sup>

اُمت کے لئے خاص دعا:

﴿11081﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع اُمتِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کی خصوصاً ایک مقبول دعا ہے اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے بجا رکھی ہے۔<sup>(2)</sup>

﴿11082﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کو مختصر رکھا کرو کیونکہ تمہارے پیچھے کمزور، بوڑھے اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ممنوع سرگوشی:

﴿84-11083﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم تین افراد ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ

⑥... معجم أوسط، ۱/۳۶۹، حديث: ۱۷۳۹

②... مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، ص ١٢٨، حديث: ١٩٨.

③...مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ، ۳/۲۱۶، حدیث: ۱۰۷۹۷

کریں کیونکہ یہ بات اسے تمکین کرے گی<sup>(۱)</sup>۔<sup>(۲)</sup>

سب سے زیادہ خسارہ پانے والے:

﴿11085﴾... حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَعْبُدُہُ اللہ کے سامنے میں تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے: ربّ کعبہ کی قسم! وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ زیادہ مال والے ہیں (پھر دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: سوائے ان کے جو اس طرح، اس طرح اور اس طرح مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جو بھی ایسے اونٹ یا گائے یا بکریاں چھوڑ کر مراجن کی اس نے زکوٰۃ نہ دی تھی تو یہ جانور قیامت کے دن پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روند ڈالیں گے اور جب ایک گزرے گا تو پہلے والا پھر روندنے کے لئے آجائے گا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اسے یونہی عذاب ہوتا رہے گا۔<sup>(۳)</sup>

تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے:

﴿11086﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ صادق و مضدوق نبی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش 40 دن 40 رات اپنی ماں کے پیٹ میں جمع رکھا جاتا ہے پھر اتنے ہی دن وہ جھے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک وہ گوشت کا لوتھڑا بن کر رہتا ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر اسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ ”وہ اس کا عمل، موت، رزق اور خوش بخت یا بد بخت ہونا لکھ دے۔“ اور بے شک کوئی شخص جنتیوں

①... خیال رہے کہ یہ ممانعت وہاں ہے جہاں تیسرے کو اپنے متعلق یہ خبر ہو سکتا ہو اگر یہ شبہ نہ ہو سکے تو کیا کراہت یہ عمل جائز ہے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ حضور صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ قاطع زہر حاضر ہوئیں حضور نے انہیں مہربان کہا اور ان سے کچھ سرگوشی فرمائی۔ (مرآۃ المناجیح، ۱/ ۵۵۷)

②... مسلم، کتاب السلام، باب تحذیر مناجاة اللہ من لا یؤدی الزکاة بغیر رضا، ص ۱۲۰۱، حدیث: ۲۱۸۳

③... مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب تعطیل عقوبۃ من لا یؤدی الزکاة، ص ۴۹۵، حدیث: ۹۹۰

والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر غالب آجاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرتے ہوئے جہنم میں چلا جاتا ہے اور کوئی شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہو اجنت میں چلا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## افضل مسلمان:

﴿11087﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کرے وہ اُس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے نہ ان کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرے۔<sup>(۲)</sup>

سجدے میں اعتدال:

﴿11088﴾... حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلّم کائنات، شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کرے اور کُتے کی طرح اپنی کلاں یاں نہ بچھائے۔<sup>(۳)</sup>

اہل جنت کا کھانا پینا:

﴿11089﴾... حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے ابوالقاسم! کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں کھائیں اور پئیں گے؟ ارشاد فرمایا: ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنتیوں میں سے ہر ایک کو 100 مردوں کے برابر کھانے، پینے اور جماع کی طاقت اور شہوت عطا کی جائے گی۔ وہ بولا: تو جو شخص کھاتا ہے اسے (پانہ اور پیشاب) کی حاجت بھی ہوتی ہے جبکہ جنت تو پاکیزہ جگہ ہے اس میں کوئی گندگی نہیں؟ ارشاد فرمایا: ان کی حاجت پسینہ ہو

۱... بخاری، کتاب التوحید، باب قولہ تعالیٰ: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا الْإِبْرَاهِيمَ، ۵۶۰/۲، حدیث: ۷۴۵۳

مسلم، کتاب القدر، باب کیفیۃ خلق الآدمی... الخ، ص ۱۲۴، حدیث: ۲۶۳۳

۲... سنن کبریٰ للبیہقی، آداب القاضی، باب فضل المؤمن القوی الذی... الخ، ۱۵۳/۱۰، حدیث: ۲۰۱۷۴

۳... ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاة، باب الاعتدال فی السجود، ۴۸۱/۱، حدیث: ۸۹۱



گاجوان (کی جلدوں) سے کستوری کی طرح مہکتا ہوا نکلے گا تو بیٹ خالی ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿11090﴾... حضرت سیّدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرورِ عالم، نوریٰ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حج و عمرہ کا تعلیم ایک ساتھ کہتے ہوئے سنا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿11091﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب شریف اپنے کپڑے میں ڈالا۔<sup>(۳)</sup>

﴿11092﴾... حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم، رُغُوفِ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے مگر دیکھ لیتے تھے اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے مگر دیکھ لیتے تھے۔ (یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام بھی فرماتے اور نماز بھی ادا کرتے۔)<sup>(۴)</sup>

**کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ زندگی:**

﴿11093﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرورِ کونین، شہنشاہِ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زوجہ یا خادم کو نہیں مارا اور راہِ خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نیز آپ نے اپنی ذات کو نیچے والی تکلیف کا کبھی بدلہ نہیں لیا البتہ! جب حدودِ اللہ کو پامال کیا جاتا تو اللہ عزّوجلّ کے لئے بدلہ لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو، اگر اس میں کوئی گناہ ہوتا تو سب لوگوں سے زیادہ آپ اس سے دور رہتے۔<sup>(۵)</sup>

﴿11094﴾... اُمّ المؤمنین حضرت سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خلق کے رہبر، محبوبِ رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خروڑہ کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔<sup>(۶)</sup>

①... معجم اوسط، ۱/۴۶۷، حدیث: ۱۷۲۲، دون قولہ: والجنة طيبة ليس فيها اذى.

②... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳/۳۶۶، حدیث: ۱۲۸۹۷، بطورِ قلیل.

③... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة، باب المصلی یقتحم، ۱/۵۳۹، حدیث: ۱۰۲۳.

④... نسائی، کتاب قیام اللیل، باب ذکر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، ص ۲۸۳، حدیث: ۱۶۲۳.

⑤... معجم اوسط، ۵/۳۷۳، حدیث: ۷۹۵۱.

⑥... ابوداؤد، کتاب الاطعمۃ، باب فی الجمع بین لونین فی الاکل، ۳/۵۰۸، حدیث: ۳۸۶۶.


## زیارتِ قبور کی اجازت:

﴿11095﴾... حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کو اپنی والدہ کی زیارتِ قبر کا اذن دے دیا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿11096﴾... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور، محبوب رب اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اِذَا اَزْتَفَعْتَ النُّجُومَ اِذْ تَفَعَّتِ الْعَاہِلَةُ عَنْ كُلِّ بَدَنِ یَعْنِیْ جَبْ ثِیَا سَارے طلوع ہوتے ہیں تو ہر شہر سے آفت اٹھ جاتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿11097﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مُعَلِّم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حج و عمرہ کا تعلیم کہتے سنا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کَبِیْکَ عَمْرَؤَہُ وَحَقِیْقَةُ مَعَالِیْنِیْ اِنَّ اللہَ عَزَّوَجَلَّ! میں ایک ساتھ عمرہ اور حج کے لئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

﴿11098﴾... حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ایک ساتھ حج و عمرہ کا تعلیم کہتے ہوئے سنا۔



## حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم

ان بزرگانِ دین میں سے ایک انتہائی محتاط و دور اندیش اور پختہ ارادے والے حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم بھی ہیں، آپ کو معرفتوں پر مدد ملی تو آپ نے انہیں پالیا، آپ کو اسرار و رموز کی راہوں پر ڈال دیا تو آپ عبادت گزار بن گئے، آپ ہاتھ سے نکل جانے والی اور ہر اعلیٰ و گھٹیا شے سے بے نیاز تھے، حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شریعت آپ کا راستہ اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پسند

①...ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی زیارة القیور، ۳۳۰/۲، حدیث: ۱۰۵۶

②...طب النبوی لابن نعیم، باب توفی الحریکة... الخ، جزء اول، ص ۲۵۰، حدیث: ۱۳۰

③...ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الاحرام، ۳۲۰/۳، حدیث: ۲۹۱۷، بتغییر للیل

آپ کا مرجع تھا، آپ جوڑنے والے مبارک شخص کو پسند کرتے تھے اور فتنہ پرور جھگڑالو کو ناپسند کرتے تھے۔  
منقول ہے کہ دوسروں کی عزت کرنے، خود کو خدا عزوجل کے حوالے کر دینے، ہر وقت نگاہ باری تعالیٰ کی  
طرف رکھنے اور بندوں کے ساتھ نرمی رکھنے کا نام تَقْوُف ہے۔

## باشاہی سے درویشی تک:

﴿11099-100﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے خادم حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ابو اسحاق! آپ کے معاملے کی ابتدا  
کیسی تھی یہاں تک کہ آپ اس بلند مقام تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا تمہارے  
لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی: اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے! آپ کا فرمان بجا ہے لیکن مجھے اس بارے میں  
بتائیے شاید کسی دن اس کے سبب اللہ عزوجل ہمیں نفع دے۔ میں نے آپ سے دوسری بار سوال کیا تو آپ نے  
فرمایا: تجھ پر افسوس! اِذْکُرْ اللہَ میں مشغول ہو جاؤ۔ میں نے آپ سے تیسری بار پوچھا اور کہا: ابو اسحاق، کاش!  
آپ بتا دیتے۔ آپ نے فرمایا: میرے والد کا تعلق بلخ سے تھا اور وہ خراسان کے بادشاہ اور بہت مال و دولت  
والے تھے، ہمیں شکار کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور میرے ساتھ میرا کتا بھی  
تھا، میں شکار کو تلاش کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک خرگوش یا لو مڑی نے چھلانگ ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو  
حرکت دی تو مجھے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنائی دی: ”تجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا  
گیا ہے۔“ یہ سن کر میں رُکا اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے کہا: ابلیس پر اللہ عزوجل  
کی لعنت ہو۔ میں نے پھر اپنے گھوڑے کو حرکت دی تو اس سے زیادہ اونچی آواز سنی کہ ”اے ابراہیم! تجھے  
اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔“ میں رُک گیا اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا  
لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، میں نے کہا: ابلیس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہو۔ پھر میں نے اپنے گھوڑے کو حرکت  
دی تو میری زین کے ابھرے ہوئے کنارے سے آواز آئی: ”اے ابراہیم! تجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا  
گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔“ میں رُکا اور کہا: میں باز آیا، میں باز آیا، میرے پاس تمام جہانوں کے رب  
کی طرف سے ڈر سنانے والا آیا ہے۔ خدا کی قسم! میرے رب کی حفاظت کی بدولت میں نے اس دن کے بعد اللہ

عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر میں واپس اپنے گھر آیا گھوڑے سے اتر اور پھر اپنے والد کے چرواہوں کے پاس گیا ان میں سے ایک سے جبہ اور چادر لے کر اپنے کپڑے اسے دے دیئے اور عراق کا رخ کیا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا عراق پہنچ گیا وہاں چند روز کام کیا مگر مجھے کوئی خالص حلال چیز نہ ملی تو میں نے بعض مشائخ سے حلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: اگر تم حلال چاہتے ہو تو شام کے شہروں میں چلے جاؤ۔ لہذا میں نے شام کے شہروں کی راہ لی اور منصورہ نامی شہر چلا گیا اسے مَقْصِصَہ بھی کہا جاتا ہے، میں نے وہاں چند روز کام کیا لیکن وہاں بھی خالص حلال چیز نہ پائی تو میں نے بعض مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے فرمایا: اگر تم خالص حلال چاہتے ہو تو طرسوس چلے جاؤ۔ کیونکہ وہاں جائز اشیاء اور کثیر روزگار ہے، میں نے طرسوس کا رخ کیا اور وہاں کچھ دن کام کیا۔ میں باغات کی دیکھ بھال کرتا اور کھیتی کا شتا تھا۔

ایک دفعہ میں بابُ النِّبْحِ (جلد کا نام) میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے اپنے باغ کی دیکھ بھال کرنے کی بات طے کی۔ چنانچہ میں کئی باغوں میں کام کرتا، ایک مرتبہ باغ کا نگران اپنے ساتھیوں سمیت آیا اور اپنی نشست پر آکر بیٹھنے ہی بلند آواز سے پکارا: اباغبان! میں نے کہا: میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا: جاؤ اور تمہاری نظر میں جو بڑے اور عمدہ انار ہوں وہ ہمارے لئے لے آؤ۔ میں گیا اور بڑے بڑے انار لے آیا، نگران نے ایک انار لے کر چیرا تو اسے کھٹایا تو مجھ سے کہنے لگا: باغبان! تم ہمارے باغ میں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو، ہمارے پھل اور انار کھاتے رہے ہو اس کے باوجود تمہیں کھٹے میٹھے کی پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا: بخدا! میں نے تمہارے پھلوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی مجھے کھٹے میٹھے کی پہچان ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا: کیا تم اس کی گفتگو نہیں سن رہے؟ پھر مجھ سے کہنے لگا: کیا تو خود کو ابراہیم بن ادہم سمجھتا ہے؟ بس اتنا کہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جب اس نے مسجد میں لوگوں کو میرا یہ واقعہ بتایا تو کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا پھر وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری طرف آنے لگا تو انہیں دیکھ کر میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور لوگ باغ میں داخل ہونے لگے میں اُس بھیڑ میں شامل ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ میرا ابتدائی معاملہ اور طرسوس سے نکل کر رہال کے شہروں کی طرف آنے کا واقعہ تھا۔

حضرت سیدنا یونس بن سلیمانؑ لَعْنِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیْ نے اس قصے میں مزید یہ بھی بیان کیا کہ ”جب حضرت

سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگے تو اچانک آپ نے اوپر سے ایک آواز سنی: اے ابراہیم! یہ کیا بے کار کام میں پڑے ہو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، اللہ عزوجل سے ڈرو اور محتاجی والے دن کے لئے زادِ راہ لو۔“ یہ سن کر آپ گھوڑے سے اترے اور دنیا چھوڑ کر آخرت کے لیے عمل میں مشغول ہو گئے۔

﴿11101﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ خراسان سے 60 نوجوانوں کے ہمراہ حصولِ علم کی خاطر نکلے میرے سوا ان میں سے کوئی بھی تعلیم مکمل نہ کر سکا۔

### حلال روزی کا اہتمام:

﴿11102﴾... حضرت سیدنا شقیق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ سے ملکِ شام میں ملاقات کی تو ان سے کہا: اے ابراہیم! کیا آپ نے خراسان کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے جینے کا مزرعہ ملکِ شام میں ہی ملا ہے۔ میں اپنے دین کی خاطر ایک چوٹی سے دوسری چوٹی اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ فرار ہوتا رہتا ہوں، مجھے دیکھنے والوں میں سے کوئی مجھے دیوانہ کہتا ہے تو کوئی سامان اٹھانے والا فقی کہتا ہے۔ پھر فرمایا: اے شقیق! ہمارے نزدیک حج یا جہاد کے سبب فضیلت پانے والا بلند مرتبہ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک بلند مرتبہ تو وہ شخص ہے جو یہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ جو دو روئیاں وہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے وہ حلال کی ہیں یا نہیں؟ پھر فرمایا: اے شقیق! اللہ عزوجل نے فقرا پر کیسا انعام فرمایا ہے کہ ہر روز قیامت وہ ان سے زکوٰۃ، حج، جہاد اور صلہ رحمی کے بارے میں کوئی حساب نہیں لے گا، سوال تو ان بے چاروں یعنی مالداروں سے ہو گا۔

### ایک رات ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمۃ کے ساتھ:

﴿11103﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ کے خادم حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار خراسانی قدس سرہ اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ کے ساتھ ایک رات ایسی گزاری کہ ہمارے پاس روزہ افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہم کوئی اور تدبیر کر سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے پریشان و غمزہ دیکھا تو فرمایا: اے ابراہیم بن بشار! اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی راحتوں اور نعمتوں

میں سے فقرا اور مساکین کو کیسا انعام دیا ہے، بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ زکوٰۃ، حج، صدقہ، صلہ رحمی اور غنخواری کے بارے میں ان کا محاسبہ نہیں فرمائے گا بلکہ ان چیزوں کے بارے میں سوال اور محاسبہ تو ان بے چاروں سے ہو گا جو دنیا میں مالدار ہیں جبکہ آخرت میں فقیر ہوں گے، دنیا میں عزت دار ہیں جبکہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، غم کرو نہ پریشان ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رزق کی ضمانت ہے عنقریب وہ تمہارے پاس آ جائے گا، خدا کی قسم! بادشاہ اور مالدار تو ہم ہیں، ہم ہی تو ہیں جنہیں دنیا میں ہی بہت جلد راحت و سرور میسر ہے، جب ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں ہوں تو ہمیں کچھ پروا نہیں ہوتی کہ ہم کس حال میں صبح و شام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، میں بھی نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص ہمارے پاس آٹھ روٹیاں اور بہت ساری کھجوریں لے کر آیا اور ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، اسے کھا لیجئے۔ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے سلام پھیرا اور فرمایا: اے غمزہ! کھانا کھاؤ۔ اتنے میں ایک ساکلی آگیا اور کہنے لگا: مجھے کچھ کھلاؤ۔ آپ نے تین روٹیاں اور کچھ کھجوریں ساکلی کو دے دیں اور تین روٹیاں مجھے عطا فرمائیں جبکہ خود دو روٹیاں کھائیں اور فرمایا: غنخواری و بھلائی اہل ایمان کے اخلاق میں سے ہے۔

## اصل راحت تو اللہ والوں کی ہے:

﴿11104﴾... حضرت سیّدنا ابراہیم بن بشار رطابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت سیّدنا ابو یوسف غَسُوْلَی اور حضرت سیّدنا ابو عبد اللہ سنجاری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اسکندریہ جارہے تھے، جب ہم نہر اردن سے گزرے تو آرام کی خاطر بیٹھ گئے۔ حضرت سیّدنا ابو یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے خشک روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے سامنے رکھ دیئے، ہم نے وہ کھائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کیا، ہم میں سے ایک شخص حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ کو پانی پلانے کے لئے کھڑا ہوا مگر آپ اس سے پہلے نہر میں داخل ہو گئے تھے کہ پانی آپ کے گھٹنوں تک پہنچ گیا پھر آپ نے بِسْمِ اللہ پڑھ کر پانی پیا اس کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی بِسْمِ اللہ کہتے ہوئے پانی پیا اور پھر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ کر نہر سے باہر تشریف لائے اور پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ”اے ابو یوسف! اگر بادشاہ اور ان کے شہزادے ہماری نعمتوں اور لذتوں کو جان لیں تو وہ ہماری کم تھکاوت اور زندگی کے مزے دیکھ کر ہم سے اپنی تلواروں کے ساتھ

ساری زندگی لڑتے رہیں۔“

حضرت سیدنا جعفر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کی: ابو اسحاق! لوگ راحت و سکون اور نعمتوں کی چاہت میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ میری اس بات پر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مسکرا دیئے اور فرمایا: تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟

### جنت میں عمدہ مقام کے طالب:

﴿11105﴾... عباس بن فضل مَرَعَشی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابوزرّاد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے میری ملاقات ہوئی تو ہم دونوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، حضرت سیدنا عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پر رحم فرمائے! میں نے انہیں خراسان میں دیکھا کہ جب آپ سوار ہوتے تو سامنے میں میں خدمت گار موجود ہوتے تھے لیکن آپ نے وسط جنت کا عمدہ مقام طلب کیا۔

### بزرگوں کی دماسے صن ظن:

﴿11106﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن قُتَّاس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (میرے والد) حضرت سیدنا ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اچھے انسان تھے، مگر مکرمہ میں ان کے ہاں ابراہیم کی (یعنی میری) ولادت ہوئی تو انہوں نے ایک کپڑے میں اسے اٹھایا اور اس وقت کے عبادت گزاروں اور زاہدوں کو تلاش کر کے ان سے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس بچے کے لئے دعا کیجئے۔ لگتا ہے کہ ابراہیم کے حق میں ان میں سے کسی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔

﴿11107﴾... حضرت سیدنا خَلْف بن تمیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: میں ایک ساحل پر رہتا تھا، لوگ مجھ سے خدمت لیتے اور اپنے کاموں کے لئے بھیجا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بچے میرے پیچھے پڑ جاتے یہاں تک کہ میری پنڈلیوں پر پتھر مارتے، ایک مرتبہ میرے چند ساتھی آگئے تو انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میری عزت کی، جب وہاں کے لوگوں نے انہیں میری عزت کرتے دیکھا تو وہ بھی میری عزت کرنے لگے، کاش! تم مجھے بچوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا

دیکھتے، ان کا پتھر مارنا میرے ساتھیوں کے مجھے گھیر لینے سے زیادہ میٹھا لگتا تھا۔

## تقویٰ سے شخصیت کی پہچان:

﴿11108﴾... حضرت سیدنا رواد بن جراح رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْمَیْہِ غرہ کے علاقے میں انگوروں کی باغبانی کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور بولا: ہمارے کھانے کے لئے انگور لے آؤ۔ آپ نے اسے خافونی نامی انگور لا کر دیئے، تو وہ کھٹے نکلے۔ وہ بولا: کیا تم نے ان انگوروں میں سے کچھ کھایا ہے؟ آپ نے کہا: نہ میں نے ان میں سے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی ان میں سے۔ وہ بولا: کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے کہا: کیونکہ آپ نے مجھے کسی انگور کا مالک نہیں بنایا۔ وہ بولا: اچھا مجھے اتنا لا دو۔ آپ نے اسے اتنا لا کر دیا تو وہ بھی کھٹا نکلا، مالک بولا: کیا تم نے اس میں سے کچھ کھایا ہے؟ آپ نے کہا: نہ میں نے ان میں سے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی ان میں سے۔ وہ بولا: اگر تم ابراہیم بن ادہم ہو تو یہ بات غلط نہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں تو آپ اپنی اجرت لئے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔

## کام میں ذمہ داری کا مظاہرہ:

﴿11109﴾... حضرت سیدنا فضیل بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْمَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْمَیْہِ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے، آپ نے عسقلان میں ایک نصرانی کے باغ کی دیکھ بھال کا کام کیا اس باغ میں انواع و اقسام کے درخت تھے، ایک مرتبہ نصرانی کی بیوی بولی: مینیے! اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرا گمان ہے کہ یہ وہی نیک شخص ہے جس کا لوگوں میں چرچا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا: تو نے اسے کیسے پہچانا؟ وہ بولی: میں انہیں صبح کا کھانا دیتی ہوں تو رات کو بھی ان کے پاس موجود پانی ہوں اور رات کا کھانا دوں تو صبح تک ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ انتہائی ذمہ داری سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔

﴿11110﴾... حضرت سیدنا فضیل بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْمَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْمَیْہِ کے ساتھ پہرہ دینے کی غرض سے عکہ قبیلہ کی دیوار پر چڑھا آپ دو کنگوروں کے



درمیان دیوار پر یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی اپنی سواری پر بیٹھتا ہے پھر مجھے ڈانٹنے والے کے انداز میں لیٹنے کو کہا۔ میں لیٹ تو گیا مگر مجھے خیند نہیں آئی، پھر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا تاکہ آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات سن سکوں مگر مجھے آپ کے پیٹ سے شہد کی مکھی کی طرح جھنصناہٹ ہی سنائی دی۔ آپ جمعہ کی رات پہرہ نہیں دیا کرتے تھے، میں نے عرض کی: آپ جمعہ کی رات پہرہ کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا: لوگ شپ جمعہ کی فضیلت پانے میں رغبت رکھتے ہیں لہذا وہ اپنا پہرہ خود ہی دیتے ہیں پس جب وہ اپنا پہرہ خود دیتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں اور جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ہم پہرہ دیتے ہیں۔

### کام کاج میں لوگوں کی مدد:

﴿1111﴾... حضرت سیدنا سہل بن پشیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ میرے پاس سے گزرے، میں سوکھی لکڑیوں کے ٹکڑے کر رہا تھا اور اس کام نے مجھے تھکا دیا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا: اے محمد! کیا اس کام نے آپ کو تھکا دیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تو آپ یہ کام ہمیں کرنے کا حکم دیجئے؟ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا آپ ہمیں کلباڑی دیں گے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ نے لکڑیاں اپنی گردن پر رکھیں اور کلباڑی لے کر چلے گئے۔ میں اسی حال پر تھا کہ اچانک دروازہ کھلا کیا دیکھتا ہوں کہ لکڑیاں دروازے پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہیں اور آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کلباڑی رکھی، دروازہ بند کیا اور روانہ ہو گئے۔

حضرت سیدنا سہل بن پشیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر با آواز بلند فرماتے: کیا کوئی غلہ پسوانا چاہتا ہے؟ تو کوئی عورت یا بوڑھا تو کری نکال کر رکھ دیتا، آپ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان چمکی رکھ لیتے اور اس وقت تک نہ سوتے جب تک وہ غلہ بلا اجرت پیس کر نہ دے دیتے، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آتے۔

﴿1112﴾... حضرت سیدنا علی بن بشار رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے خوشے اٹھانے کے بجائے کھیت کی کٹائی کرنا پسند کرتے تھا جبکہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ زمین سے خوشے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں جانتے اور اٹھا لیا کرتے تھے، دونوں حضرات

تقریباً ہم عمر تھے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم زیادہ فقیہ تھے اور عرب کے قبیلے بنو غل سے تعلق رکھتے تھے اور اعلیٰ حسب والے تھے، آپ جب کوئی کام کر لیتے تو جزیہ تقیم پڑھتے اور فرماتے:

اِتَّخِذِ اللّٰهَ صَاحِبًا وَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا

ترجمہ: لوگوں کو ایک طرف کر کے اللہ سزا جان کو دوست بنا لو۔

آپ سردی کے موسم میں چمڑے کی عبا (جُبہ) پہنتے جس کے نیچے کوئی قمیص نہ ہوتی تھی اس کے علاوہ موزے اور عمامہ بھی نہیں پہنتے تھے اور گرمیوں میں چار درہم مالیت والے دو کپڑے پہنتے جن میں سے ایک کو تببند بنالیتے اور دوسرا اوڈھ لیتے تھے، سفر و حضر ہر حال میں روزے سے ہوتے، رات کو نہ سوتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے، جب کھیتی کی کٹائی سے فارغ ہوتے تو اپنے ساتھی کو بھیجتے وہ کھیت کے مالک سے حساب کتاب کرتا پھر وہ درہم لے کر آتا تو آپ اسے ہاتھ تک نہ لگاتے بلکہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے: ”یہ درہم لے جاؤ اور جو دل چاہے کھاؤ۔“ اگر کھیت کی کٹائی کا کام نہ ہوتا تو باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال پر مزدوری کرتے تھے اور آپ بیٹھ کر ایک ہی ہاتھ سے دو مدگندم پیستے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دو مد سے مراد دو قفیز ہیں (مد اور قفیز دونوں کے نام ہیں)۔

## رزقِ حلال کے لئے ہجرت:

﴿1113﴾... حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ النذیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے عرض کی: آپ ملک شام میں کتنے عرصے سے قیام پزیر ہیں؟ آپ نے فرمایا: 24 سال سے، میں یہاں جہاد کے لئے آیا تھا نہ ہی سرحد کی حفاظت کے لیے۔ میں نے پوچھا: پھر آپ کس لئے آئے تھے؟ فرمایا: حلال روٹی سے پیٹ بھرنے کے لئے۔

## آپ علیہ الرحمۃ کے ساتھ سفر کی روداد:

﴿1114﴾... حضرت سیدنا علی بن بکار علیہ رحمۃ اللہ العفّار کو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست نے بتایا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوا، راستے میں ہمارا توشہ ختم ہو گیا تو ہم کانٹے دار درخت کیرب اور دوسرے درختوں کی شاخیں کھانے لگے

حتیٰ کہ ہمارے حلق گھر درے ہو گئے اور ہم مشقت میں پڑ گئے تو میں نے کہا: ہم بستی میں جاتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کام مل جائے گا، جب ہم بستی میں گئے تو وہاں ایک منہر دیکھی، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ میں کام تلاش کرنے لگا، میں نے لوگوں سے چار درہم کی اجرت پر گری ہوئی دیوار کی مرمت کی ذمہ داری لے لی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے جا کر کہا: میں نے کام کی ہامی بھری ہے۔ چنانچہ وہ تو جوانوں کی طرح کام میں لگ گئے جبکہ میں بوڑھے شخص کی طرح کام کرنے لگا۔ وہ لوگ ہمارے لئے ناشتہ لے کر آئے، میں نے کھانے کے لیے جلدی سے ہاتھ دھوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا دن طلوع ہوتے ہی یہ کھانا بھی تمہاری اجرت میں ملے گا؟ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: صبر کرو یہاں تک کہ تم اپنی اجرت لے کر اس سے کھانا خریدو۔ لہذا جب ہم کام سے فارغ ہوئے تو درہم لئے اور خرید کر کھانا کھایا پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے، راستے میں ہمیں بھوک لگی تو ہم جنس شہر کی ایک بستی میں آئے، وہاں چھوٹی منہر گزر رہی تھی، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ایک طرف ایک گھر تھا جس میں ایک کمرہ تھا، کمرے میں رہنے والا ہمیں دیکھ رہا تھا کہ جب سے ہم آئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے لہذا اس نے ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ بھیجا جس میں خرید اور بیچگی ہوئی روٹیاں تھیں، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: گھر والے نے۔ فرمایا: اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا: فلاں بن فلاں۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اس کے بعد ہم انطاکیہ کی ایک دادی میں پہنچے، فصل کاٹنے کا وقت آچکا تھا لہذا ہم نے تقریباً 80 درہم کے عوض فصل کافی پھر میں نے سوچا کہ میں اس میں سے آدھی رقم (اپنا حصہ) لے کر واپس چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھ میں ان کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں ہے لہذا میں نے کہا: میں بیت المقدس واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے اب میرے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ فرما کر آپ انطاکیہ میں داخل ہوئے اور ان درہموں سے دو بڑی چادریں خریدیں اور مجھ سے فرمایا: جب تم اس بستی میں جاؤ جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا تو فلاں بن فلاں کے بارے میں معلوم کر کے اسے یہ چادریں دے دینا۔ یہ فرما کر آپ نے بقیہ درہم بھی میرے حوالے کر دیئے اور خود خالی ہاتھ ہو گئے۔ جب میں نے وہ چادریں اس شخص کے حوالے کیں تو اس نے پوچھا: یہ کس نے بھیجی ہیں؟ میں نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے۔ اس نے کہا: کون ابراہیم

بن ابراہیم؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جن دو شخصوں کے لئے کھانا بھیجا گیا تھا ان میں سے ایک حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم تھے تو اس نے وہ چادریں لے لیں اور میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا، وہاں کچھ عرصہ رہ کر لوٹا اور اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو کسی نے مجھے بتایا: اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے انہی دو چادروں میں کفن دیا گیا ہے۔

## کمزور کسانوں سے تعاون:

﴿11115﴾... حضرت سیدنا فضیل بن سالم علیہ رحمۃ اللہ انبی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کو دیکھا جب آپ فصل کاٹنے تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کمزور لوگ آپ سے مدد مانگتے، آپ ان کے حصے کی کٹائی کرتے پھر بھی اپنی جگہ میں ان سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کھیتی کاٹ لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اور خود کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر جو کچھ کھیتی ساتھیوں کے سامنے پکی ہوتی اسے کاٹنے لگ جاتے جبکہ ساتھی بیٹھے رہتے، پھر دو رکعت نماز ادا کر کے واپس اپنی جگہ آ کر فصل کاٹتے۔

## توکل و غنائی داستان:

﴿11116﴾... حضرت سیدنا علی بن محمد معلّم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم یہاں غار میں رہا کرتے تھے، ایک دن بازار گئے، بازار کی کشادہ جگہ میں خراسان کے ایک بوڑھے شخص کا ایک باغیچہ تھا جن کی کنیت ابو سلیمان تھی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے ان سے پوچھا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بیت المقدس۔ آپ نے فرمایا: ابو سلیمان! بخدا! امیرا ارادہ بھی بیت المقدس جانے کا ہے۔ انہوں نے کہا: ابو اسحاق! کیا ہم ساتھ ہی چلیں؟ آپ نے فرمایا: جی ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو سلیمان حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنے گھر گئے اور ایک صراحی نکالی جس کا سرابندھا ہوا تھا اور اس میں روٹیوں کے ٹکڑے تھے، انہوں نے وہ ٹکڑے اپنے تھیلے میں رکھے اور صراحی کو واپس رکھ کر دروازہ بند کیا اور ساتھ چلنے کو کہا۔ بیان کرتے ہیں: ہم چل پڑے اور بازار سے نکلنے ہی والے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا: ابو سلیمان! میں کچھ لگوانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کچھ لگوائے، جب کچھ لگانے والا فارغ ہو گیا تو آپ نے حضرت سیدنا ابو سلیمان علیہ

رَحْمَةُ الرَّحْمٰن سے فرمایا: کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پوچھا: کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک تھیل نکال جس میں اٹھارہ درہم تھے، آپ نے فرمایا: یہ کچھ لگانے والے کو دے دو۔ میں نے کہا: ابو اسحاق! کیا یہ تمام درہم اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں میرے کہنے کے مطابق سارے دے دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْہِم کی عادت تھی کہ جو کچھ دیتے اس سے پھرتے نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے وہ درہم دے دیئے اور ہم وہاں سے نکل گئے، جب ہم نے ایک یادو میل کا فاصلہ طے کر لیا تو میں نے کہا: ابو اسحاق! وہ درہم ہم نے اس لیے اپنے پاس رکھے تھے کہ اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے بیٹ المہدس سے کچھ خرید کر لے جائیں گے مگر آپ کے کہنے پر ہم نے وہ سارے درہم کچھ لگانے والے کو دے دیئے، میں آپ سے گھبرا گیا تھا، بخدا! ان درہم کے علاوہ میرے پاس اور کوئی شے نہیں۔ مگر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے ایک مرتبہ پھر درہم کا ذکر کیا مگر آپ بدستور خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔

ہمیں راستے کی ایک جانب بستی دکھائی دی تو آپ نے فرمایا: ابو سلیمان! میرے خیال میں اس بستی میں رات گزارنی چاہئے۔ مجھے یہ رائے پسند آئی لہذا ہم اس کی طرف چل پڑے جب ہم بستی میں داخل ہوئے تو سورج ڈوب چکا تھا اور مؤؤن اذان دینے کے ارادے سے بیٹھا ہوا تھا، ہم اسے سلام کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْہِم نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ کیا تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں یہاں کی ایسی فصل کے بارے میں بتاؤ جسے ہم کاٹ سکیں۔ حالانکہ لوگ فصلوں کی کٹائی کر چکے تھے، بوڑھے مؤؤن نے کہا: بستی والے کٹائی کر چکے ہیں اور میری معلومات کے مطابق ایک نصرانی کے دو بڑے کھیت ہی باقی رہتے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو نماز کے بعد تم ہمیں اس کے پاس لے جانا، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم دونوں بوڑھے ہیں اور کٹائی کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا: جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو گا۔ جب اس بوڑھے شخص نے نماز مغرب ادا کر لی اور ہم نے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْہِم اس کے پاس گئے اور فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو اچھا بدلہ دے! ہمیں اس نصرانی کے پاس لے چلو اور اس سے ہمارے بارے میں گفتگو کرو۔ اس نے کہا: سبحن اللہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عافیت عطا فرمائے! ہمیں کچھ اور بھی نماز پڑھنے دو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَزْہِم

خاموش ہو گئے اور پھر دونوں نے کچھ نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے پاس جا کر کہا: چلو، چنانچہ، ہم اس کے ساتھ نصرانی کے گھر پہنچے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نصرانی باہر آیا تو اس نے کہا: یہ دونوں بوڑھے مسافر ہیں اور فصل کی کٹائی بڑی اچھی کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے کھیتوں کا ذکر ان سے کیا تھا، ان دونوں کھیتوں کے معاملے میں بستی والے تمہیں انکار کر چکے ہیں، مجھ امید ہے کہ یہ دونوں بوڑھے تمہاری مرضی کے مطابق فصل کاٹ دیں گے لہذا تم ان دونوں کو اپنے کھیت دکھا دو اور ان دونوں سے کام لے لو۔ اس نے کہا: جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب ہم اس نصرانی کے ساتھ اس کے کھیت کی طرف جانے لگے تو وہ ضعیف مؤذن اپنے گھر یا مسجد کو واپس ہونے لگا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے اس سے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تمہیں بھی اجرت مل جائے گی۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، چاندنی رات تھی، نصرانی نے اپنے کھیت دکھائے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے اس سے کہا: ہم نے دیکھ لیا ہے اور اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّ وَجَلَّ ہم تمہارا یہ کام اچھی طرح کریں گے، تم ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اجرت دے دینا۔ اس نے کہا: بولو! کیا لوگ؟ آپ نے فرمایا: ہم کچھ نہیں کہیں گے تم خود سوچ کر جو چاہے رکھ لو اور جو بھی اجرت دینی ہو وہ اس بوڑھے مؤذن صاحب کو دے دو وہ اس کے پاس رہے گی، اگر تم دیکھو کہ ہم نے تمہاری پسند کا کام کیا ہے تو تم مؤذن صاحب کو کہہ دینا یہ ہمیں ہمارا حق دے دیں گے اور اگر تمہیں کام پسند نہ آئے تو تمہیں اختیار ہو گا اور تمہارا حق تمہارے پاس ہو گا۔ نصرانی بولا: میں تمہیں ایک دینار دوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے کہا: ہمیں منظور ہے، تم وہ دینار بوڑھے مؤذن صاحب کو دے دو، اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّ وَجَلَّ ہم آج رات ہی تمہارے کام کا آغاز کر دیں گے۔ نصرانی نے دینار لا کر بوڑھے کو دے دیا اور ہم اس کے ساتھ مسجد آ گئے، جب ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے بوڑھے سے فرمایا: ہم تو بھول ہی گئے ہمارے پاس درانٹیاں نہیں ہیں، اس نصرانی کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ وہ ہمیں دو درانٹیاں دے دے۔ بوڑھے نے کہا: میرے پاس درانٹیاں ہیں میں تمہیں دے دوں گا۔ پھر اس نے کسی کو اپنے گھر بھیجا وہ دو نئی درانٹیاں لے آیا۔

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمُ نے مجھ سے فرمایا: کھیت کی طرف چلتے ہیں۔ ہم وہاں آئے

اور کھیت میں داخل ہوئے تو اس میں ایک جگہ کچھ پانی بھی تھا، آپ نے کھیت میں چار رکعت نماز پڑھی پھر فرمایا: ابو سلیمان! مسلمانوں میں ہم دونوں کتنے بُرے ہوں گے کہ ہماری رات نصرانی کے کام میں گزر رہی ہو اور ہم یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے نماز نہ پڑھ سکیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی، ابو سلیمان! تمہیں دو میں سے کون سی بات زیادہ پسند ہے: تم یہاں اس جگہ نماز پڑھو اور میں جا کر فصل کاٹتا ہوں یا تم جا کر فصل کاٹو اور میں اپنی طاقت کے مطابق نماز میں رہوں؟ مجھے ان کی بات اچھی لگی اور میں نے کہا: میں یہاں نماز پڑھتا ہوں آپ جا کر فصل کاٹیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے اپنے کپڑے اوپر چڑھا کر کمر سے باندھے اور درختی لے کر چلے گئے، میں نے وہیں کچھ نماز پڑھی اور پھر سر رکھ کر سو گیا، رات کے آخری حصے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا: ابو سلیمان! میں تمہیں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اٹھو صبح ہو چکی ہے اور ابھی فجر طلوع ہو رہی ہے، میں نصرانی کا کام پورا کر چکا ہوں۔ میں نے کہا: کیا آپ نے دونوں کھیتوں کی تمام فصل کاٹ لی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ پھر ہم نے وہاں پانی سے وضو کیا اور کچھ دیر بیٹھ گئے حتیٰ کہ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو ہم نے جا کر اس بوڑھے مُوَدِّن کے ساتھ نماز ادا کی، جب اس نے سلام پھیر لیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے اس کے پاس جا کر کہا: اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ۔ اس نے کہا: وَعَلَیْکَ السَّلَام۔

آپ نے فرمایا: ہم نصرانی کے کام سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہم نے ساری فصل کاٹ دی ہے اور مناسب طریقے سے اس کے بٹڈل بنا دیئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا اور کہا: شیخ! میرے خیال میں آپ نے نصرانی کو، خود کو اور اپنے ساتھی کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ کام پانچ دن اور پانچ راتوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ کام ایک رات میں ہی کر لیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: شَبِطَنَّ اللہ! جھوٹ بہت بُری شے ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عافیت عطا فرمائے! اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ اس نصرانی کے پاس چلو تاکہ وہ اپنے کھیتوں میں جائے۔ اگر وہ دیکھے کہ کام اسی طرح ٹھیک ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا حق دینا تم پر لازم ہوتا ہے تو ہمارا حق دے دینا اور اگر اس میں خرابی ہو تو ہمیں ہمارا حق نہ دینا اور اگر ہم پر تاوان لازم ہو گا تو ہم تاوان بھی دیں گے۔

بوڑھے نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام لے کر ہمارے ساتھ چلو۔ ہم نصرانی کے پاس پہنچے، وہ اپنے گھر سے نکلا تو سوکڑن نے کہا: یہ بوڑھے سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا کام مکمل کر چکے ہیں اور انہوں نے اچھی طرح فصل کی کٹائی کر دی ہے اور مناسب طریقے سے اس کے بنڈل بنا دیئے ہیں۔ یہ سن کر نصرانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی مٹھی میں خاک لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اس نے ایک مٹھی مٹی لے کر سر پر ڈالی اور اپنی داڑھی نوپتے ہوئے اس بوڑھے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا: تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے اس سے فرمایا: اے نصرانی! ایسے نہ کر، ہمارے ساتھ چل اور ملامت اور بُرا بھلا کہنے میں جلدی نہ کر، اگر تو اسے اپنی پسند کے مطابق پائے تو ہمارا حق دے ورنہ تجھے اپنے معاملے کا اختیار ہے۔ آپ کی گفتگو سن کر وہ اور زیادہ رونے اور اپنی داڑھی نوپنے لگا اور بیٹھ کر کہنے لگا: یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو برباد کر دیا۔ اسی دوران اس بستی کا ایک شخص وہاں سے گزرا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے فرمایا: اس شخص کو میری طرف سے ایک درہم دے کر تقشیر کروالو، یہ کھیت میں جا کر دیکھ آئے گا کیونکہ مجھے یہ کسان لگ رہا ہے، اگر یہ کٹائی میں خرابی یا اچھائی دیکھے گا تو تجھے آکر بتا دے گا۔ بوڑھے مؤؤڈن نے کہا: میرے خیال میں تم نے منصفانہ بات کی ہے ہمارے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نصرانی کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا، ہم سب لگے اور پہلے کھیت پر آئے تو دیکھا کہ فصل کو اچھی طرح کاٹا گیا اور بڑے ہی عمدہ بنڈل بنا کر ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ پھر ہم دوسری طرف والے کھیت میں داخل ہوئے تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ بوڑھا مؤؤڈن اور نصرانی دونوں حیران ہو گئے، نصرانی نے بوڑھے سے کہا: ان دونوں کو دینار دے دو اور میں انہیں ایک دینار اور دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے فرمایا: کیا تمہیں کچھ بُرا لگا؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ہمیں تمہاری اضافی رقم کی حاجت نہیں، ہمیں ایک ہی دینار دو۔ اس نے آپ کو دینار دے دیا۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے مجھ سے فرمایا: ابو سلیمان! یہ دینار رکھو اور جان لو کہ اب تم بیٹ المقدس میرے ساتھ نہیں جاؤ گے یا میں عنقلان لوٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ المقدس چلے جاؤ یا میں بیٹ المقدس جاتا ہوں اور تم عنقلان لوٹ جاؤ۔ یہ



سن کر میں رونے لگا اور کہا: ابواسحاق! مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں، تم میرے سامنے بار بار دراہم کا ذکر کرتے رہے، یہ دینار لو اور اپنے گھر جاؤ، اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ میں دینار لے کر عسقلان لوٹ آیا اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیْتُہِ الْمُقَدَّسِ کی طرف روانہ ہو گئے۔

### پورا رمضان نہ سوئے:

﴿11117﴾... حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت فصل کی کٹائی کرتے اور رات میں نمازیں ادا کرتے تھے، آپ نے 30 دن یوں گزارے کہ نہ رات کو سوئے نہ دن کو۔

### ہر رات لیلة القدر:

﴿11118﴾... حضرت سیدنا ابویوسف یعقوب بن مَعْنِیَہ عَسُوْلُی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے ساتھ کھیتی کاٹنے میں مشغول تھے، کسی نے آپ سے کہا: ابواسحاق! اگر آپ ہمیں شہر لے چلیں اور ہم آخری دس روزے وہاں رکھیں تو ہو سکتا ہے ہم لیلة القدر پالیں؟ آپ نے فرمایا: یہیں رہو اور اچھی طرح کام کرو تمہارے لئے ہر رات لیلة القدر ہے۔

### دُگنا کام، آدھی اجرت:

﴿11119﴾... حضرت سیدنا خُلف بن نَعِیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ سے پوچھا: آپ یہاں سرزمین شام میں کتنے عرصے سے ہیں؟ فرمایا: 24 سال سے ہوں، ایک مرتبہ مجھے کھیت کی کٹائی کرنے والے عربی جوانوں کی طرف بھیجا گیا، وہ اپنے خیمے لگائے بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے: نو جوان! آؤ، ہمارے ساتھ فصل کاٹو۔ میں ان کے ساتھ فصل کاٹنے لگ گیا، وہ لوگ مجھے کٹائی کی اجرت اتنی دیا کرتے جتنی وہ اپنے کسی ماہر شخص کو دیتے تھے، میں نے دل میں سوچا: یہ ٹھیک نہیں کہ یہ ماہر لوگ مجھے گنجائش دیں جبکہ میں اچھی طرح کٹائی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں ان سے الگ ہو جاتا جتنی کہ جب وہ اپنے بستروں پر جا کر سو جاتے تو میں درانتی لے کر فصل کی کٹائی کرتا اور صبح ہوتی تو میں مناسب کٹائی کر چکا ہوتا، میں انہیں

آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتا، وہ کہہ رہے ہوتے: کیا یہ کھیتی کل کھڑی نہ تھی؟ اسے کس نے کاٹ دیا؟ ان میں سے کچھ نے کہا: ہم نے اسے رات کے وقت فصل کاٹنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے انہیں یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ ہم اتنے کام کی طاقت نہیں رکھتے یہ تو دن، رات کٹائی کرتا ہے جبکہ اجرت ایک آدمی کے برابر ہی لیتا ہے۔ ﴿11120﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرؒ کے رفیق حضرت سیدنا ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم غرہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرؒ کے ساتھ فصلوں کی کٹائی کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: ہارون! چلو اس جگہ سے دور چلے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک چھوٹا لشکر افریقہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا: آپ کو اس لشکر سے کیا خوف ہے؟ فرمایا: انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہم سے قریب ہے اور ہم اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتے کہ ان میں سے کوئی ہمارے پاس آکر یہ پوچھے: ”ہم فلاں جگہ کس طرح پہنچیں؟“ کیا ہم اس کی رہنمائی کریں گے؟ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم دور رہیں، ہم انہیں دیکھیں نہ وہ ہمیں۔

### ظالموں کو راستہ نہ بتایا:

﴿11121﴾... حضرت سیدنا علی بن بکار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلسطین میں اجرت پر کام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ آپاشی کر رہے تھے کہ ایک لشکر مصر کو جاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے ڈول کی رسی کاٹ کر اسے کنویں میں ڈال دیا تاکہ ان لوگوں کو پانی نہ پلا سکیں، وہ لوگ آپ کے سر پر چوٹیں مارتے ہوئے راستے کے بارے میں پوچھتے رہے مگر آپ ان کے سامنے گونگے بن گئے تاکہ انہیں راستہ نہ بتانا پڑے۔ حضرت سیدنا علی بن بکار علیہ رحمۃ اللہ الفقار فرماتے ہیں: یہ درخ و پرہیز گاری نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس۔

﴿11122﴾... حضرت سیدنا احمد بن داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نامی ایک شخص حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرؒ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ انگور کے باغ کی گمرانی کر رہے تھے، یزید بولا: ہمیں ان انگوروں میں سے کچھ دو۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کے مالک نے اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر اس نے اپنے چابک کو پلٹا مارا اور آپ کے سفید بالوں سے پکڑ کر آپ کے سر کو جھنجھوڑنے لگا تو آپ نے اپنا سر جھکا کر

فرمایا: مارو اس سر پر جو لمبے عرصے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نافرمان ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بے بس ہو گیا۔

### شجاعت و بہادری:

﴿11123﴾... حضرت سیدنا اشعث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے کسی ساتھی نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ نے جب دشمنوں کو دیکھا تو دریائیں کود گئے اور ان کی جانب تیرنے لگے، آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔

### اعلیٰ درجے کی احتیاط:

﴿11124﴾... حضرت سیدنا بقیع رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کے ایک ساتھی سے پوچھا: مجھے بتاؤ کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِہ کی صحبت میں رہتے وقت تم پر سب سے زیادہ سخت معاملہ کون سا گزرا؟ اس نے کہا: ایک دن ہم روزے کی حالت میں تھے مگر ہمارے پاس انتظار کے لئے کوئی چیز نہیں تھی، میں نے ان سے عرض کی: ابواسحاق! آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم باب زستین پر جائیں اور وہاں فصل کاٹنے والوں کے ساتھ مزدوری کریں؟ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ لہذا ہم باب زستین گئے تو ایک شخص نے آکر مجھے ایک درہم اجرت پر مزدور رکھ لیا، میں نے اس سے کہا: میرے ساتھی کو بھی مزدوری پر رکھ لو۔ اس نے کہا: تمہارا ساتھی کمزور ہے، میں اسے مزدوری پر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اس سے اصرار کرتا رہا بالآخر اس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو چار دانق مزدوری پر رکھ لیا، ہم روزے سے تھے، جب شام ہوئی تو میں اس شخص سے مزدوری لے کر بازار گیا اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر باقی رقم صدقہ کر دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ہم نے اپنی اجرت تو پوری لے لی، کاش! مجھے معلوم ہو جائے کہ ہم نے اپنا کام بھی مکمل کیا ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات پر غصہ آگیا، جب آپ نے مجھے غصے میں دیکھا تو فرمایا: غصہ مت کرو، تم مجھے ضمانت دے دو کہ ہم نے اس کا کام پورا کیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو آپ سے کھانالے لیا اور وہ بھی صدقہ کر دیا۔ جب سے میں نے ان کی صحبت اختیار کی یہ بات مجھ پر سب سے زیادہ سخت گزری۔

### کوئی تمہیں فقیر نہ سمجھ لے:

﴿11125﴾... حضرت سیدنا ضرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا بیان ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

علیہ کے ساتھ شام کے ساحلی شہر صور میں آپ کی رہائش گاہ پر تھے، آپ فصل کی کٹائی کیا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابوالیاس سلیمان علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ دروازے پر اون کا بچہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ان سے فرمایا: سلیمان! اندر چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے گزرنے والا تمہیں فقیر سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے جائے۔

## وطن کی محبت:

﴿11126﴾... حضرت سیدنا بقیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کو فرماتے سنا: میں نے مسلسل عبادت کی تو میں نے اپنے لئے سب سے سخت نفس کی دطن جانے کی خواہش کو پایا۔  
 ﴿11127﴾... حضرت سیدنا مضام بن علی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے وطن چھوڑنے سے زیادہ سخت تکلیف کسی شے کے چھوڑنے میں نہ پائی۔  
 گزشتہ واسندہ پر افسوس نہیں:

﴿11128﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے اپنے نفس سے زیادہ سخت دنیا کا کوئی معاملہ نہیں جھیل سبھی وہ میرے خلاف ہوتا ہے اور سبھی میرے حق میں اور خدا کی قسم! میں نے اپنی خواہشات کے خلاف اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مدد مانگی تو اس نے میری مدد فرمائی اور میں نے بارگاہِ الہی میں نفس کے بُرے غلبے سے بچاؤ کا سوال کیا تو اس نے میرا سوال پورا کر دیا، پس خدا کی قسم! دنیا کا جو کچھ آگے آنے والا ہے اور جو کچھ پیچھے گزر چکا مجھے کسی پر کچھ افسوس نہیں۔

## آپ علیہ الرَحْمَةُ کی عاجزی:

﴿11129﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: میں نے ایک معاملے کے سوا کبھی اپنے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ میں نے پوچھا: ابواسحاق! وہ کون سا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا: میں کٹائی کرنے والوں میں اپنی مزدوری اچھی طرح ملے نہیں کر سکتا تھا لہذا وہ لوگ مجھے مزدوری پر رکھا کر میرے لیے اجرت لیتے تھے، بس میری طرف سے ان پر یہی بوجھ تھا۔

## مٹی کھا کر گزارہ کرنے والے:

﴿11130﴾... حضرت سیدنا سعید بن خزب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مکر مکر مہ آئے اور حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابوزاؤد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس ٹھہرے آپ کے پاس ہرنی کی کھال کا تھیلا تھا، آپ نے اسے کھونٹے پر لٹکایا اور طواف کے لئے چلے گئے، پھر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی حضرت سیدنا عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے گھر میں آئے تو پوچھا: یہ تھیلا کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا: آپ کے بھائی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: شاید اس میں ملک شام کا کوئی پھل ہو گا، آپ نے اسے اتار کر کھولا تو وہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، آپ نے وہ تھیلا باندھ کر واپس کھونٹے پر لٹکادیا اور چلے گئے، پھر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی آئے اور حضرت سیدنا عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے انہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے عمل کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا: میں ایک مہینے سے یہی کھا رہا ہوں۔

﴿11131-32﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ مکر مکر مہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا زاوراہ گم ہو گیا تو آپ نے پندرہ دن مٹی پھانک کر گزارہ کیا۔

﴿11133-34﴾... حضرت سیدنا ابو معاویہ اَسْوَد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی 20 دن تک مٹی کھاتے رہے پھر فرمایا: ابو معاویہ! اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میری ٹوہ میں پڑیں گے تو میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات تک یا پھر اس وقت تک مٹی کھا کر گزارہ کرتا جب تک میرے لئے حلال اس طرح واضح نہ ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے؟

﴿11135﴾... حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے مجھے بتایا کہ جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو چند دن تک ریت کو پانی میں بھگو کر کھاتے رہے۔

## عظیم الشان خیر خواہی:

﴿11136﴾... حضرت سیدنا کبیل بن ابراہیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے ساتھ تھا، آپ نے اپنا تمام زاوراہ مجھ پر خرچ کر دیا، پھر میں بیمار ہو گیا تو

مجھے کسی چیز کی خواہش ہوئی تو آپ نے اپنا گدھالے جا کر فروخت کر دیا اور میری پسند کی چیز خرید لائے، میں نے عرض کی: ابراہیم! گدھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: بھائی! میں نے اسے فروخت کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی: میرے بھائی! ہم کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: میرے بھائی! میری گردن پر۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ ما انھیں اپنی گردن پر اٹھا کر تین منزل تک لے کر گئے۔

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے فرمایا: ان علمائے کرام میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ سے افضل کوئی نہیں کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔

## لوگوں کی مدد کا جذبہ:

﴿11137﴾... حضرت سیدنا احمد بن فضل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ کے والد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے قیساریہ میں باغبانی کی شنگی اجرت میں دینار حاصل کیا پھر آپ کو ایک عورت کی چٹھائی دی تو دریافت فرمایا: اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ڈپنگی کے درد میں مبتلا ہے۔ آپ نے پوچھا: اس حالت میں اسے کن چیزوں کی حاجت ہے؟ وہ بولے: اس کے لئے آٹا، زیتون، گوشت اور شہد خریداجاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا دینار اس طرح خرچ کیا کہ ایک نوکری خرید کر اسے آٹے سے بھرا پھر زیتون، گھی، شہد اور گوشت خرید اور یہ تمام سامان اپنی گردن پر اٹھا کر اس کے دروازے تک لائے اور اُس کے گھر والوں سے کہا: یہ لے لو۔ جب آپ نے اُن گھر والوں کو دیکھا تو اُنکی قیساریہ میں سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ عبادت گزار پایا۔

## ادھار لے کر مدد فرمائی:

﴿11138﴾... حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ کے پاس تھے کہ ایک مزدور وہاں سے گزرا تو آپ نے فرمایا: کیا یہ فلاں نہیں ہے؟ کسی نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اس کے پاس جا کر کہو: ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ نے پوچھا ہے کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا: خدا کی قسم! ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری بیوی نے بچہ جنا ہے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے پس میں پاگل کی سی کیفیت میں گھر سے نکلا ہوں۔ اس شخص نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَعْلَیْہِ کو جا کر ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا: اِنَّا لِلّٰہِ وَ

إِنَّا إِنَّمَا دَجُّنُونُ ہم اپنے ساتھی کے معاملے سے کیسے بے خبر رہ گئے اور اسے یہ پریشانی لاحق ہو گئی؟ پھر فرمایا: اے فلاں! جا کر باغ کے مالک سے دو دینار ادھار لے لو اور بازار جا کر ایک دینار سے وہ چیزیں خریدو جن سے اس کے حالات بہتر ہو جائیں اور دوسرا دینار اسے دے دینا۔ راوی کہتے ہیں: میں بازار گیا، ایک دینار سے تمام اشیائے ضرورت خریدیں پھر انہیں لا کر اس شخص کے گھر چلا گیا، جب اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے پوچھا: کون ہے؟ تو میں نے کہا: میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا: دروازہ کھولنے کی اجازت دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر میں نے دروازہ کھولا اور اونٹ پر لد اتمام سامان گھر میں لے جا کر صحن میں رکھ دیا اور دینار اس عورت کو دے دیا۔ اس نے کہا: یہ سب کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا: اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ تمہارے بھائی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم نے دیا ہے اس عورت نے کہا: اے اللہ! حضرت ابراہیم بن ادہم کو آج کے دن کی خاص جزا عطا فرما۔

### اپنی حقیقت چھپانے کا اہتمام:

﴿11139﴾... حضرت سیدنا علی بن بکار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ ہم مَصِیصَہ شہر کی جامع مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے درمیان حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم بھی موجود تھے اتنے میں خراسان سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا: تم میں سے ابراہیم بن ادہم کون ہیں؟ لوگوں نے کہا: یہ ہیں (یا شاید آپ نے خود فرمایا: میں ہوں۔) اس نے کہا: آپ کے بھائیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کا سنا تو کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف کولے گئے اور پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: انہوں نے مجھ غلام سمیت گھوڑا، خیر اور 10 ہزار درہم آپ کے لئے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو آزاد ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب تمہارا ہے، جاؤ اور کسی کو مت بتانا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔

حضرت سیدنا علی بن بکار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم جب غلہ میٹے تو ایک پاؤں پھیلا کر اور دوسرا سمیٹ کر بیٹھے اور پھیلائے ہوئے پاؤں کو نہ ہی سمیٹے اور نہ ہی میٹے ہوئے کو پھیلاتے تھے حتیٰ کہ دو غلہ میٹے لیتے۔ دو غلہ سے فارغ ہو کر سمیٹے ہوئے پاؤں کو پھیلاتے اور پھیلائے ہوئے کو سمیٹ لیتے اور پھر دو غلہ مزید میٹے۔

## دنیا سے بے رغبتی:

﴿11140﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ بن حازم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کھیت کی کٹائی کر رہے تھے آپ نے کچھ ہی فصل کاٹی تھی کہ دو شخص آپ کے پاس آکر کھڑے ہوئے، ان دونوں کے پاس کچھ سامان، نرم بستر اور زادِ راہ تھا، ان دونوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا: کیا آپ ابراہیم بن ادہم ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ وہ بولے: ہم دونوں آپ کے والد کے غلام ہیں اور ہمارے پاس مال اور بستر ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اگر تم سچے ہو تو آزاد ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔

## تحفے کے بدلے تحفہ:

﴿11141﴾... حضرت سیدنا عیسیٰ بن حازم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ عسقلان میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے ازہر نامی بھائی رہتے تھے، انہوں نے لوگوں سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ ساحل سمندر پر واقع ایک پناہ گاہ میں ہیں اور بیمار ہیں، ازہر نے اپنی چادر اپنی گردن پر ڈالی، پھر ساحل سمندر پر چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کو بیماری کی حالت میں صرف ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے پایا تو کہا: ابو اسحاق! میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چادر لے لیں اور آدھی اپنے نیچے بچھا لیں اور آدھی اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا: میں یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا: اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ آپ کی اس حالت نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم غمگین ہو گئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے اسے رکھ دو۔ ازہر کا بیان ہے کہ میں چادر رکھ کر اس ڈر سے چلا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اور بات نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد آپ آئے، آپ نے میری چادر کو اٹھایا اور اس کے نیچے کوئی چیز رکھ کر چلے گئے، جب میں نے اپنی چادر اٹھائی تو اس کے نیچے بالکل نئی چپلوں پر لپٹا ہوا روٹی کا نیا عمامہ تھا پھر میں چل پڑا یہاں تک کہ شہر سے باہر آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا: میں نے لوگوں کا یہ معمول دیکھا ہے کہ وہ کچھ لیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں جو چیز تمہارے پاس ہے اسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں واپس آ گیا۔

﴿11142﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی محمد نے مجھے



بتایا کہ حضرت سیدنا داود رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بِغیرِ زین والے بار بار رنجی گھوڑے پر ملہ شہر میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا: آپ کی زین کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: ابراہیم بن ادہم کی سخاوت اسے لے گئی۔

حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے فرمایا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو انجیر اور انگور سے بھرا تھاں تحفے میں دیا گیا تو بدلے میں آپ نے گھوڑے کی زین تھاں میں رکھ دی اور ایک بار ٹوکری میں روٹیاں رکھ کر تحفہ دیا گیا تو بدلے میں آپ نے تیر رکھنے کا تھیلا اتار کر ٹوکری میں رکھ دیا۔

﴿11143﴾... حضرت سیدنا محمد بن خلف عَسْقَلَانِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زَوَاد بن جَرَّاح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو ایک غزوہ میں گیا، میرے گھوڑے کی زین گم ہو گئی تو میں نے پوچھا: میری زین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے پاس تحفہ لایا گیا، اس کا بدلہ دینے کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے آپ کے گھوڑے کی زین لے کر اسے دے دی۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا زَوَاد بن جَرَّاح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اور آپ نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ میں اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی ایک لحاف میں ہیں اور آپ نے مجھے اس لحاف میں ڈھانپ لیا ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ یہ تہبند آپ پہن لیں۔ میں نے تہبند لے لیا اور مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔

﴿11144﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے مروان سے کہا: مجھے حضرت سیدنا مضاء بن عِیْسٰی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو بلند مرتبہ سچائی اور سخاوت کے ذریعے ہی ملا ہے۔ مروان نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی بہت زبردست سختی تھے۔

جذبۂ ایثار و خدمتِ خلق:

﴿11145﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم

بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے ساتھی حضرت سیدنا ابو ولید علیہ رحمۃ اللہ النجید یا کسی اور سے سنا کہ جب تھیلے میں کچھ آٹا رہ جاتا تو آپ وہ تھیلہ اپنے ساتھیوں کے لئے چھوڑ دیتے اور دیوار کے بنانے میں مشغول ہو جاتے۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے اتنا معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ولید علیہ رحمۃ اللہ النجید نے فرمایا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے ساتھیوں نے کہا: آدم برتن میں موجود ساری روٹیاں کھا لیتے ہیں تاکہ جب ابراہیم بن ادم (علیہ رحمۃ اللہ الاکرم) آئیں اور انہیں کچھ نہ ملے تو اگلی رات جلدی آجائیں، یعنی روٹیاں ختم ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کے بعد دیر سے آیا کرتے تھے۔ لہذا ان لوگوں نے برتن میں موجود تمام روٹیاں کھائیں اور چراغ بجھا کر سو گئے جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے آکر خالی برتن دیکھا تو فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ وَاِنَّ اللّٰهَ دَجُّعُوْنَ یہ لوگ بغیر کھائے سو گئے؟ چنانچہ آپ نے پتھر رگڑ کر چراغ روشن کیا اور آٹا گندہ کر ان کے لئے ٹوکری بھر کر روٹیاں بنائیں پھر انہیں جگاتے ہوئے کہنے لگے: اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ! کیا تم رات کو سونے سے پہلے رات کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے؟ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے: دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنے کا سوچا تھا اور انہوں نے کیا کر دکھایا؟

﴿11146﴾... حضرت سیدنا ابو ولید علیہ رحمۃ اللہ النجید کا بیان ہے کہ بسا اوقات حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم بیٹھ جاتے اور ہمیں کھلانے کے لیے صبح سے شام تک چلوغوزے چھیلتے رہتے تھے۔ آپ اور آپ کا ایک ساتھی غلہ پیستے تھے اور چکی میں لگی لکڑی میں ایک گانٹھ تھی تو آپ اس گانٹھ والی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور اپنے ساتھی کے لئے ہموار جگہ چھوڑ دیتے تھے، پیستے وقت اپنا ایک پاؤں پھیلا دیتے اور جب تک ٹیس نہ لیتے اس پاؤں کو نہ سمیٹتے۔

### لذیذ کھانا نہ کھایا:

﴿11147﴾... حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ فرما رہے تھے کہ میرے بھائی نے ستو اور کھجور سے بھرا تھیلہ اور بھنا ہوا گوشت دے کر مجھے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی طرف بھیجا جو چراہ گاہ میں گھوڑے چرا رہے تھے۔ اور کہا: یہ ابراہیم بن ادم (علیہ رحمۃ اللہ الاکرم) کو دے دینا اور انہیں میرا سلام کہنا۔ لہذا میں نماز عصر کے بعد آپ کے پاس گیا اس وقت آپ جنگل میں تھے، میں نے وہاں اپنے گھوڑے کو دیکھا اور بیٹھ گیا، جب سورج زرد ہوا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم باہر آئے، آپ کے

کاندھوں پر عبا تھی اور آپ صوف کا جبہ زیب تن کیے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، ساتھیوں نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لئے ایک مٹھی جو اور عجوبہ کھجور کو پکا کر ان سے تین نکلیاں تیار کی ہوئی تھیں۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور اپنے بھائی کا سلام بھی پہنچایا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: انہیں ان کے بھائی کا گھوڑا دکھاؤ کہ یہ خوش ہو جائیں۔ میں نے کہا: میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ پھر میں نے ان کے سامنے تھیلار کھتے ہوئے کہا: میرے بھائی نے آپ کے لئے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: یہ کب سے آئیں ہیں؟ انہوں نے کہا: عصر کے بعد۔ آپ نے فرمایا: تو تم نے اسے کھا کیوں نہیں لیا؟ پھر فرمایا: چادر بچھاؤ۔ چادر بچھ جانے کے بعد آپ نے تھیلار اس پر الٹ دیا اور فرمانے لگے: فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ پھر ان سے فرمایا: کھاؤ۔ اور خود کھڑے ہو کر انہیں بار بار کھانے کو کہتے رہے۔ میں نے ان کے ساتھیوں سے کہا: میرے بھائی نے یہ تحفہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم کے کھانے کے لئے بھیجا تھا اور تم نے ان کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ بولے: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم ہلکے کوٹے ہوئے نمک کے ہمراہ فقط جو کی تین نکلیاں کھاتے ہیں پھر ہمیں نمازِ عشا پڑھا کر صبح تک رکوع و سجود اور فکرِ آخرت میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں فجر کی نماز بھی عشا کے وضو سے پڑھاتے ہیں۔

### خیر خواہی اور خودداری:

﴿1148﴾... حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ النکینہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم کے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم نے سمندری جہاد کیا تو آپ کو مالِ غنیمت سے اپنے حصے کے تین دینار ملے، آپ نے دینار لانے والے شخص سے کہا: انہیں اس چٹائی پر رکھ دو۔ اس نے رکھ دیئے تو مجھ سے فرمایا: یہ دینار لے جاؤ اور ابو محمد خیاط کو دے دو اور ان سے کہنا کہ میں نے آپ کو اپنے اوپر قرض کا تذکرہ کرتے سنا تھا ان دیناروں سے اپنا قرض ادا کر دو۔ میں وہ دینار لے کر گیا اور ان سے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم نے مجھے یہ دینار دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان سے اپنا قرض ادا کر دیں۔ حضرت سیدنا ابو محمد خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: یہ دینار انہیں واپس کر دینا کیونکہ مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ ان کے کپڑوں میں پانی جانے والی جوئیں انہیں کھا گئی ہیں، کیا میں ایسے

دینار لے لوں جو میرے پاس باقی نہیں رہیں گے؟ میں وہ دینار لے کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہا: انہوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: انہیں چٹائی پر رکھ دو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا: ابو اسحاق! میں بال بچوں والا ہوں۔ یا کہا: مجھے ان کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا: وہاں سے اٹھاؤ۔ لہذا وہ دینار اس بوڑھے نے لے لئے۔

﴿11149﴾... حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ الثانی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ مر عیش جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، میں نے اپنا زور اہان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے گمان نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ یہ کرو گے اگر یہ کام تمہارے علاوہ بھی کوئی کرتا تو تمہیں چاہئے تھا کہ تم مجھے اس سے روکتے۔ پھر آپ نے اپنا دراز آستین والا جبہ اور جسم پر موجود قمیص اتاری پھر جبہ پہن کر قمیص مجھے دے دی اور فرمایا: یہ فلاں کو پہنچا دینا کیونکہ وہ ہم سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔

**رقم گم ہو جانے پر شکر:**

﴿11150﴾... حضرت سیدنا عطاء بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ کے ساتھی کا بیان ہے: ہم ایک پہاڑ کی طرف گئے تو ہمیں ان لوگوں نے مزدوری پر رکھ لیا جو لکڑی کاٹ کر اُس سے پیالے اور تیر بنا تے تھے۔ پس ہم سلمان اٹھا کر سُلَیْمَہ کے بازار لے آئے پھر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ بستی میں چلے گئے اور میں نے سلمان اٹھایا اور اسے 30 دینار میں فروخت کر دیا، وہ دینار میری آستین سے کہیں گر گئے پھر عُبَیْدُ اللہ بن صالح کی زوجہ اسماء کا غلام مجھے ملا تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولا: یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے پوری بات بتائی تو وہ گیا اور 200 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاخرہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: بستی میں۔ وہ بولا: ان کے پاس چلو۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ کا سر سائے میں تھا اور پاؤں دھوپ میں۔ میں نے کہا: دینار گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَالَفَنَا مِنْہَا یعنی اللہ عزوجل کا شکر ہے جس نے ہمیں ان دیناروں سے عافیت عطا فرمائی۔ پھر غلام نے عرض کی: یہ 200 دینار اسماء خاتون نے آپ کے لئے بھیجے ہیں۔ آپ نے اسے ڈانٹا اور سر اٹھا کر فرمایا: خدا کی قسم! ان دیناروں کا کھو جانا مجھ پر اللہ عزوجل کی نعمت ہے۔

## طویل سفر کے باوجود پاؤں کو آرام نہ دیا:

﴿11151﴾... حضرت سیدنا ابو ولید علیہ رحمۃ اللہ انجند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثر م کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی، میرے پاس دو گھوڑے تھے جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثر م پیدل تھے، میں نے آپ کو سوار کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، میں نے قسم کھائی تو آپ سوار ہو کر زمین پر بیٹھ گئے پھر یہ کہتے ہوئے اتر گئے کہ میں نے تمہاری قسم پوری کر دی ہے۔ پھر ہم اس لشکر میں 36 میل تک چلے اور آپ پیدل ہی چلتے رہے، جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو آپ سمندر پر گئے اور اپنے پاؤں جھگو کر آئے پھر چرت لیئے اور اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر دیوار سے لٹکادیئے۔ یہ سخت ترین عمل تھا جو میں نے آپ کو کرتے دیکھا۔

## برف باری میں نفس کو سزا:

﴿11152﴾... حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری علیہ رحمۃ اللہ انباری فرماتے ہیں: ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثر م اور آپ کے ساتھی روم کی سر زمین میں تھے، وہاں برف باری ہوئی تو آپ کے ساتھی خیموں میں چلے گئے جبکہ آپ باہر ہی رہے، ساتھیوں نے آپ کو اندر بلانا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا، آپ نے اپنا سر اپنے اوپر موجود بالوں والے چڑے میں کر لیا، جب بھی برف باری تیز ہوتی آپ اسے اُتار دیتے، جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو آپ کے ساتھی خیموں سے نکل آئے اور کہنے لگے: ابو اسحاق! یہ کیسی رات ہم پر گزری ہے؟ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ ایسی رات میں مبتلا نہ فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثر م نے فرمایا: بھلا اس جیسی رات اب کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟

## ایک رات میں 50 بیگمہ زمین کی کٹائی:

﴿11153﴾... حضرت سیدنا ابو قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت سیدنا ابو عثمان غری، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط اور حضرت سیدنا خذیفہ غرضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس چند روز قیام کیا اور فرمایا: ہمارے لئے کوئی کھیت دیکھو جس کی ہم کٹائی کریں۔ میں جاگیر دار کے پاس گیا اور اُس سے ان کے لئے 50 بیگمہ زمین کی کٹائی 50 درہم کے عوض قبول کی پھر میں ان سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ

گیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ ہی رات گزاروں مگر انہوں نے مجھے منع کر دیا، میں انہیں سمیٹوں میں چھوڑ کر لوٹ آیا، اگلی صبح جب میں ان کے پاس گیا تو تمام کھیت کی کٹائی ہو چکی تھی اور وہاں ایک بالی بھی کھڑی نہیں تھی، جاگیر دار آیا تو اس نے کہا: تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کیا تم ایک اور کھیت کی کٹائی کرو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر ان بزرگوں نے مجھے 40 درہم دیئے اور خود 10 درہم رکھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک بالی بھی اپنے ہاتھ سے کاٹی ہو۔

### شاہوں کو نہ ملا ہمیں مل گیا:

﴿11154﴾... حضرت سیدنا سالم خواص رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں بارش والے دن انطاکیہ میں ایک سڑک کے کنارے جا رہا تھا کہ وہاں مجھے ایک شخص سوتا ہوا نظر آیا، جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تھے جو ایک چوغے میں تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے: ابو محمد! بادشاہوں نے ایک چیز طلب کی مگر وہ انہیں نہ ملی جبکہ ہم نے اسے مانگا تو پالیا اور وہ یہ (یعنی راحت) ہے جسے میری اس چادر کی حد دے گھیر رکھا ہے۔

### تارک دنیا کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ:

﴿11155﴾... حضرت سیدنا خلف بن تمیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ایک شخص میرے پاس کچھ دینار لاکر کہتا ہے: یہ لے لو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی گھوڑے پر زین رکھ کر اسے لگام لگا کر میرے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے: میں آپ کو اس پر سوار کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اور کوئی شخص جسے میں جانتا ہوں کہ وہ قریشی یا عری ہے وہ مجھ سے آکر کہتا ہے: مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ میں ان کی دنیا میں ان سے مقابلہ نہیں کرتا تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے گویا میں زمین کا کوئی چوپایا ہوں یا ان کے پاس کوئی نشانی ہوں اور اگر میں ان سے کچھ لے لیتا تو وہ ضرور مجھے ناپسند جانتے اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ان فضولیات کو چھوڑنے پر تعریف نہیں کرتے۔ پس ان زمانے والوں کے نزدیک دنیا سے کچھ چھوڑنے والا ایسا ہو گیا ہے گویا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔

## زہد سے بھرپور جہاد:

﴿11156﴾... حضرت سیدنا احمد بن یحیٰی علیہ رحمۃ اللہ الفقار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی نے ہمارے ساتھ دو جنگوں میں شرکت کی، ہر ایک دوسرے سے زیادہ سخت تھی۔ (۱)... جنگ عباس انطاکی اور (۲)... جنگ میکانف۔ لیکن دونوں جنگوں میں آپ نے اپنا حصہ لیانہ مال غنیمت، آپ رومیوں کے مال سے کچھ نہ کھاتے تھے، ہم عمدہ چیزیں، شہد اور مرغیاں لاتے مگر آپ کچھ نہ کھاتے اور فرماتے: یہ حلال ہے لیکن میں اس سے دور رہتا ہوں، آپ اپنے زادراہ سے ہی کھاتے اور روزے سے رہتے تھے۔ آپ نے ایک غیر عربی گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کیا جس کی قیمت ایک دینار ہوگی، آپ نے اپنے گدھے کے بدلے وہ گھوڑا لیا تھا، اگر تم انہیں سونے یا چاندی کا گھوڑا بھی دیتے تو وہ ہرگز نہ لیتے بلکہ پانی کا گھونٹ بھی قبول نہ کرتے۔ یوں ہی آپ نے دو سمندری جنگیں لڑیں مگر نہ ہی اپنا حصہ لیا اور نہ ہی تنخواہ لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: عازری کو اسی صفت پر ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی علیہ رحمۃ اللہ النیل نے کہا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی کا وصال موسم گرما میں دوران سفر پیٹ کی بیماری کے سبب ہوا۔

﴿11157﴾... حضرت سیدنا اشعث بن شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں گئے، ہمارے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی بھی تھے، ہمیں اور ہمارے جانوروں کو بھوک نے ستایا تو مَصِیصہ والوں کو یہ خبر ملی، انہوں نے اشیائے خورد و نوش سے لدے خیر راستے پر بھیج دیئے، میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی کو فرماتے سنا کہ ”کون ایسا تکلیف زدہ ہے جس نے لوگوں کو ہمارے حال کی اطلاع دی“ گویا آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم مصیصہ میں داخل ہونے تک اسی حالت میں رہیں، جب لشکر داخل ہوا تو آپ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے اور مصیصہ نہیں گئے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ انباری نے مجھ سے فرمایا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی کو تلاش کرو۔ میں نے انہیں تلاش کیا مگر وہ جا چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ انباری نے مجھے کچھ زادراہ دے کر فرمایا: جاؤ یہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی کو دے دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الانخزمی سے میری ملاقات انطاکیہ میں ہوئی، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا: تم آگئے؟ میں نے کہا: جی ہاں، ابو اسحاق نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہتے

ہوئے میں نے زادِ راہ ان کو دیا تو انہوں نے لے لیا، جب میں لوٹنے لگا تو انہوں نے مجھے ایک تہبند دیتے ہوئے فرمایا: یہ ابو اسحاق کو دے دینا۔ میں نے کہا: آپ نے مصیہ میں قیام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: میں کس کے پاس ٹھہرتا؟ پھر آپ نے مصیہ والوں کا ذکر کیا حتیٰ کہ حضرت سیدنا شریک بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ کا ذکر کیا تو فرمایا: اگر پانچ درہم راستے میں تقسیم کئے جائیں تو شریک آکر اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔

**کمزوروں اور فقرا سے اچھا سلوک کرو:**

﴿11158﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ہشام عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: سخاوت، جو دو کرم، بھائی چارہ اور باہمی محبت سب جا چکا ہے۔ جو شخص لوگوں کو اپنا مال اور کھانا پینا نہ دے سکے اسے چاہئے کہ ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیش آئے۔ کثرت مال کے سبب ایسے نہ ہو جانا کہ اپنے فقرا کے سامنے تکبر کرو، اپنے کمزوروں کی طرف مائل ہی نہ ہو اور اپنے مسکینوں کے ساتھ کشادگی نہ کرو۔

ایک مرتبہ فرمایا: حضرت سیدنا القمان حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: تین چیزوں کا پتا تین موقعوں پر ہی لگتا ہے: (۱)۔ بروہاری کا غصے کے وقت (۲)۔ بہادری کا جنگ میں دشمن سے مدد بھیڑ کے وقت اور (۳)۔ بھائی چارے کا ضرورت کے وقت۔

﴿11159﴾... حضرت سیدنا ابو عثمان عَیْیَا عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ کو دعوت دی، دعوت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حضرت سیدنا مَخْدُوم بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ بھی شریک تھے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ تھوڑا تھوڑا کھانے لگے، جب سب لوگ چلے گئے تو دعوت دینے والا آپ کے گھر آیا، اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے شریک کھا رہے ہیں، اس نے کہا: ابو اسحاق! آپ کھانا کم کیوں کھا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: تم نے تو کھانا تیار کیا مگر وہاں تھوڑے باتھ زیادہ ہو گئے تھے۔

**دعوت میں احتیاط و دانشمندی:**

﴿11160﴾... حضرت سیدنا علی بن بکّار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ اَوَّلٰہِ وَاٰخِرِہِ وَسَلَّمَ



اللہ الاکبر نے مجھے، حضرت سیدنا محمد ﷺ اور کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، میں اسے ان کی دانشمندی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ ہمیں دن کے وقت یا عشاء کے بعد بلائیں لہذا آپ نے ہمیں نماز مغرب کے بعد ہی بلا لیا تاکہ ہم اپنی نماز سے غافل نہ ہوں، دعوت میں آپ نے ہمارے سامنے دو پیالے رکھے جن میں موٹی موٹی بونیاں تھیں۔ اس دوران آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں پانی پلاتے رہے پھر آپ نے ہمارے سامنے تریوز رکھا۔

حضرت سیدنا علی بن بکّار بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: یہ دعوت بکر بن خنیس کے گھر میں ہوئی، میں پوری دنیا مل جانے سے زیادہ اس دعوت سے خوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ عزّوجلّ مجھے اس کھانے کی بدولت جنت میں داخل فرمائے گا۔

﴿11161﴾... شعیب بن واقد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اذن سے حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التیادی کو کہلوایا: ”ہم سے مل کر زاوراہ ساتھ لے جاؤ۔“

### دعوت میں کم کھایا:

﴿11162﴾... حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ الکفریہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا اور انہیں سلام کر کے بیٹھ جاتا تھا لیکن آپ ہم سے گفتگو نہیں کرتے تھے، ایک دن مجھے اس بات کا ملال ہوا تو میں نے حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التیادی سے عرض کی: ابواسحاق! ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الکفریہ کے پاس آتے ہیں مگر یہ ہم سے گفتگو نہیں کرتے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں، آپ ہی انہیں کہہ دیجئے کہ میرے لیے کچھ کشادگی فرمائیں اور مجھ سے گفتگو کر لیا کریں۔ حضرت سیدنا ابواسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزّیّاق نے مجھ سے فرمایا: کیا تم ان کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: میں اور حضرت مَحَلْد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آداب اور اخلاق سیکھتے ہیں تم بھی ان کے پاس یہی سیکھنے جایا کرو۔ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الکفریہ کے پاس جا کر کہا: میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ اور ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التیادی میرے پاس روزہ افطار کریں۔ جب میں نے حضرت سیدنا ابواسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزّیّاق کا ذکر کیا تو آپ مجھ سے

خوش ہوئے اور فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر میں نے حضرت سیدنا ابواسحاق علیہ رحمۃ اللہ الزقاق کے پاس جا کر کہا: میں نے آج رات حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہم کو اپنے ہاں آپ کے ساتھ افطار کی دعوت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نمازِ مغرب کی ادائیگی کے بعد انہیں ہاتھ سے پکڑ کر میرے گھر لے آئیں۔ آپ نے حامی بھری۔ میں نے جا کر مزید 10 کے قریب دوستوں کو دعوت دے دی جن میں شعیب بن واقد بھی تھے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما تشریف لے آئے تو میں نے ان کے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھا جس میں شریہ اور تھوڑا تھوڑا گوشت لگی ہڈیاں تھیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہم تھوڑا تھوڑا لے کر یہ ظاہر کرنے لگے گویا آپ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے ان کا ایسا کرنا اچھا نہیں لگا، جب پیالہ اٹھالیا گیا تو میں نے غلام سے کہا: وہ طباق لاؤ جس میں کشمش، انجیر اور چھوہارے ہیں۔ میں نے وہ تھال رکھا مزید کوئی کھانا پیش نہیں کیا، چنانچہ سب کھانا کھا کر چلے گئے تو چند دن بعد شعیب بن واقد نے مجھ سے کہا: کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہم تنہا بکر بن حنینس کے گھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، برتن میں بچا کچا سرکہ اور روغن زیتون تھا، آپ آگے بڑھ کر دو زانو بیٹھے اور برتن اٹھا کر نوش فرمایا تو میں نے کہا: آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص نے آپ کو شریہ اور گوشت کی دعوت دی تو آپ نے تھوڑا کھایا اور اب یہاں آکر سرکہ و زیتون کھا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں: چند دن بعد جب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ بے تکلف اور مانوس ہو گیا تو میں نے کہا: مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ شعیب بن واقد نے مجھے بتایا ہے: اس رات آپ میرے یہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، وہ کھانا کھا چکے تھے پھر آپ نے وہ برتن اٹھایا جس میں سرکہ اور روغن زیتون بچا ہوا تھا تو آپ نے اسی کو نوش فرمایا جبکہ آپ نے میرے ہاں زیادہ نہیں کھایا؟ اس پر آپ نے فرمایا: تم اپنے بارے میں بتاؤ! جب تم نے اپنے ہاں لوگوں کو جمع کیا تھا تو کیا تم نے دو درہم کا تھوڑا سا گوشت نہیں خریدا تھا؟ اس وقت لوگوں کے لئے گوشت ختم ہو گیا تھا جبکہ اس دن 15 یا 20 رطل (5.905 کلوگرام یا 7.877 کلوگرام) گوشت کی قیمت ایک درہم تھی۔

حضرت سیدنا خلف بن تمیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں: میں نے یہ بات حضرت سیدنا ابوالاحوص اور حضرت

سیدنا عمار بن سیف رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہما کو بتائی پھر میرے گھر پر ان دونوں کی دعوت کا وقت طے ہوا گوشت اور شہید لایا گیا تو انہوں نے کھالیا پھر ایک بڑی کڑائی لائی گئی جس میں گھی اور شکر طے چاول تھے۔ جب حضرت سیدنا ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا: یہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ کا ادب ہے۔

## کھانے کے آداب:

﴿11163﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آدمی کی کم ظرفی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے قبل کھانے سے ہاتھ اٹھالے۔

﴿11164﴾... حضرت سیدنا ضمزمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے صور شہر میں اپنے ساتھیوں کی دعوت کی اور غلاد صیفی نامی شخص کو بھی بلایا۔ اس نے کھانا کھا کر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ نے فرمایا: اس نے دُورے کام کیے: (۱)... بغیر اجازت کھڑا ہوا اور (۲)... اپنے ساتھیوں کو شرمندہ کیا۔

﴿11165﴾... حضرت سیدنا مضاء بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ اپنے ساتھیوں پر روزے نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ صدق و سخاوت کی وجہ سے بلند تھے۔

## درس مساوات:

﴿11166﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن قدید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ کے پاس گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص اندر آیا اور بولا: ابراہیم! اِنِّیْ اَمَانِ اللہ۔ آپ نے فرمایا: کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا: فلاں ساحل پر۔ آپ نے فرمایا: ابن قدید کا تھپیلالو اور اس میں اپنا سامان رکھ لو۔ میں نے کہا: ابو اسحاق! یہ میرے ساتھی کا تھپیلالو ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم ایسے کی صحبت چاہو گے جو اس شخص سے زیادہ اپنی چیز کا حق دار نہیں۔

حضرت سیدنا ابراہیم بن قدید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایک دن میں آپ کے پاس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کو تحفے میں مٹھائی دی گئی، گھر میں ہم کافی لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابن قدید! اسے چھوڑ دو، میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا نہ تم کچھ کھانا، اسے ہمارے ساتھی کھالیں گے۔ چنانچہ ہمارے ساتھیوں نے

اسے کھایا اور ہم نے اسے چکھا بھی نہیں۔

## فضول نظری سے اجتناب:

﴿11167﴾... حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کے دوست حضرت سیدنا ابو یحییٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما فرماتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں ٹھہرے تو میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ سے گھر کی چھت کے متعلق سوال کیا: یہ کس چیز کی بنی ہے پتھر کی یا لکڑی کی؟ آپ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں نے اس کنیز کے بارے میں پوچھا جو ہماری خدمت پر مامور تھی کہ وہ کالی ہے یا گوری؟ آپ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم۔

## کرامت: جانوروں کا اطاعت کرنا

﴿11168﴾... حضرت سیدنا ابو محمد نصر بن منصور مَصْنُوعِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ نے فرمایا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ مَصْنُوعِیہ آئے اور حضرت سیدنا ابو اسحاق فراری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ کے گھر آکر انہیں بلایا تو بتایا گیا کہ وہ باہر ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب وہ آئیں تو کہنا کہ آپ کے بھائی ابراہیم نے آپ کو بلایا ہے، وہ فلاں چراگاہ میں اپنے گھوڑے کو چرانے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ اس چراگاہ کی طرف چل پڑے، وہاں لوگ اپنے جانور چرا رہے تھے، آپ بھی اپنا گھوڑا چرانے لگے حتیٰ کہ شام ہو گئی، لوگوں نے کہا: اپنے گھوڑے کو ہمارے چوپایوں کے ساتھ ملا دو کیونکہ یہاں درندے آتے ہیں۔ آپ نے انکار کیا اور ایک کونے میں ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے گرد آگ جلائی، پھر وہ اپنے بد کے ہوئے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آپ کے پاس لائے جسے دو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے: ہمارے جانوروں میں بچے جننے والی عجی گھوڑیاں یا دیگر گھوڑیاں ہیں، آپ اسے عاریۃ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا: ان بیڑیوں کا کیا کام؟ پھر آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو وہ سکون سے کھڑا ہو گیا، لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: جاؤ۔ وہ لوگ گھوڑے والے معاملے اور درندوں سے بے خوفی پر آپ کو کلنگی باندھ کر دیکھنے لگے اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے جبکہ وہ لوگ دیکھتے رہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو ایک ایک کر کے تین شیر آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک شیر نے آگے بڑھ کر آپ کو سونگھا پھر آپ کے گرد چکر لگانے کے بعد ایک طرف جا کر بیٹھ گیا،

دوسرے اور تیسرے شیر نے بھی پہلے شیر کی طرح کیا لیکن حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے شیروں سے فرمایا: یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے کھانا چاہتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ شیر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اگلے دن حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التباری نے ان لوگوں کے پاس آکر پوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی شخص آیا تھا؟ وہ بولے: ہمارے پاس ایک دیوانہ آیا تھا پھر انہوں نے پورا واقعہ سنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے ان سے فرمایا: جانتے ہو وہ کون ہیں؟ بولے: نہیں۔ فرمایا: وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ ہیں۔ پھر وہ لوگ حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التباری کے ہمراہ آپ کے پاس گئے اور سب لوگوں نے آپ کو سلام کیا، پھر حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری علیہ رحمۃ اللہ التباری انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک لگام فروش کے پاس سے گزرے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ نے اس سے لگام کے بارے میں پوچھ کر ایک درہم اور دو دانق (یعنی کل آٹھ دانق) میں سودا طے کیا اور حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا: ہمیں یہ لگام چاہیے۔ آپ نے لگام والے سے فرمایا: یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا: چار دانق کی۔ آپ نے اسے چار دانق دیئے اور لگام لے لی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ نے حضرت سیدنا ابواسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا: چار دانق کس کے حساب میں ہیں؟

### مال دار بھی فقیر:

﴿11169﴾... مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ دمشق میں ایک بلند جگہ بیٹھے تھے کہ ایک خچر سوار نے آپ کے پاس آکر کہا: ابواسحاق! مجھے آپ سے ایک کام ہے، میں چاہتا ہوں آپ وہ کام کر دیں۔ آپ نے فرمایا: ہو سکا تو کروں گا ورنہ اپنا غدر بیان کر دوں گا۔ اس نے کہا: ملک شام میں سردی شدید ہے میں آپ کے یہ دو کپڑے نئے کپڑوں سے بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم مالدار ہو تو مجھے تمہاری بات قبول ہے اور اگر تم فقیر ہو تو مجھے قبول نہیں۔ اس شخص نے کہا: بخدا! میں بڑا مالدار اور بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو میں صبح و شام تمہیں خچر پر سوار کیوں دیکھتا ہوں؟ اس نے کہا: مجھے کسی سے لینا کسی کو دینا ہوتا ہے اور کسی سے حساب برابر کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: اٹھ جاؤ! تم فقیر ہو تم اپنی محنت و کوشش سے زیادہ کے طلبگار ہو۔

## دین کے عوض انجیر نہیں خریدتے:

﴿11170﴾... حضرت سیّدنا اسماعیل بن حبیب زکیّات رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عبدُ اللّٰہ نامی شخص نے بیان کیا کہ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَکْثَرُ ایک غلام کے پاس سے گزرے جس کے گریبان میں انجیریں لٹکی ہوئی تھیں، آپ نے اس سے فرمایا: اس میں سے ہمیں ایک دانق کی انجیر دے دو۔ اس نے انکار کر دیا تو آپ آگے بڑھ گئے ایک شخص نے انجیر والے کو دیکھا تو اس سے پوچھا: انہوں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ بولا: انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس میں سے ایک دانق کی انجیر دے دو۔ اس شخص نے انجیر والے سے کہا: ان کے پاس جاؤ اور وہ جتنی انجیر چاہیں دے دو اور قیمت مجھ سے لے لیتا۔ اس نے آپ سے مل کر کہا: چچا جان! ان میں سے جتنی انجیر لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَکْثَرُ نے اس کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا: لَا تَبْتَاعُوا التَّيْنَ بِالذِّہْنِ یعنی ہم دین کے عوض انجیر نہیں خریدتے۔

## جو کھا وہ ہو گیا:

﴿11171﴾... حضرت سیّدنا ابو عمر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے والد کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت سیّدنا حذیفہ مرعشی، حضرت سیّدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اور اسحاق بن نجیح کہیں جا رہے تھے، ایک شہر کے پاس سے گزرے تو سب نے اسحاق بن نجیح سے کہا: اس شہر سے ہمارے لئے کچھ سامان خرید لاؤ۔ انہوں نے جا کر کچھ سامان اور زرد رنگ کا نمک خریدا، جب آپ آئے اور سامان کے ساتھ زرد نمک رکھا تو ان حضرات نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اسحاق بن نجیح نے کہا: میں وہاں سے گزرا، اس کی خواہش ہوئی تو خرید لیا۔ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَکْثَرُ نے ان سے فرمایا: تم اپنی خواہش نہیں چھوڑو گے حتیٰ کہ تم پر ایسی مصیبت آئے گی جس کی تمہیں طاقت نہ ہوگی۔ حضرت سیّدنا ابو عمر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسحاق بن نجیح کو خُزّان میں دیکھا وہ بھاری بھر کم اور انتہائی موٹی گردن والا ہو چکا تھا۔

## چار چیزوں سے اجتناب:

﴿11172﴾... حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے دوست حضرت سیّدنا ابو ولید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا بیان ہے کہ حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَکْثَرُ اور ان کے ساتھی چار چیزوں سے بچتے تھے:

(۱) پانی کی لذت سے (۲) حمام سے (۳) ... جوتے سے اور (۴) ... وہ نمک میں مصالے نہیں ڈالتے تھے۔

## حکایت: پڑاسر اسارتھی کا پڑاسر اٹھیلا

﴿1173﴾... حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن عیسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کو اس کے والد نے بتایا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ کے ہمراہ مکہ مکرمہ گیا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ جب مکہ مکرمہ جاتے تو عوامی راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ ہم چار ساتھی تھے، ہم راستے سے ہٹ کر سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ ہم نے کرائے پر ایک گھر لیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ نے فرمایا: ہم چار افراد ہیں، روزانہ ہم میں سے ایک شخص گھر کے کام کاج، سامان کی درستی، افطار اور دیگر ضروریات کے انتظام کا ذمہ دار ہو گا اور باقی تین افراد مسجد جائیں گے اور پھر اپنی حاجتوں کے لئے قبا اور شہدائے قبرستان جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک دن ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ گندمی رنگت والا ایک شخص نئی قمیص، پاؤں میں موزے، سر پر عمامہ سنبائے اور سامان کا تھیلا اٹھائے ہمارے پاس آیا اور سلام کر کے بولا: حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا: وہ اسی گھر میں رہتے ہیں، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہم سے کوئی بات کیے بغیر چلا گیا کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ واپس آئے تو وہ شخص بھی ان کے ساتھ تھا اور سامان کا تھیلا اس کی گردن پر تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ ہمارے گھر میں چند روز رہے گا۔

جب ہم صبح یا شام کا کھانا کھانے لگتے تو وہ شخص اپنا سامان لے کر ایک طرف ہو جاتا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ کسی بھی وقت اسے کھانے کی دعوت نہ دیتے اور نہ ہی یہ پوچھتے کہ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تین دن بعد اس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ سے کہا: میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کس وقت جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: آج رات کو۔ پھر وہ باہر نکلا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ بھی اس کے ساتھ گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا: اس شخص کا کوئی تو قصہ ہے جیسی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْثَرُہِ نہ اُسے کھانے کی دعوت دیتے اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ کھاتا، بس اس تھیلے کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، خدا کی قسم! میں اسے ضرور کھول کر دیکھوں گا کہ اس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کھولا تو اس میں ہڈیاں تھیں، اس نے تھیلے کو واپس باندھ دیا، اس شخص نے آکر تھیلا لیا اور اس پر بندھی

رسی کو ناپسندیدگی سے دیکھا پھر ہمارے چہروں کا جائزہ لیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الخیرہ سے کہا: ابو اسحاق! یہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب تھا: یہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا نہ آپ اسے کھانے پر بلاتے تھے، فلاں نے جا کر اس کے تھیلے میں دیکھا تو اس میں ہڈیاں تھیں۔ یہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس حرکت پر اس شخص سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کسی سفر میں تم میرے ساتھ رہ سکو گے، تم نے اس کے تھیلے میں کیوں دیکھا؟ وہ جنات میں سے ہے اور ہمارا دینی بھائی ہے۔ میں جس شہر میں جاتا ہوں یہ آکر میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے انسیت پہنچاتا ہے اور میری مدد کر کے چلا جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے تھیلے میں دیکھنے والا شخص مدینہ شریف ہی میں فوت ہو گیا۔

## ہر سال صحابی جن سے ملاقات:

﴿11174﴾... حضرت سیدنا جسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الخیرہ کے ساتھ 150 ہجری میں حج پر گیا تو قمیص و چادر میں ملبوس کاندھ پر ڈنڈے کے ساتھ تھیلہ لٹکائے ایک دراز قد ضعیف العمر صاحب نے آپ سے مل کر آپ کو سلام کیا پھر راستے کی ایک جانب ہو کر ہمارے ساتھ چلنے لگے، جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے بھی ہماری ایک جانب پڑاؤ ڈالا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الخیرہ نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی ان سے کلام نہ کرے نہ کچھ مانگے، نہ ان سے کسی چیز کے متعلق پوچھے اور نہ ہی یہ پوچھے کہ وہ کون ہیں؟ جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک گھر میں گئے، وہ ضعیف العمر صاحب گھر کے آخری حصے میں واقع کمرے میں چلے گئے، انہوں نے اپنا عصارہ روشنہ ان میں رکھا اور اپنا تھیلہ اس پر لٹکا دیا، جب ہم اندر جاتے تو وہ باہر آ جاتے اور جب ہم باہر نکلتے تو وہ اندر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا، میں بیت الخلا میں تھا جو کھجور کی شاخوں سے ڈھکا ہوا تھا کہ اچانک وہ صاحب آ گئے انہوں نے نظر گھا کر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہ آیا، پھر اپنا تھیلہ لے کر اسے کھولا تو اس میں بیٹنگیاں تھیں وہ اس میں سے کھانے لگے<sup>(۱)</sup>، میں نے کھنکھار تو انہوں نے میری طرف دیکھا

①... جنات کے فود آنے کی رات حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ





## مُبَایْن کے لئے فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	﴿2﴾... قرآن اور تلاوت قرآن کا بیان		﴿1﴾... فکرِ آخرت اور خوفِ خدا کا بیان
28	قرآن مجید سے لگاؤ	8	یادِ آخرت کا انوکھا طریقہ
43	قرآن کو مخلوق ماننا کفر ہے	18	سلبِ ایمان کا خوف
43	تلاوتِ قرآن اور زہد	21	خوفِ خدا کا عالم
88	جہاد یا تلاوتِ قرآن	25	فکرِ آخرت میں ترپنا
182	اچھی آواز میں تلاوت کرو	29	خوفِ خدا کی پہچان
186	قرآن کریم پر اجرت کی مذمت	30	خوف کی کیفیت
217	تین دن میں ختمِ قرآن	33	فکرِ آخرت
219	تہائی قرآن کے برابر ثواب	71	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا خوف
228	نماز جمعہ و عیدین کی قراءت	74	ساری رات فکرِ آخرت
228	جمعہ کے دن فجر کی قراءت	93	رب تعالیٰ کی ناراضی کا خوف
259	بر رات نصف قرآن کی تلاوت	103	خفیہ تدبیر کا خوف
294	سورہ ملک کی فضیلت	107	داغی خوف والے دل
309	ختمِ قرآن کے موقع پر دعا	175	خوفِ خدا پر مغفرت کا انعام
317	بلند آواز سے تلاوت	180	ایک نبی علیہ السلام کی حیا اور خوفِ خدا
323	قرآن کریم سے محبت	254	خوفِ آخرت
331	محبتِ قرآن محبتِ الہی ہے	254	وصال کے وقت خوف کی کیفیت
412	امام کے پیچھے تلاوت کی ممانعت	284	خوفِ خدا کا حق
	﴿3﴾... ذکر و شکر کا بیان	285	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوفِ خدا
11	ناشکری باعثِ بلاکت ہے	307	بوقتِ وصال خوف کی کیفیت
75	شکریہ ادا کرنے کا موقع	406	خوف و خشیت
78	ذکر اور شکر ایک ساتھ	408	خوف کی شدت
185	شکر گزار کی فضیلت	427	بردنِ سالمانِ آخرت تیار کرو

257	سجدوں کی کثرت	212	چار مقدس کلمات کی تعلیم
270	پورا رمضان باجماعت نماز کی فضیلت	245	ذکر کرنے والوں پر رحمتیں
272	سجدے کا سنت طریقہ	261	ذکر اللہ کی برکت
277	امام نماز مختصر پڑھائے	290	نمازوں کے بعد کا ایک ورد
281	نماز میں شک ہو تو کیا کیا جائے؟	319	ذکر اللہ کی فضیلت
283	افضل نماز کون سی ہے؟	323	دنیا سے بے رغبتی صبر و شکر کا نام ہے
287	تکبیرۃ اللہ میں نماز	327	دیہاتی کی مناجات
301	قصہ نماز چھوڑنے کا وبال	479	رقم تم ہو جانے پر شکر
342	نماز کی عزت و توقیر	﴿4﴾... عبادت و ریاضت کا بیان	
365	سیدنا ابو وروادہ رضی اللہ عنہ کی افضل عبادت	22	دار الخلافہ میں عبادت کی مثال
405	رات کو عبادت میں تقسیم کرنے والا گھرانہ	26	نماز میں رونا
440	آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری	78	اتنا طویل سجدہ!!!
451	سجدے میں اعتدال	81	نماز کا ذوق و شوق
468	ہر رات لیلتہ القدر	81	شب بیداریاں
﴿5﴾... مسجد کی اہمیت و فضیلت		82	نماز میں مناجات کی نیت
127	مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے	118	آقا رضی اللہ عنہ کی عبادت و ریاضت
235	مسجد کی خدمت کا انعام	120	دو نمازوں کو جمع کرنا
240	باد شو مسجد جانے کی فضیلت	127	نماز فجر کا افضل وقت
385	مسجد کی ترمیم و آرائش	161	چٹائی اور قالین پر نماز
412	عورتوں کو مسجد نہ جانے کا حکم کیوں؟	163	نماز کی کتنی
﴿6﴾... دنیا سے بے رغبتی اور تقویٰ و پرہیزگاری		174	نماز میں اقتدار کا انداز
6	تقویٰ میں امام	180	غلابہ خیمہ میں نماز کا حکم
12	زہد سے بھرپور نصیحت	224	قبول نہ ہونے والی نماز اور صدقہ
27	علم و تقویٰ والے نہ رہے	225	خطبہ نماز اور خطبہ حاجت
43	تلاوت قرآن اور زہد	231	قصر تکمیل فرض نماز ہے
252	علم و تقویٰ کے جامع	248	سب سے افضل نماز

167	ٹیکیاں برباد کرنے والا عمل	264	درسِ قناعت
170	جہنم سے بچانے والے اعمال	323	دنیا سے بے رغبتی صبر و شکر کا نام ہے
203	علمِ حدیث کا شہسوار	324	دنیا سے بے رغبتی کی عظیم مثال
214	جنت میں لے جانے والے اعمال	344	قناعت و رضا والے
216	شیطانِ عمل کی ممانعت	359	زہد کیا ہے؟
252	علم و تقویٰ کے جامع	362	ورع اور اس کی اقسام
253	علماء کی وفات	375	دنیا سے بے رغبتی یا محبت؟
257	علم و ادب کی خوبی	407	زبان اور ورع و تقویٰ
259	لوگوں کے لئے طلبِ علم	425	زہدین کی نشانی
273	غیر نافع علم کی مثال	425	زہد کون؟
273	جنت واجب کرنے والا عمل	427	متقین کی صحبت کا فائدہ
275	ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے	459	تقویٰ سے شخصیت کی پہچان
282	پانچویں نہ بننا	475	دنیا سے بے رغبتی
300	عمل فرشتوں کا ثواب مومن کا	481	سارک دنیا کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ
302	محشر میں علماء کا مقام و مرتبہ	482	زہد سے بھرپور جہاد
311	سب سے زیادہ وزنی عمل		﴿7﴾... علم، عطا اور عمل کا بیان
315	کون سا عمل سب سے افضل ہے؟	10	سب سے بڑے عالم
321	اصلاح والا علم	18	علم و عمل ساتھ ساتھ
325	عالم کو کیسا ہونا چاہئے؟	18	عمل پر اتارنے کا دہان
326	عالم ”لا آذری“ نہ بننا چھوڑے	23	شیطان کی کمر توڑنے والا عمل
334	علماء کی تین اقسام	52	جلیل عابد اور فاسق عالم کا فرق
336	علماء کے زیادہ محتاج ہیں	54	مخلص طالبِ علم کی قدر و منزلت
342	علمِ عمل سے پہلے ہے	99	علمِ حدیث میں مہارت
363	یونے والا عالم افضل ہے	112	لیڈری علم کے لئے نقصان دہ ہے
374	علم کی فضیلت	129	حصولِ علم کے غلط مقاصد
387	داخل جنت کرنے والا عمل	164	زمانہ جاہلیت کے اعمال پر پکڑ

77	جہاں ہمتار ہوتا ہے اس کے لئے اتنا عمل کرو	388	عاشق اکبر زمین و آسمان کے ایک دن کے اعمال
79	دنیا سے بچانے والی صحبت	409	اچھے اور بُرے عمل کے اثرات
274	آخرت کے مقابلے میں دنیا	415	پہلے فقیر پھر عالم پھر عابد
294	دنیا میں جنت کا باغ	421	عمل کب کرے گا؟
377	دنیا کی حیثیت	﴿8﴾... عشق و محبت کا بیان	
439	دنیا قید خانہ اور موت رہائی ہے	46	تمام صحابہ سے یکساں محبت کرو
442	دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں	79	بلبل کی ولی سے محبت
﴿10﴾... سخاوت و عمل کا بیان		86	حدیث شریف سے محبت
125	سخاوت اور بخل کے درخت	144	حجر اسود سے محبت
172	سائل کو غالی نہ لوٹاتے	178	محبت الہی کا نسخہ
190	غریبوں کی دستگیری	201	استاد سے محبت
191	سچی دل انسان	244	رضائے الہی کے لئے محبت کی فضیلت
191	بے مثال سخاوت	309	یار غار کا عشق
192	تمام لوگوں کا کراہی ادا کرتے	317	اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت
205	غریبوں کا خیال	323	قرآن کریم سے محبت
394	سوال سے بڑھ کر سخاوت	331	محبت قرآن محبت الہی ہے
395	دعا کرنے والے پر نوازشات	380	اللہ و رسول سے محبت
397	کھانا کبھی اکیلے نہ کھایا	471	وطن کی محبت
397	جو دے دیا سے واپس نہ لیا	﴿9﴾... دنیا و آخرت کا بیان	
398	کبھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی	9	دنیا کی ناپائیداری پر اشعار
398	باپ پیدا دونوں سخی	11	دونوں جہاں میں انعام
﴿11﴾... مال و دولت کی خدمت کا بیان		13	دنیاوی دوستی کا نقصان
6	گھر آئی دولت واپس کر دی	29	دنیا و آخرت سے حصہ
15	مال حرام کی نحوست	32	دنیا سے مومن کے نکلنے کی مثال
57	مال وادوں کے لئے جھکا پسند نہیں	50	دنیا و آخرت کی خرید و فروخت
73	اپنا دنیا چھوڑ دیا	54	دل محبت و دنیا سے بھر جائیں گے

درہم و دینار سے نفرت رکھو	111	﴿13﴾... نصیحتیں اور نصیحتیں
منیٰ میں مال کا ضیاع	149	بادشاہ اور علماء کے لئے نصیحت
500 ایکڑ زمین چھوڑ دی	192	زبد سے بھر پور نصیحت
خوش نصیب مال دار	279	سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
عزت مال سے بڑھ کر ہے	332	کارآمد نصیحتیں
برکت والا مال	383	نابینا حافظ صاحب کو نصیحت
مالِ مسلم کی حرمت	413	بھائی کو نصیحت آموز مکتوب
مال دار بھی فقیر	488	مختلف نصیحتوں کا مکمل دستہ
﴿12﴾... دعا کا بیان	63	خلیفہ کو نصیحت
قرض کی واپسی پر دعا دیجئے	142	لوگوں سے تعلقات کے بارے میں نصیحت
شرک سے حفاظت کی دعا	148	راہب کی راہب کو نصیحت
اختتامِ مجلس کی دعا	162	نصیحت کا حیرت انگیز اثر
چھینک آنے پر دعا اور اس کا جواب	213	عازم حج کو خاص نصیحت
ایک دعائے نبوی	280	کوٹائی عابد کی نصیحت
برائیوں سے حفاظت کی دعا	282	نصیحت آموز اشعار
سوئے وقت کی دعا	293	عافلوں کو نصیحت
قبولیت دعا میں جلد بازی کی ممانعت	295	بیٹے کو نصیحت
ختم قرآن کے موقع پر دعا	309	نوجوان کو نصیحت
گھر سے نکلے وقت کی دعا	314	سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
مؤمنین کے لئے انہماکی دعا	333	نصیحت آموز شاعری
نیکیوں کے ساتھ رہنے کی دعا	340	نصیحتوں سے بھرے مدنی پھول
ایک اعرابی کی پیاری دعا	371	ایک دانائی کی نصیحت
ادب یاد دلانے والے کو دعا	446	تین نصیحتیں، تین فائدے
امّت کے لئے خاص دعا	449	عظیم نصیحت
بزرگوں کی دعا سے حسنِ نغم	458	﴿14﴾... فضائل و مناقب کا بیان
تحفے کے بدلے تحفہ	475	دشمنانِ شیعین پر کہنے کا ماسلہ ہونا

449	اہل یمن کی فضیلت	122	زبان کریم سے کبھی "ا" نہ سنا گیا
452	کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ زندگی	134	آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا
	﴿15﴾... دلچسپ معلومات	159	کاشانہ اقدس کا ادب
10	شر کیا ہے؟	161	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بتایا گیا؟
14	یقین کیا ہے؟	212	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفاری
23	گمان کی دو قسمیں	229	شریعت میں اختیار مصطفیٰ
25	گناہ کی نحوست	236	بارگاہ مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ
26	دین کی سلامتی والی جگہ	239	گستاخانہ تشہیں پر غضب مرتضوی
27	بیدار رہنے کا طریقہ	249	امت پر شفقت و کمال مہربان
28	آل محمد کون؟	269	فضیلت عثمان بزبان علی رضی اللہ عنہما
29	دین کی سلامتی کا نسخہ	271	غیب والہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
32	اڑدھ کے منہ میں ہاتھ	290	سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی
41	تین چیزوں سے دور رہو	290	فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ
43	تعریف کے باوجود دُور انسان	292	شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا
47	اُچھ پانچ ہیں	296	جنت و دوزخ نگاہوں کے سامنے
49	بدعت سے بچانے کا نسخہ	297	سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جنتی مقام
49	ایمان اور اسلام ایک ہیں	304	شان مولیٰ علی رضی اللہ عنہ
50	زندگی تین چیزوں کا مجموعہ ہے	308	بے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم
54	رونے کی انوکھی وجہ	308	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنتی محل
63	لوحزی کی 72 چالیں	310	شفاعت مصطفیٰ
65	کس کی صحبت میں بیٹھیں؟	313	سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی
71	موت کی سختی	351	ذکر مصطفیٰ کی بلندی
72	معرفت کیسے ملی؟	364	نگاہ نبوت کا اعجاز
75	اچھی اور بُری عابری	381	سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا جنتی رومال
76	کب مسئلہ نہ پوچھا جائے؟	388	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام
81	چپقل کی حفاظت پر انعام	389	شان صدیق اکبر

314	دم سے علاج	93	شیر کا اطاعت کرنا
322	زندہ کون اور مردہ کون؟	95	دل کی بیماری کا علاج
330	مصائب کی ایک حکمت	98	مردہ زندوں سے بہتر
344	10 ہزار آوازیں	99	آپ زم زم کے تین ڈاکے
345	نعت کیوں دی جاتی ہے؟	107	بڑی گھبراہٹ
348	کس عورت سے نکاح کیا جائے؟	109	بہترین اور بدترین لوگ
359	لذت و سرور کس کام میں ہے؟	113	دل مردہ، جسم زندہ
364	سب سے افضل تین چیزیں	113	عقل کی نیند و بیداری
364	بڑا انسان کون؟	124	بہترین اور بُری صفیں
375	بڑی نعت کون سی ہے؟	126	دودھ پلانے اور چھڑانے والی
376	آدمی سر پرست کب بتائے؟	135	جنت میں اُشت محمدیہ کی تعداد
392	سب سے بڑی بیماری	143	درخت کی بارگاہ رسالت میں حاضری
392	سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟	144	مسکین کون؟
402	خاتون جنت کا مقام و مرتبہ	150	کیا مردے سنتے ہیں؟
487	کرامت: جانوروں کا اطاعت کرنا	154	خُطْبے میں ”المائدہ“ کہنا
491	ہر سال صحابی جن سے ملاقات	167	راؤ خدا کا مجاہد کون؟
	﴿16﴾... مہرقات	169	کتے سے بھی زیادہ ذلیل انسان
106	جنتیوں کی شان و شوکت	172	عورت کے لئے جنت میں جانے کا نسخہ
108	بُردباری سے کیسے کا علاج	180	شوہر خربختہ دے تو۔۔۔!
156	پانچ چیزوں کی ممانعت	182	شیطان کے لئے تھوڑا
157	جہنم سے محفوظ آنکھیں	187	بچھو سے حفاظت کا وظیفہ
166	تین نایاب چیزیں	244	نفاق کی نشانیاں
170	غم و پریشانی کے اسباب	262	جنت و دوزخ کی سفارش
171	بر باد کرنے والی تین عادات	267	مریض مریض کی عیادت کیسے کرے؟
174	باری تعالیٰ کی عطائیں	276	ادویاء اللہ کی پہچان
175	شفاء والی دو چیزیں	298	زبانِ رُوح اللہ سے تفسیر بِسْمِ اللہ



286	تسبیح چھوڑنے کا نقصان	183	روز جمعہ اور ماہ رمضان کی برکت
296	والدین کا رُخِبر	183	مینیوں کی خواہش کا لحاظ رکھو
299	انجانی نیکی کا صلہ	212	چار مقدس کلمات کی تعلیم
306	سیدنا آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری	241	چار کبیرہ گناہ
338	عقل مند کی توصفات	245	تین بد بخت
340	اصل زندگی اور حقیقی بقا	247	بہترین سفارشی
345	دن تین ہی ہیں	249	حاجت پوری نہ ہونا بھی رحمت ہے
444	غلطی آگے نہ بڑھائی جائے	253	چار فضل جو جوان
448	بہترین علاج	261	والدہ کا ادب
453	زیارت قبور کی اجازت	265	گھر تو قبر ہی ہے
489	جو کہا وہ ہو گیا	270	والدین کا حق
	﴿17﴾... حکایات	272	بہترین بندے
352	پہنٹ میں چھپنے والا سانپ	275	بیمار کے لئے وظیفہ نبوی
353	حسن سلوک ضائع نہیں ہوتا	281	تبرک کا احترام
490	پراسرار سناجھی کا پراسرار تھیلا	286	والد کو پانی پلانے کا اجر



## متروکہ عربی عبارت

﴿10628﴾... حدثنا محمد بن الحسين البقطيني ثنا ابو الطيب الرسغي ثنا سعيد بن زريق ثنا اساعيل بن يحيى عن مسعر وحدثنا ابو احمد محمد بن احمد الحافظ ثنا ابو الجباس ابراهيم بن محمد الفرانفي ثنا سعيد بن محمد بن زريق ثنا اساعيل بن يحيى التيمي ثنا مسعر عن انقاسم بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر فائز في جنبه فقلت له عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هذا كسرى وقيصرى ملك عظيم وانت رسول الله لا شيء لك تنام على الحصى وتلبس الثوب الردى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت ان تسير معي العجائب ذهبنا لسارت ونقدنا اتان جبريل بفاتية خزائن الدنيا فلم اردها ارفعي الحصى فرفعتها فاذا تحت كل زاوية منها قفيل من ذهب ما يحمله الرجل فقال انظري اليها يا عائشة ان الدنيا لا تعدل عند الله من الخير قدر جناح يبعوضة ثم غارت انقضيا من غريب من حديث اساعيل تفرد به اساعيل بن يحيى.

﴿10331﴾... حدثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابو عروبة العزازي ثنا اساعيل بن احمد بن داود السلمي ثنا ابو قتادة ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن البخاري قال قال غلب على فقال الا ان خير هذه الامة بعد نبينا ابو بكر دعبر قمار رجل فقال وانت يا امير المؤمنين فقال نحن اهل بيت لا يؤاخذنا احد غريب من حديث شعبة عن عطاء تفرد به ابو قتادة.

## تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
13	دنیاوی دوستی کا نقصان	1	اجمالی فہرست
13	تعلقات کمر کئے والا فائدے میں ہے	2	کتاب پڑھنے کی نیتیں
14	یقین کیا ہے؟	3	السَّيِّئَةُ الْعَلِيَّةُ كَالْعَارِ (ازامیر اہلسنت مذاہلہ)
14	ایک ولیہ کی گفتگو	4	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
15	مال حرام کی محسوس	6	<b>حضرت سیّدنا سفیان ثوری</b> رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
16	سیّدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں	6	تقویٰ میں امام
18	علم و عمل ساتھ ساتھ	6	گھر آئی دولت واپس کر دی
18	عمل پر اترنے کا وبال	7	10 ہزار درہم کا انعام
18	سلب ایمان کا خوف	7	سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور یحییٰ گورنر
19	کار آمد نصیحتیں	8	یاد آخرت کا انوکھا طریقہ
19	دیانت داری	9	بادشاہ اور علما کے لئے نصیحت
21	امیز کم کو تنبیہ	9	نئی کو پرانی سے بچ دیا
21	خوف خدا کا عالم	9	دنیا کی ناپائیداری پر اشعار
22	دار الخلافہ میں عبادت کی مثال	10	شر کیا ہے؟
22	قاضی وقت کے قاصد کو جواب نہ دیا	10	سب سے بڑے عالم
23	شیطان کی کمر توڑنے والا عمل	10	جسم کا حصہ بننے کی تمنا
23	گمان کی دو قسمیں	10	دلی سکون پانے کی جگہ
24	ناہین حافظ صاحب کو نصیحت	11	دونوں جہاں میں انعام
25	گناہ کی محسوس	11	ناشکری باعث بلاکت ہے
25	فکر آخرت میں تربیت	12	کم کھانے کا فائدہ
26	نماز میں رونا	12	آپ مذہبہ رضی اللہ عنہ کی خوراک
26	دین کی سلامتی والی جگہ	12	زہد سے بھرپور نصیحت
27	بیدار رہنے کا طریقہ		

39	صحابہ کو عیب لگانے والا	27	موت کی آرزو
40	انفرادی و اجتماعی معاملات	27	نیکوں کی مجلس
40	نجیبہ اور قدربہ کا فرہیں	27	علم و تقویٰ والے نہ رہے
40	بد مذہب کے پیچھے نماز کی ممانعت	28	قرآن مجید سے لگاؤ
41	تین چیزوں سے دور رہو	28	آل محمد کون؟
41	بٹوں کا پھاری اور سعادت مندی	28	مقروض گوشت نہ کھائے
42	فرقہ مرہبہ اور سنیہ سنیان شوری علیہ السلام	29	خوب خدا کی پہچان
43	قرآن کو مخلوق ماننا کفر ہے	29	دنیا اور آخرت سے حصہ
43	قریب کے باوجود بر انسان	29	دین کی سلامتی کا نسخہ
43	سلامت قرآن اور زہد	30	خوف کی کیفیت
44	صحابہ کی افضلیت کے بارے میں موقف	30	آپ ﷺ کی پسندیدہ سند
45	حق مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے	31	پتھر کا پتھونا
46	تمام صحابہ سے یکساں محبت کرو	31	دو کھانوں کو یکجا کرنا
47	ایک پانچ ہیں	32	بھائی کو نصیحت آموز مکتوب
47	سنت کی موافقت	32	اڑھے کے منہ میں ہاتھ
49	بدعت سے بچانے کا نسخہ	32	تحریر ملامت کا سبب ہے
49	ایمان اور اسلام ایک ہیں	32	دنیا سے مومن کے نکلنے کی مثال
50	زندگی میں چیزوں کا مجموعہ ہے	33	کلیجا بھٹ گیا
50	دنیا و آخرت کی خرید و فروخت	33	فکر آخرت
52	جاہل عابد اور فاسق عالم کا فرقہ	33	مختلف نصیحتوں کا گل دستہ
52	عزم سیر کی اور زیادہ ہٹنے کا نقصان	36	بیٹ المقدس اور عسقلان کا سفر
53	وقت کی قدر	37	خفیہ تدبیر
54	رونے کی انوکھی وجہ	37	بد مذہب سے نفرت
54	مخلص طالب علم کی قدر و منزلت	38	بد مذہب کے بہترین معالج
54	دل محبت دنیا سے بھر جائیں گے	38	بغض صحابہ سے پاک سینہ
55	کتابیں دفن کرنے کی وصیت	38	دین و عقل میں کمزور شخص

71	قاری بننے سے پہلے جو اس مردی اپنا	55	نکاح سے بے خوبی اور بے استقامتی
72	تہمیں دیکھ کر موت یاد آئے	56	عہدہ چھوڑنا مشکل ترین کام
72	اچھی صحبت ایک گشدہ خزانہ ہے	57	عالم کا چہرہ بھی نہ دیکھو
72	معرفت کیسے ملی؟	57	مال داروں کے لئے جھکنا پسند نہیں
73	آپ کے جنازے کی خاطر خلیفہ کا سفر کرنا	57	عہدہ قضا قبول نہ کیا
73	اپنا بیٹا چھوڑ دیا	59	سنید ماسفیان ثوری متنبیہ اللہ سے کی بدوعا
74	ساری رات فکر آخرت	59	خلیفہ کے منہ پر مذمت
74	پہلے نیت پھر اس کی پیروی	60	خلیفہ کو اعتبار کادرس
75	شکریہ ادا کرنے کا موقع	61	خلیفہ مہدی کی تاثیرات
75	اچھی اور بری عاجزی	62	خلیفہ سے بھاگنے کی وجہ
76	کب مسئلہ نہ پوچھا جائے؟	62	خط لکھنے میں اسلاف کی پیروی
76	شہد لگی روٹی / بڑی نعمت	63	لوٹری کی 72 چالیں
76	راہب کی راہب کو نصیحت	63	خلیفہ کو نصیحت
77	جہاں جتنا رہنا ہے اس کے لئے اتنا عمل کرو	64	بہتر راہ کی امید
77	ثواب بڑھانے والا بے مثل کلام	64	عہدیداروں سے بیزاری کا عالم
78	تدبیر پر راضی رہو	65	عالم کی مذمت
78	اتنا طویل سجدہ!!!	65	کس کی صحبت میں بیٹھیں؟
78	ذکر اور شکر ایک ساتھ	66	عہدہ قضا سے بیزاری
79	دنیا سے بچانے والی صحبت	66	لوگوں سے تعلقات کے بارے میں نصیحت
79	تفسیر و مناسک حج کے عالم	68	مصارف حج میں زیادتی پر خلیفہ کو سرزنش
79	بلبل کی دلی سے صحبت	68	بھائی کی سفارش نہیں کی
80	تحفے کے بدلے تحفہ	69	بڑے لوگوں کے طریقوں سے بچو
81	چیل کی حفاظت پر انعام	70	شاہی حکم نامے سے بیزاری
81	نماز کا ذوق و شوق	70	ساری رات مذاکرہ
81	شب بیداریاں	71	موت کی سختی
82	نماز میں مناجات کی نیت	71	اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کا خوف

95	دل کی بیماری کا علاج	83	نیکوں کی ترغیب و تحریص
96	لوگوں پر بوجھ نہ بنو	84	آج نیت حاضر ہے
97	جھوٹے کی حدیث قبول نہیں	85	حق مہر کی ادائیگی کی فکر
98	مرد و زنانوں سے بہتر	85	سیدنا خضر علیہ السلام کی تشریف آوری
99	علم حدیث میں مہارت	85	تین دن مٹی پر گزرا وقت
99	آب زم زم کے تین ذائقے	86	حدیث شریف سے محبت
100	دشمنانِ شیعین پر کئے کا مسلط ہونا	86	عاجزی و انکساری
100	دیدارِ الہی کی نعمت	87	کتابوں کی تدفین
101	نفل پر فرض کو ترجیح	87	بہتر سرگ پر حدیث سے لگاؤ
102	دن ہے یارات	88	آتے ہی حدیث سنانے کا مطالبہ
102	دوستیاں لگانے سے دوری	88	جہاد یا تلاوت قرآن
103	گوشت خور گھر اہ	89	فضول سوال فضول گوئی ہے
103	موت میں شامت نہیں	89	نصیحت کا حیرت انگیز اثر
103	خفیہ تدبیر کا خوف	90	خالی قالین پر شیطان بیٹھتا ہے
103	حقوق کی فکر	90	تعلق جوڑ کر خلوت نشین
104	<b>سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ</b>	90	طویل گفتگو سے اجتناب
	<b>تعالیٰ علیہ کے تفسیری اقوال</b>	91	بے وقوف بننے والے کی نجات
104	اللہ عز و جل جسم و جسمانیات سے پاک ہے	91	بہشیرہ کا بدیہ
105	تقدیر غالب آگئی	91	بعد والوں کے لئے مشقت
105	صحابہ کرام علیہم السلام پر سلامتی کا نزول	92	انسان کی کمزوری
106	رب تعالیٰ کی عطا کیں	93	شیر کا اطاعت کرنا
106	جنتیں کی شان و شوکت	93	مظلوم کی فلاح کا دن
107	دامنی خوف والے دل	93	رب تعالیٰ کی ناراضی کا خوف
107	بڑی گھبراہٹ	94	دل بدلنے والا کھانا
108	چوری چھپے کی نگاہ	94	اپنے دین کی فکر کرو
108	بروباری سے کیسے کا علاج	95	حکمرانوں سے دور رہو

127	مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے	109	حسن ادب کا کمال
127	پاکیزگی اور رضائے الہی کا ذریعہ	109	بہترین اور بدترین لوگ
127	نماز فجر کا افضل وقت	110	عازم حج کو خاص نصیحت
128	میت کی حرمت	110	خود کو خوش رکھو
128	بیویوں کا ایک حق	110	رزق حلال کے لئے سفر
129	نابالغ بچے کا حج	111	کوثانی عابد کی نصیحت
129	حصولِ علم کے غلط مقاصد	111	درہم و دینار سے نفرت رکھو
130	تھما کھنے کی ممانعت	112	جہاد کے ساتھ دیگر فرائض
131	دودھ کے رشتے کی حرمت	112	ایڈری علم کے لئے نقصان دہ ہے
131	مجاہد کی شان	112	آباء و اولاد سے حسن سلوک
131	حاجی کو زوار اور دینے کا ثواب	113	دل مر دہ، جسم زندہ
132	نہروان کا قصہ	113	عقل کی نیند و بیداری
133	500 سال پہلے جنت میں	118	<b>سَيِّدُ نَاسِ فَيَا نِ ثَوْرِي رَحْمَةُ اللهِ</b>
134	آقا سید اللہ علیہ السلام کی حیا		<b>تعالیٰ علیہ کی مرویات</b>
135	جنت میں امت محمدیہ کی تعداد	118	آقا سید اللہ علیہ السلام کی عبادت و ریاضت
136	شیخی خبریں	119	رحمت غضب پر غالب رہے گی
136	اپنی قوم کی ناحق مدد کرنے والے کی مثال	119	ضامن اور امین
137	غنیوں کے مالک	120	دو نمازوں کو جمع کرنا
138	صحابہ کرام علیہم السلام کو گالی دینے والا لعنتی	122	بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ
139	بعض محمد نامی راویوں کا تذکرہ	122	زبان کریم سے سمجھی "لا" نہ سنا گیا
140	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام	122	خیر خواہی کا فائدہ
141	عام لوگوں کو شفاعت کا حکم	123	نظر لگتا برحق ہے
141	دو آیتوں کی تفسیر نبوی	124	بہترین اور بُری صفیں
142	قرض کی واپسی پر دعا دیجئے	124	غلاموں کے حقوق
143	درخت کی بارگاہ رسالت میں حاضری	125	سختاوت اور بخل کے درخت
143	دودھ پلانے اور چھڑانے والی	126	

159	کاشائے اقدس کا ادب	144	حجر اسود سے محبت
159	سفارش پر اجر و ثواب	144	مسکین کون؟
160	غلام کو مارنے کا کفارہ	144	ہر دن صدقہ لازم ہے
160	حیا کا زیادہ حق دار کون؟	145	بھوک برداشت کرنے کا ثواب
161	حضور رضی اللہ عنہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟	146	کتوں کو مارنے کا حکم
161	چٹائی اور قالین پر نماز	146	قالل اور معاویہ کی سزا
162	جب مومن کو مت پسند ہوگی	147	بڑے کو ترجیح
162	اختتام مجلس کی دعا	148	راہ خدا میں مرنے والا جنتی ہے
163	نماز کی کفنی	148	شرک سے حفاظت کی دعا
163	بے مثال اخلاق کریمانہ	149	مٹی میں مال کا ضیاع
164	زمانہ جاہلیت کے اعمال پر پکڑ	149	دونوں ہاتھ خیر سے بھر گئے
164	تاجروں کو صدقہ کا حکم	150	کیا مر دے سنتے ہیں؟
165	وعدے اور قسم پر چٹائی	150	امامت کون کروائے؟
166	تین نایاب چیزیں	151	حج جلدی کر لو
167	نیکیاں برباد کرنے والا عمل	151	اقامت کہنے کا حق دار
167	راہ خدا کا مجاہد کون؟	152	نماز استغناء میں کیا انداز ہو؟
168	سرگوشی کی ممانعت	152	ہر حال میں سنت کی پیروی
169	مقروض سے درگزر کا انعام	153	مسئلہ رضاعت کا بیان
169	کتے سے بھی زیادہ ذلیل انسان	154	مصیبت چھپانے کا ثواب
170	نجات رحمت الہی سے ہی ملے گی	154	خٹلے میں ”ما بعد“ کہنا
170	جہنم سے بچانے والے اعمال	155	غربت و تنگدستی کا اظہار پسند نہیں
170	غم پر یثانی کے اسباب	155	سفر میں سنت و فطرت ادا کیجئے
171	برباد کرنے والی تین عادات	156	پانچ چیزوں کی ممانعت
172	سائل کو خالی نہ لوٹاتے	157	دور نبوت کی رومی کا منظر
172	دوسروں کے حقوق ادا کرو	157	جہنم سے محفوظ آنکھیں
172	عورت کے لئے جنت میں جانے کا نسخہ	158	حج کیسے ادا ہو؟

187	بچھو سے حفاظت کا وظیفہ	173	مقتول جب قاتل کو پکڑے گا
188	بہترین اور بدترین	173	میدان جہاد میں ثابت قدمی
189	<b>حضرت سیدنا شعبہ بن حجاج رضى الله تعالى عنه</b>	174	باری تعالیٰ کی عطا کیں
		174	نماز میں اتھار کا انداز
189	کھال ہڈیوں پر سوکھ گئی	175	شفاف دلی دو چیزیں
189	روزوں کا اثر نظر نہ آتا	175	خوف خدا پر مغفرت کا انعام
190	لوگوں کے لئے آراستہ مرت ہو	176	بد سلوک کے ساتھ حسن سلوک
190	غریبوں کی دستگیری	176	زبان رسالت سے خوش آمدید
191	سختی دل انسان	177	10 فیصد خرچ میں برابر کا ثواب
191	بے مثال سخاوت	177	کھوت اور بیماری کا علاج
192	تمام لوگوں کا کرایہ ادا کرتے	178	محبت الہی کا نسخہ
192	مجلس حدیث میں سائلوں کی خبر گیری	178	کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا منع ہے
192	500 ایکڑ زمین چھوڑ دی	180	ایک نبی عنینہ السلام کی حیا اور خوف خدا
193	امیر المؤمنین فی الحدیث	180	شوہر خرچ نہ دے تو بے!
193	شوق حدیث کا عالم	180	غلابہ نیند میں نماز کا حکم
193	بیان حدیث میں احتیاط	181	گھر والوں سے حسن سلوک
194	راویان حدیث سے تصدیق	181	سر ڈھانپنے کے مواقع
194	حدیث کی خاطر کئی شہروں کا سفر	182	شیطان کے لئے مٹھوڑا
195	الفاظ روایت کی اہمیت	182	اچھی آواز میں تلاوت کرو
196	توثیق روایت میں شدت	183	روز جمعہ اور ماہ رمضان کی برکت
197	<b>احادیث گھڑنے والوں پر مقدمات</b>	183	بیٹیوں کی خواہش کا لحاظ رکھو
		184	سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا
197	اطہار حق کی خاطر بے قراری	185	لوگوں کی مثال ادوتوں کی طرح ہے
198	جھوٹ بولنے پر احتساب	185	شکر گزار کی فضیلت
198	روایت حدیث میں تشدد	186	قرآن کریم پر اجرت کی مذمت
199	آپ نے یہ حدیث خود سنی یا نہیں؟	187	حق مسلم ضائع کرنا ہلاکت ہے



215	امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ	199	راویان حدیث پر بھڑک
215	سرکارِ رضی اللہ عنہ کے دو پھول	200	روایات لینے میں احتیاط
216	نفل روزوں کی فضیلت	200	روایان حدیث پر گہری نظر
216	شیطانِ عمل کی ممانعت	201	تدلیس سے بیزاری
217	تین دن میں ختم قرآن	201	استاد سے محبت
218	دعوت قبول کیا کرو	202	باہمی تعظیم و تکریم
219	زمین پر بیٹھ کر کھانا	202	حدیث سناتے میں احتیاط
219	تہائی قرآن کے برابر ثواب	202	حفظ حدیث کا اہتمام
219	آگ سے بچو	203	علم حدیث کا شہسوار
220	صدقات کی ترغیب نبوی	205	تفہیم حدیث کے ماہر
221	دخولِ جنت کے لئے ایمان شرط ہے	205	کاش! کسی حرام کا لازم ہوتا
221	روزہ دار کے منہ کی بُو	205	غریبوں کا خیال
222	بحالتِ ایمان مرنے والا جتنی ہے	206	سَيِّدُنا شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ
223	امتِ مسلمہ کے امین		نعمانی غنی کی مرویات
224	قبول نہ ہونے والی نماز اور صدق	206	سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی وراثت
224	الشیخات کی تعلیم	207	حلال اور حرام چھوڑ دو
225	خطبہ نماز اور خطبہ حاجت	208	سفر میں روزہ
226	سیدنا ابن عمر کا نقشہ میں اضافہ	209	قطع تعلقی کا وبال
227	رات میں مسواک کرنا	209	مسواک کی فضیلت
227	وتر میں پڑھی جانے والی سورتیں	209	رشتے کی فریاد
227	وتر کی تین رکعتیں ہیں	210	شراب سے نفرت کی ایک وجہ
228	نماز جمعہ و عیدین کی قراءت	211	جہنم کی بھڑک
228	جمعہ کے دن فجر کی قراءت	212	چار مقدس کلمات کی تعلیم
229	شریعت میں اختیارِ مصطفیٰ	212	سرکارِ رضی اللہ عنہ کے سلم کی طماری
229	سفر میں قصر ہے	213	چھینک آنے پر دعا اور اس کا جواب
231	قصر مکمل فرض نماز ہے	214	جنت میں لے جانے والے اعمال

248	قبر کی حرمت	232	آرکان حج کی تعلیم
248	مہمانی کا حق	233	تکبیر سے پہلے الاکانے کی مذمت
249	حاجت پوری نہ ہونا بھی رحمت ہے	234	تدفین کے بعد نماز جنازہ
249	ایمان والا محبوب الہی ہے	235	مسجد کی خدمت کا انعام
249	امّت پر شفقت و کمال مہربان	236	ہر بھلائی صدقہ ہے
251	<b>حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ</b>	236	بارگاہ مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ
		237	سیدنا عمار بن یاسر کی خبر شہادت
251	اسلاف کی نظر میں مقام و مرتبہ	238	امّت کے سب سے بہتر لوگ
252	سیدنا سفیان ثوری علیہ السلام کی عقیدت	239	گستاخانہ شیخیں پر غضب مرتضوی
252	وصال مبارک پر آسمان والوں کی خوشیاں	240	عربی شعر کا سچا ترین مصرعہ
252	علم و تقویٰ کے جامع	240	حسن اخلاق کی عظیم ترین مثال
253	علماء کی وفات	240	بادشاہ مسجد جانے کی فضیلت
253	چارا فضل نوجوان	241	چار کبیرہ گناہ
254	خوف آخرت	241	خود داری کی برکت
254	وصال کے وقت خوف کی کیفیت	243	حج و عمرہ کا ثواب
255	یقین جیسا تنگ	243	جہنم سمٹ جائے گا
255	لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ	244	انفاق کی نشانیاں
255	تدلیس سے اجتناب	244	رضائے الہی کے لئے محبت کی فضیلت
256	بوقت اختلاف رہنا	244	شان غفاری کا ظہور
256	ہر شخص حدیث سننے کا اہل نہیں	245	ذکر کرنے والوں پر رحمتیں
256	کہیں ظلم و زیادتی نہ ہو جائے	245	تین بد بخت
257	سجدوں کی کثرت	246	خوابشات کے غلاموں کا حال
257	تعریف کرنے والے کو جواب	246	صابر و فقرا و مساکین کا انعام
257	علم و ادب کی خوبی	247	بہترین سفارشی
258	منصب قبول نہ کیا	247	مردار گدھے والی مجلس
259	ہر رات نصف قرآن کی تلاوت	248	سب سے افضل نماز

270	پودار رمضان باجماعت نماز کی فضیلت	259	لوگوں کے لئے طلب علم
271	گوشت کا بہترین حصہ	260	بہت بڑی ذمہ داری
271	غیب وان نمی عنی اللہ غیبہ وسلم	260	بد مذہب سے بیزاری
272	سجدے کا سنت طریقہ	261	والد کا ادب
272	بہترین بندے	261	ذکر اللہ کی برکت
273	غیر تابع علم کی مثال	261	ملاقات پر طواف کو ترجیح
273	جنت واجب کرنے والا عمل	262	غمنگین آواز سننے کا شوق
274	آخرت کے مقابلے میں دنیا	262	جنت و دوزخ کی سفارش
274	سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ	262	خود داری پانے کا نسخہ
275	بیمار کے لئے وعظہ نبوی	263	<b>نصیحت آموز اشعار</b>
275	کمبختی عہدہ نہ مانگنا	263	کم کھانا
275	ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے	263	سکون و قارروائی مجلس
276	اولیاء اللہ کی پہچان	264	ایک اعرابی کے اشعار
277	امام نماز مختصر پڑھائے	264	درک قناعت
278	مل کر کھانے میں احتیاط	265	خافلوں کو نصیحت
278	تشیہ کی تعلیم	265	جنازے میں اشعار
278	گناہوں کا کفارہ	265	گھر تو قبر ہی ہے
279	خوش نصیب مال دار	266	بیٹے کو نصیحت
279	توبہ مومن کو معطر کرے گی	267	مریض مریض کی عیادت کیسے کرے؟
280	والدین کی خدمت جہاد ہے	268	خود داری
280	ایک دعائے نبوی	268	حجام کی خدمت بلا عوض نہ لی
281	تہذیب کا احترام	269	<b>سیدنا مسقر بن کدام رحمۃ اللہ</b>
281	نماز میں شک ہو تو کیا کیا جائے؟		<b>نفاہی عنہ کی مرویات</b>
281	شفاعت سے محرومی	269	فضیلت عثمان بن ابی العاصی رضی اللہ عنہما
282	پانچویں نہ بنتا	270	میدان جنگ میں فرشتے
282	نماز چاشت کی فضیلت	270	والدین کا حق

295	رحمت خداوندی	282	برائےوں سے حفاظت کی دعا
295	ظالم حکمرانوں سے کیسا طرزِ عمل رکھیں؟	283	افضل نماز کون سی ہے؟
295	قیوتیت دعائیں جلد بازی کی ممانعت	284	خوف خدا کا حق
296	تکلیف میں بھی رحمت	284	فضل و رحمت کا سوال
296	والدین کا رتبہ	285	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوف خدا
296	جنت و دوزخ نگاہوں کے سامنے	286	والد کو پانی پلانے کا اجر
297	سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جنتی مقام	286	تسبیح چھوڑنے کا نقصان
297	چہرے پر مارنے کی ممانعت	287	تکبیرۃ اللہ میں نماز
298	زبانِ رُوحِ اللہ سے تفسیر بسم اللہ	288	امیر کی اطاعت کرو
299	انہائی نیکی کا صلہ	288	قرض اچھی طرح ادا کیجئے
300	اللہ غناؤں سے اچھا مکان رکھو	288	ادنی مسلمان بھی ذمہ دے سکتا ہے
300	عمل فرشتوں کا ثواب مومن کا	289	سب سے زیادہ نفع مند
301	انتہائی خاص رحمت	289	اہل عرب کی ہلاکت
301	جہنم سے جنت میں جانے والے لوگ	290	سب سے اوّلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی
301	قصد نماز چھوڑنے کا وبال	290	نمازوں کے بعد کا ایک ورد
302	حاجت پوری کر دی جاتی ہے	290	فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ
302	مشرق میں علما کا مقام و مرتبہ	291	نوجوان کو نصیحت
303	بسم اللہ شریف پر وہ ہے	291	عزت و شرف والی فصاحت
303	بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان	291	گھجور کھانے کے نمازِ عبید کو چاہنا سنت ہے
304	شان مولیٰ علی رضی اللہ عنہ	292	شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا
304	خراب کھجوریں نہ دیں	293	سب سے زیادہ بیماری بات
305	علم سیری کا نقصان	293	سوئے وقت کی دعا
305	مجاہد اسلام کی اہلیہ کا مقام	293	جنگ ایک دھوکا ہے
306	سیدنا آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری	293	خیر البریہ
306	ناموسِ مسلم کے دفاع کا انعام	294	دنیا میں جنت کا باغ
307	بوقتِ وصال خوف کی کیفیت	294	سورۃ ملک کی فضیلت

320	اہل عرب کی فضیلت	307	ایمان کا کمزور ترین درجہ
321	<b>حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ</b>	308	بے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم
		308	سیدنا عمرؓ زین اللہ کا جنتی محل
321	اصلاح والا علم	308	صفیں سیدھی رکھو
321	30 سال تک مجاہدہ	309	ختم قرآن کے موقع پر دعا
322	عقل بڑھنے پر رزق میں کمی	309	پارغاڑ کا عشق
322	توبہ کی امید اور لعنت کا ڈر	310	حرص اور امید
322	زندہ کون اور مردہ کون؟	310	شفاغیت مصطفیٰ
323	قرآن کریم سے محبت	310	دوسو سوں پر پکڑ نہیں
323	60 سال جو کی روٹی پر گزارا	311	قیامت بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی
323	دنیا سے بے رغبین صبر و شکر کا نام ہے	311	سب سے زیادہ روزی عمل
324	دنیا سے بے رغبین کی عظیم مثال	312	سب سے افضل کون؟
324	حکمت کو خالص ہونے سے بچاؤ	313	جھوٹی گواہی کا وبال
324	میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں	313	سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی
325	سیدنا علیؓ علیہ السلام کی نصیحتیں	314	گھر سے نکلنے وقت کی دعا
325	عالم کو کیا سبب بونا چاہئے؟	314	دم سے علاج
326	عالم ”لا آذری“ کہنا نہ چھوڑے	314	اذان کا جواب
326	قرض سے زیادہ سخت	315	نشر آور چیز کا حکم
327	دیہاتی کی مناجات	315	کون سا عمل سب سے افضل ہے؟
327	شاعر کی شہرت	316	اللہ عزوجل کے نام کی قسم
328	نصیحت آموز شاعری	317	بلند آواز سے تلاوت
330	مصائب کی ایک حکمت	317	اللہ عزوجل کی بندے سے محبت
330	تین آیات طیبہ کی تفسیر	318	ملفوظات سیدنا عمر فاروق زین اللہ
331	محبت قرآن محبت الہی ہے	318	بعض شعر حکمت ہیں
331	بدترین جگہ	319	ذکر اللہ کی فضیلت
331	مخلوق سے خیر خواہی کا درس	319	مسلمان کا قتل

349	عاجزی وانکساری	332	عزت مال سے بڑھ کر ہے
350	سیدنا فارق اعظم کا توکل و یقین کا عمل	333	مؤمنین کے لئے انبیاء کی دعائیں
351	اخلاقی خوبیاں لانے والے	334	عالمی تین اقسام
351	ذکر مصطفیٰ کی بلندی	335	بد مذہب کے لئے رسوائی ہے
352	حکایت: بیٹ میں چھپنے والا سانپ	335	حدیث کی عظمت
353	حکایت: حسن سلوک ضائع نہیں ہوتا	336	حکمت کیسے آتی ہے؟
355	خیر خواہی کی فضیلت	336	علماء کے زیادہ محتاج ہیں
356	مسائل بتانے میں احتیاط	336	نصیحتوں بھرے مدنی پھول
356	ترتیب احکام اور مسلمانوں کا عمل	337	سلام کرنے کا مطلب
358	دوستوں کے لئے نعت و دیدار	338	عقل مند کی توصفات
358	گمراہوں سے بچنے کی تلقین	338	عدل والے اور فضل والے
359	زہد کیا ہے؟	339	بندے کے لئے کون سی حالت افضل ہے؟
359	لذت و سرور کس کام میں ہے؟	340	نیکیوں کے ساتھ رہنے کی دعا
359	خیر خواہی کا جذبہ	340	اصل زندگی اور حقیقی بقا
360	اصلاح کرنے والے کا شکر یہ	340	نوجوان نفس کے ساتھ ہیں
360	احادیث و روایات کی تشریحات	342	نماز کی عزت و توقیر
362	ورع اور اس کی اقسام	342	علم عمل سے پہلے ہے
362	کافر مردے بھی سنتے ہیں	344	10 ہزار آوازیں
363	بولنے والا عالم افضل ہے	344	قناعت و رضا والے
363	عمیاش لوگوں کا شربت	344	احکام کون نافذ کر سکتا ہے؟
364	نگاہ نبوت کا اعجاز	345	دان تین ہی ہیں
364	سب سے افضل تین چیزیں	345	نعت کیوں دی جاتی ہے؟
364	بڑا انسان کون؟	346	شدید ترین حسرت والے
365	بیٹ المال کی سات حصوں میں تقسیم	347	گناہ غم میں مبتلا کرتا ہے
365	سیدنا ابو ورواء رضی اللہ عنہ کی افضل عبارت	347	جان پہچان کم رکھو
366	گور زری سے معزولی کی خواہش	348	کس عورت سے نکاح کیا جائے؟

382	بھلائی بھلائی کو لاتی ہے	366	افضل ترین بات
383	برکت والا مال	369	ایک دانہ کی نصیحت
384	صور چھو نکلے والا فرشتہ حکم کا منتظر ہے	369	آنسو نہ بہانا غم کو بڑھاتا ہے
384	سرکارِ رسول اللہ ﷺ کی عاجزی و انکساری	369	دین کی بلندی تک پہنچنے کی شرط
385	جنت کا مژدہ	370	مسلمانوں کی بھلائی پر خوشی
385	شرابی کو کوڑے لگائے	370	سیدنا خضر علیہ السلام تھے یا کوئی ابدال
385	مسجد کی تزئین و آرائش	371	اللہ عزوجل کا فرمان مردہ ہے
386	دعا سے پہلے عطا	371	ایک اعرابی کی بیماری دعا
387	داخل جنت کرنے والا عمل	372	پکی اینٹوں کا گھر
388	عاشق اکبر زین العابدین کے ایک دن کے اعمال	373	اضافی تعمیر پر سرزنش
388	صدیق اکبر زین العابدین کا نام	373	تین نصیحتیں، تین فائدے
389	حق آیا اور باطل مٹ گیا	374	علم کی فضیلت
389	شان صدیق اکبر	375	بڑی نعمت کون سی ہے؟
389	کمزور کی حق تلفی کا وبال	375	دنیا سے بے رغبتی یا محبت؟
390	قبیلہ اسلم و بنو نضار کی فضیلت	376	برٹشے میں عبرت
391	قبروں کو سجدہ گاد نہ بناؤ	376	آدمی سرپرست کب جٹا ہے؟
391	کم گوئی صحبت اختیار کرو	377	دنیا کی حیثیت
392	سب سے بڑی بیماری	377	سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرویات
392	کافر مسلم کا وارث نہیں	378	صحابی رسول کی صحبت اور چند احادیث
392	سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟	379	سیدنا غفر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنتی محل
394	حضرت سیدنا لیل بن سعد رضی اللہ عنہ	380	شوق جنت میں جان قربان
394	سوال سے بڑھ کر سخاوت	380	اللہ و رسول سے محبت
395	دعائے کرنے والے پر نوازشات	380	جان و دل تم پر نفا
397	کھانا کبھی اکیلے نہ کھایا	381	سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا جنتی رومال
397	جو دے دیا اسے واپس نہ لیا	381	ادنیٰ جنتی کا علیٰ مقام

414	<b>حضرت سیّدنا داؤد بن نصیر</b>	398	کبھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی
	<b>طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ</b>	398	باپ پیدا دونوں سخی
414	سوت کی فکر	399	فہم و فراست سے مسئلہ طلاق کا حل
415	پہلے فقیر پھر عالم پھر عابد	401	<b>سیّدنا ایبٹ بن سعد علیہ رحمۃ</b>
415	داؤد طاہی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کا اعتراف		<b>اللہ الاخذکی مرویات</b>
418	عظیم شان کے مالک	402	خاتونِ جنت کا مقام و مرتبہ
419	کتکھی کرنے کی فرصت نہ ہوتی	402	فجر و عصر میں قریشوں کی حاضری
419	فضائل پر لوگوں کی گواہی	403	قبلہ رو پیشاب کرنے کی ممانعت
420	تذکرہ جنہم سے بیماری و موت	404	سمنہ رکے جھاگ برابر گناہوں کی بخشش
421	نزع کی شدت	405	<b>حضرت سیّدنا علی و حضرت</b>
421	جنازے میں لوگوں کی کثرت		<b>سیّدنا حسن رحمۃ اللہ علیہما</b>
421	عمل کب کرے گا؟	405	رات کو عبادت میں تقسیم کرنے والا گھرانہ
422	سال بھر گفتگو میں حصہ نہ لیا	406	خوف و خشیت
422	لوگوں سے دوری میں شدت	406	خواہش کے باوجود چھپلی نہ کھائی
423	گوشہ نشین کے ساتھ پابندی جماعت	406	حقوق العباد کی فکر
424	وحشت دور کرنے والی وحشت	407	زبان اور روع و تقویٰ
424	تین کے لئے تین کافی	407	جان لیوا زخم کا علم بھی نہ ہونے دیا
425	زاہدین کی نشانی	408	خوف کی شدت
425	زاہد کون؟	409	ایچھے اور بُرے عمل کے اثرات
426	ایک رات داؤد طاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ	410	<b>سیّدنا علی و سیّدنا حسن</b>
427	برونِ سامانِ آخرت تیار کرو		<b>رحمۃ اللہ علیہما کی مرویات</b>
427	مستحقین کی صحبت کا فائدہ	410	ڈسکے اجروالے لوگ
427	آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی معاملات	411	اُعلیٰ خانہ کی اصلاح
429	گھر کی حرمت نہ کرواتے	411	نمبر نبوت
429	20 سالوں کے لئے 20 دینار	412	عورتوں کو مسجد نہ جانے کا حکم کیوں؟
430	مختصر سلاز و سامان	412	امام کے پیچھے تلاوت کی ممانعت
430	نیچیف و کمزور ہونا	413	مالِ مسلم کی حرمت



445	شدتِ غم	430	آپ زینۃ اللہ علیہ کا جو دو کرم
445	نصو لیا ت سے احتیاط	431	کھانے پینے میں سادگی
446	ادب یاد دلانے والے کو دعا	431	64 سال عورتوں سے صبر
447	<b>سیدنا داود طائی رحمۃ اللہ</b> <b>تعالیٰ علیہ کی مرویات</b>	431	نفس کے زبردست محاسب
		432	اپنے وصال تک ٹھک نہیں چکھا
447	بلا ضرورت سوال کی مذمت	432	گاجر اور کھجور نہ کھانے کی قسم
448	بہترین علاج	433	کبھی کھجور نہیں کھاؤں گا
448	قابلِ رشک لوگ	433	روٹی گھولی کر پینے کی حکمت
449	اہلِ یمن کی فضیلت	433	قیموں سے خیر خواہی
449	امّت کے لئے خاص دعا	435	فضولِ نظری سے اجتناب
449	ممنوع سرگوشی	437	غیر مت مندی کا زبردست مظاہرہ
450	سب سے زیادہ خسارہ پانے والے	438	بلا عوض خدمت قبول نہ کی
450	تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے	438	بے حودت عابد نہیں ہوتا
451	افضل مسلمان	438	راحت کے لئے دھوپ لینا پسند نہیں
451	سجدے میں اعتدال	439	دنیا قید خانہ اور موت رہائی ہے
451	اہلِ جنت کا کھانا پینا	440	مردے منتظر ہیں
452	کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ زندگی	440	نکاح نہ کرنے کی وجہ
453	زیارتِ قبور کی اجازت	440	آپ زینۃ اللہ علیہ کی شب بیداری
453	<b>حضرت سیدنا ابراہیم بن</b> <b>ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاخرم</b>	441	تیری اوقات ایک درہم کے برابر بھی نہیں
		442	دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں
454	بادشاہی سے درویشی تک	442	عظیم نصیحت
456	حلال روزی کا ہتنام	443	حکام کی قربت کے خطرات
456	ایک رات ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ	443	نماز میں یکسوئی
457	اصلِ راحت تو اللہ والوں کی ہے	443	نبیِ چراغ
458	جنت میں عمدہ مقام کے طالب	444	تعریف پر ردِ عمل
458	بزرگوں کی دعا سے حسن ظن	444	غلطی آگے نہ بڑھائی جائے

479	رقم گم ہو جانے پر شکر	459	تقویٰ سے شخصیت کی پہچان
480	طویل سفر کے باوجود پاؤں کو آرام نہ دیا	459	کام میں ذمہ داری کا مظاہرہ
480	برف باری میں نفس کو سزا	460	کام کا ج میں لوگوں کی مدد
480	ایک رات میں 50 گتھ زمین کی کٹائی	461	رزق حلال کے لئے ہجرت
481	شاہوں کو نہ ملا ہمیں مل گیا	461	آپ زحمة اللہ علیہ کے ساتھ سفر کی رودار
481	تاریک دنیا کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ	463	کمزور کسانوں سے تعاون
482	زہد سے بھرپور جہاد	463	توکل و غنا کی داستان
483	کمزوروں اور فقرا سے اچھا سلوک کرو	468	پورا رمضان نہ سوئے
483	دعوت میں احتیاط و دانش مندی	468	ہر رات لیلۃ القدر
484	دعوت میں کم کھایا	468	ذمہ ناکام، آدھی اُہرت
486	کھانے کے آداب	469	قالموں کو راستہ نہ بتایا
486	درک مسادات	470	شجاعت و بہادری
487	فضول نظری سے اجتناب	470	اعلیٰ درجے کی احتیاط
487	کرامت: جانوروں کا اطاعت کرنا	470	کوئی تمہیں فقیر نہ سمجھے لے
488	مال دار بھی فقیر	471	وطن کی محبت
489	دین کے عوض انجیر نہیں خریدتے	471	گزشتہ و آئندہ پر افسوس نہیں
489	جو کھا وہ ہو گیا	471	آپ زحمة اللہ علیہ کی عاجزی
489	چار چیزوں سے اجتناب	472	منی کھا کر گزارو کرنے والے
490	حکایت: پیر اسرار ساتھی کا پیر اسرار تھیلا	472	عظیم الشان خیر خواہی
491	ہر سال صحابی جن سے ملاقات	473	لوگوں کی مدد کا جذبہ
492	تصنوف کی تعریفات	473	ادھار لے کر مدد فرمائی
493	مُتَبَلِّغِین کے لئے فہرست	474	اپنی حقیقت چھپانے کا اجتناب
500	متروکہ عبارات	475	دنیا سے بے رغبتی
501	تفصیلی فہرست	475	تحفے کے بدلے تحفہ
518	ماخذ و مراجع	476	حیدرہ ایثار و خدمت خلق
523	الْبَيْتَةُ الْعَيْنِيَّةُ کی مطبوعہ کتب	477	لذیذ کھانا نہ کھایا
...	...	478	خیر خواہی اور خود داری

## ماخذ و مراجع


قرآن پات	کلام ربی تعالیٰ	✦✦✦✦✦
نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
ترجمہ کنزالایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان: رسة الله عليه متوفى ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۳ھ
تفسیر طبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری: رسة الله عليه متوفى ۳۲۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۳۰ھ
تفسیر القرطبی	علامۃ ابو عبد الله بن احمد انصاری قرطبی: رسة الله عليه متوفى ۴۷۰ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
تفسیر ابن کثیر	حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی شافعی: رسة الله عليه متوفى ۳۲۷ھ	مکتبۃ دار مصطفیٰ البازیریاض
سراج الجنان	ابو الصالح عقی محمد قاسم قادری مدظلہ	مکتبۃ المدینۃ
صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری: رسة الله عليه متوفى ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۹ھ
صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری: رسة الله عليه متوفى ۲۶۱ھ	دار ابن جریر ۱۴۱۹ھ
سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوی ابن ماجہ: رسة الله عليه متوفى ۲۴۱ھ	دار البیروت ۱۴۲۰ھ
سنن ابی داود	امام ابو داود سليمان بن اشعث سجستانی: رسة الله عليه متوفى ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
سنن الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی: رسة الله عليه متوفى ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن النسائی	امام احمد بن شعيب نسائی: رسة الله عليه متوفى ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۲ھ
صحیح ابن خلیفہ	امام ابوبکر محمد بن اسحاق بن خلیفہ شافعی: رسة الله عليه متوفى ۳۱۱ھ	المکتبۃ الاسلامیۃ ۱۴۱۲ھ
سنن کبیری	امام احمد بن شعيب نسائی: رسة الله عليه متوفى ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۱ھ
سنن الدارمی	امام عبد الله بن عبد الرحمن دارمی: رسة الله عليه متوفى ۲۵۵ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۰۰ھ
البتدرک	امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم: رسة الله عليه متوفى ۴۰۵ھ	دار البیروت ۱۴۱۸ھ
البتدرک	امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل: رسة الله عليه متوفى ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
البتدرک	امام حافظ سليمان بن داود طبرانی: رسة الله عليه متوفى ۳۰۴ھ	دار البیروت ۲۰۰۴ھ
البتدرک	امام ابو یوسف احمد بن یحییٰ موصلی: رسة الله عليه متوفى ۳۰۷ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
البتدرک	امام ابوبکر احمد بن عمرو بزار: رسة الله عليه متوفى ۲۵۶ھ	مکتبۃ العلوم والحکم ۱۴۲۴ھ
البتدرک	امام حافظ حارث بن ابی اسامہ: رسة الله عليه متوفى ۲۸۴ھ	المکتبۃ المنورۃ ۱۴۱۳ھ
مسند الشامیین	حافظ سليمان بن احمد طبرانی: رسة الله عليه متوفى ۳۲۰ھ	مؤسسۃ الرسالۃ ۱۴۰۹ھ
البتدرک	ابو الحسن علی بن النعمان بن عبد الجوهري البغدادي: رسة الله عليه متوفى ۲۴۰ھ	مؤسسۃ خاور ۱۴۱۰ھ
البتدرک	امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعی: رسة الله عليه متوفى ۲۴۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت

انصہد	امام جنیل انی عوانہ یعقوب بن اسحاق اسحاقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۶ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۹ھ
مسند الشہاب	حافظ ابوعبد اللہ محمد بن سلامہ بن جعفر قضایہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۳ھ	مؤسسۃ الرسالہ ۱۴۰۵ھ
السند	امام حافظ ابومحمد عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۲۹ھ	عالم الکتب بیروت ۱۴۱۸ھ
السند	امام ابوعبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۸۱ھ	مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۷ھ
السند	امام ابویوسف عبد اللہ بن زبیر بن شہر بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۹ھ	دار السقاہ دمشق ۱۹۹۶ء
مجمع الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیشی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۰۷ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
البحث والنشر	امام ابویوسف محمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	مرکز البحوث والاعیاء الشامیۃ
جامع الاحادیث	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ
الجامع الصغیر	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۳۵۵ھ
جامع الجوامع	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۳۲۱ھ
معرفة السنن والآثار	امام ابویوسف محمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۲ھ
المصنف	حافظ عبد اللہ محمد بن ابی شعیبہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
المصنف	امام حافظ ابویوسف عبد اللہ بن زبیر بن شہر بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
المعجم الصغير	حافظ سفیان بن أحمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۰۳ھ
المعجم الاوسط	حافظ سفیان بن أحمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۰ھ
المعجم الكبير	حافظ سفیان بن أحمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار اعیان القرآن العربی ۱۴۲۲ھ
مکارم الاخلاق	حافظ سفیان بن أحمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
مشكاة المصابيح	ولی الدین ابوعبد اللہ بن محمد الخطیب الشریزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۳ھ
الموسوعة	ابویوسف محمد بن احمد بن عیسیٰ بن ابی النضر رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ العصریۃ ۱۴۲۶ھ
التاريخ الكبير	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۲ھ
الزهد	امام ابوعبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ
الزهد	امام ابو داود سفیان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۷۵ھ	دار المشکاة ملون مصر ۱۴۱۳ھ
الزهد	امام احمد بن ابی بکر بن عمرو بن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۴۷ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۰۸ھ
ابن حبان	امام حافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
شعب الايمان	امام ابویوسف محمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
السنن الكبرى	امام ابویوسف محمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۳ھ

مسند فردوس	حافظ شہزادہ بین شہزادہ بن شہزادہ دہلی رحمة اللہ علیہ متوفی ۵۰۹ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۶ھ
فتح الباری	امام شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمة اللہ علیہ متوفی ۸۵۲ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۵ھ
فتح الباری	حافظ زین الدین ابن الفراء ابن رجب حنبلی رحمة اللہ علیہ متوفی ۷۴۶ھ	مکتبۃ الفریاء الاشرفیہ ۱۴۱۷ھ
مرقاۃ المفاتیح	علامہ ملا علی قاری رحمة اللہ علیہ متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الفکر بیروت
حدیث ابن الفضل الزہری	ابو محمد حسن بن علی جوہری رحمة اللہ علیہ متوفی ۳۵۳ھ	اضواء السلف ریاض ۱۴۱۸ھ
فیض القدر	علامہ محمد عبد الرؤف متاوی رحمة اللہ علیہ متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
شرح صحیح مسلم	محبی الدین ابو کریم یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمة اللہ علیہ متوفی ۶۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۱ھ
ابن عساکر	حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر شافعی رحمة اللہ علیہ متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ
الکامل فی شعفاء الرجال	امام ابو اسد عبد اللہ بن علی بن عیسیٰ حرملی رحمة اللہ علیہ متوفی ۳۶۵ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
تہذیب التہذیب	امام شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمة اللہ علیہ متوفی ۸۵۲ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ
طبقات ابن سعد	محمد بن سعد ہاشمی رحمة اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
تاریخ بغداد	حافظ احمد بن علی بن ثابت غیبی بغدادی رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۶۳ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ
تاریخ المدینۃ المنورۃ	ابو یوسف یسیر بن شہنشاہ بنصری رحمة اللہ علیہ متوفی بعد ۲۶۴ھ	دار الفکر ۱۴۱۰ھ
الخصائص النعمانی	ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر حبشی رحمة اللہ علیہ متوفی ۹۷۷ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۳ھ
الروائع القشیریۃ	ابو القاسم عبد الکریم ہوازی قشیری رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۶۵ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
امیاء العنوم	حماد الاسلام امام ابو اسد محمد بن محمد ثنائی رحمة اللہ علیہ متوفی ۵۰۵ھ	دار صادر بیروت
کتاب صفۃ الجنة	ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد حبشی مقدسی رحمة اللہ علیہ متوفی ۶۴۳ھ	دار ہنسیہ ریاض ۱۴۴۳ھ
الاحادیث المختارۃ	ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد حبشی مقدسی رحمة اللہ علیہ متوفی ۶۴۳ھ	دار عشر بیروت ۱۴۴۱ھ
معرفۃ الصحابة	امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اسماعیلی رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
سنن الدارقانی	امام ابو الحسن علی بن عیسیٰ دارقانی رحمة اللہ علیہ متوفی ۳۵۸ھ	ملتان پاکستان
اخلاق النبی وآدابہ	عبد اللہ بن محمد البغوی قسبانی الشافعی رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۶۹ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۸ھ
نقائش	امام حافظ ابو تمام محمد بن حبان رحمة اللہ علیہ متوفی ۳۵۳ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ
انشقاق المشرق	حافظ محمد بن علی بن ثابت غیبی بغدادی رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۶۳ھ	دار القادری ۱۴۱۷ھ
تاریخ اسماء	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اسماعیلی رحمة اللہ علیہ متوفی ۴۳۰ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۰ھ
شرح السنۃ	امام ابو محمد یحییٰ بن سعید دہلوی رحمة اللہ علیہ متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
شرح مسند ابن حنیفۃ	علامہ قاری علی بن سلطان حنفی رحمة اللہ علیہ متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت

تہجد الفجر	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	مشکاۃ الاسلامیہ
شرح سنن ابی داود	ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بن الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۵۵ھ	مکتبۃ الرشیدیہ ریاض ۱۴۲۰ھ
المجالسۃ وجواهر العلم	علامۃ ابوبکر احمد بن مردانہ وینوری مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۳۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
البحر النوار	امام ابوبکر احمد بن عبد اللہ بن عبد الخالق عتقی یزید رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۹۶ھ	مکتبۃ العلوم العربیہ الحکم ۱۴۲۲ھ
طب النبوی	حافظ ابونعیم احمد بن عبد اللہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۰۳ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۲۳ھ
سیرۃ الحبلیۃ	ابوالفرج ہندو الدین بن ابی ابراہیم حلبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۳۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۴ھ
شرح الغیث	امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبد اللہ طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۳۳ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۴ھ
جامع الاصول	امام محمد الدین مبارک بن محمد بن ابی جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
قوت القلوب	امام ابوطالب محمد بن علی بن دینار رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۸۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۶ھ
شرح مشکلی الآثار	ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامۃ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۳۹ھ	مؤسسۃ الرسالۃ ۱۴۱۵ھ
انقذہ	شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۵۲ھ	مکتبۃ البیتین پاکستان
الموسوعات	امام ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۹۷ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ
بشارۃ المحبوب بتکلیف الذنوب	وجہ الدین عبدالرحمن بن خلیل اوزاعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۶۹ھ	المکتبۃ القرآن قاہرہ مصر
حاشیۃ السنن علی ابن ماجہ	امام ابو حسن عتقی المعروف بپسندی رحمت علیہ متوفی ۱۱۸۸ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
الشہادۃ فی غریب الحدیث والاکثر	امام محمد الدین مبارک بن محمد بن ابی جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۲۰۱۱ھ
شرح الزرقانی علی البوطا	محمد بن عبد اللہ الباقی بن یوسف ذرقانی مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۲۲ھ	دار احیاء التراث العربیۃ ۱۴۱۷ھ
نفوائد	امام ابوالقاسم تہامی بن محمد زازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۱۶ھ	مکتبۃ الرشید ۱۴۱۶ھ
میزان الاعتدال	امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۸ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
بحر الکلام	امام ہیثم بن محمد نسفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۰۸ھ	مکتبۃ دار الفکر ۱۴۲۱ھ
المنتقى من منهاج الاعتدال	امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۸ھ	الخاصۃ العامۃ ۱۴۱۳ھ
شرح عقائد نسفیۃ	محمد الدین مسعود بن عمر قفاز زازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۳۳ھ	مکتبۃ البیتین پاکستان
الدور المختار	علامۃ علاء الدین محمد بن علی مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
رد المختار	علامۃ سید محمد امین بن عربی بن عبد اللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۲ھ
الفتاویٰ الہندیۃ	علامۃ شیخ نظام رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۱۱ھ وجہۃ من علماء الهند	دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ
فتاویٰ خانہ	علامۃ قاضی حسن بن منصور بن محمود اوزجندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۹۲ھ	پشاور پاکستان
نہدی مزیہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان

نزیہ القاری	علامہ مفتی محمد شریف نقی امجدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	برکاتی چٹھرا ڈھاد اور کراچی
بہار شریعت	صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی نقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۶۶ھ	کتبۃ المدینہ
قادی فیض الرسول	فتویٰ ملت مفتی جمال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۲ھ	شعبہ رازدارانہ اور
مراقبات صحیح	حکیم الامت مفتی محمد یار خان نقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۹۱ھ	نیوا، اتر آن پبلی کیشنز لاہور
تعارف فقہ و تصوف	شرف اہل سنت علامہ محمد عبدالعظیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ	انسٹانز پبلی کیشنز لاہور ۱۳۴۰ھ
رفیق الحرمین	شیخ طریقت امیر اہلسنت ابو یوسف محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدغلہ	کتبۃ المدینہ



## چھ انمول اقوال

حضرت سیدنا یزید ابن میرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: (۱)۔ جب کوئی شخص منہ پر تمہاری تعریف کرے تو اسے تسلیم نہ کرو بلکہ غصے کے ساتھ تاپہ بند یہ گی کا اظہار کرو اور بارگاہ الہی میں دعا کرو کہ اے اللہ ﷻ! جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس پر میری پکڑ نہ فرما اور جو کچھ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے اس کی بخشش فرما دے۔ (۲)۔ اللہ ﷻ! جو تم پر جو حق ہے پہلے اسے پورا کرو اور جو تمہارے لئے مناسب نہیں وہ اللہ ﷻ سے جاننے کی کوشش مت کرو۔ (۳)۔ اے اللہ ﷻ! ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، موت کا ذکر ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ (۴)۔ اے لوگو! غور کرو کہ آج تم کہاں ہو اور کل کہاں ہو گے؟ آج تم گھروں میں باتیں کرتے ہو اور کل قبروں میں خاموش پڑے ہو گے، شکر گزار اور نیک لوگوں کے لئے خوشخبری ہے۔ (۵)۔ اے غافل! تم مردوں کو قبروں میں اتارتے ہو اور وہ کہتے جاتے ہیں: ”ہلاکت ہو تمہاری، کل تم بھی ہماری طرح ہو گے۔“ (۶)۔ اے نفس! تو نے دنیا میں جو دیکھا اور جو نہیں دیکھا اور وحوں کی طرح ہے جو چلی جاتی ہیں اور اپنا اثر نہیں چھوڑتیں یا کو لھو کے تیل کی طرح ہے جو ایک دائرے کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء، ۳۱۰، بیروت: مکتبۃ المدینہ، ۱۴۲۵ھ، ۲۷۹: ۲۸۰)

## مجلس المدینۃ العلمیہ اور دیگر مجالس کی طرف سے پیش کردہ 451 کتب و رسائل

### ﴿شعبہ فیضانِ قرآن﴾

- 01... تفسیر صراط الجنان جلد: 1 (کل صفحات: 524)
- 02... تفسیر صراط الجنان جلد: 2 (کل صفحات: 496)
- 03... تفسیر صراط الجنان جلد: 3 (کل صفحات: 573)
- 04... تفسیر صراط الجنان جلد: 4 (کل صفحات: 592)
- 05... تفسیر صراط الجنان جلد: 5 (کل صفحات: 617)
- 06... تفسیر صراط الجنان جلد: 6 (کل صفحات: 717)
- 07... تفسیر صراط الجنان جلد: 7 (کل صفحات: 619)
- 08... تفسیر صراط الجنان جلد: 8 (کل صفحات: 674)
- 09... تفسیر صراط الجنان جلد: 9 (کل صفحات: 619)
- 10... تفسیر صراط الجنان جلد: 10 (کل صفحات: 899)
- 11... معرفۃ القرآن جلد: 1 (پارہ 1: 5۴۱، کل صفحات: 404)
- 12... معرفۃ القرآن جلد: 2 (پارہ 2: 10۴، کل صفحات: 376)
- 13... معرفۃ القرآن جلد: 3 (پارہ 3: 15۴، کل صفحات: 407)
- 14... معرفۃ القرآن جلد: 4 (پارہ 4: 20۴، کل صفحات: 404)

### ﴿شعبہ فیضانِ حدیث﴾

- 01... فیضانِ ریاض الصالحین جلد: 1 (کل صفحات: 656)
- 02... فیضانِ ریاض الصالحین جلد: 2 (کل صفحات: 688)

### ﴿شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت﴾

### اردو کتب:

- 01... ربوہ امیں خرچ کرنے کے فضائل (راڈ الفخط والوایا بدعوۃ الجنان ومواساة الفقراء) (کل صفحات: 40)
- 02... کرلی نوٹ کے شرعی احکامات (کفر النقیض الفہام فی اشکام فی مجلس الذراہم) (کل صفحات: 199)
- 03... فضائل دعا (اُستنبط الایمان لاداب الدُعاء مفعۃ کثیر المذہب عامۃ بخسن الوعداء) (کل صفحات: 326)
- 04... حمیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وشاء الجنۃ فی تغلیب معارفہ العین) (کل صفحات: 55)
- 05... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (المنقوۃ لیسۃ الحقوق) (کل صفحات: 125)
- 06... حدائق بخشش (کل صفحات: 446)
- 07... معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تفسیر صحیح تفسیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 08... اَلْوَلَدُ عِنْدَ الْکَرِیْمَةِ (کل صفحات: 46)
- 09... الملقوۃ المعروفہ بملفوظات اعلیٰ حضرت (کمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 10... فیضانِ خطبات رضویہ (کل صفحات: 24)
- 11... شریعت و طریقت (مقالہ عرفاء پانچواں شمارہ و مخطبات) (کل صفحات: 57)
- 12... ریاض پاک حقیقۃ الاسلام (کل صفحات: 37)
- 13... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (افہام النسخ الجلی) (کل صفحات: 100)
- 14... اعتقاد والا حجاب (دس حصے) (کل صفحات: 200)
- 15... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شریح) (الایاتوۃ الذیہیۃ) (کل صفحات: 60)
- 16... کفر الایمان مع خزائن القرآن (کل صفحات: 1185)
- 17... حقوق العباد کیسے معاف ہوں؟ (مفتی ابنِ عثامہ) (کل صفحات: 47)
- 18... ایمان کی پیمان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 19... ثبوت ہلال کے طریقے (ملفوظات رضویہ) (کل صفحات: 63)
- 20... اولاد کے حقوق (مفتی ابنِ عثامہ) (کل صفحات: 31)

### عربی کتب:

- 21... جَدِّ الْبَشَرِ عَلٰی رَدِّ الْفِتْنَةِ (سات جلدیں) (کل صفحات: 4000)
- 22... الْبَرَاءَةُ الْفَتْوٰیۃ (کل صفحات: 93)
- 23... اجلیٰ الزعماء (کل صفحات: 70)



- 24...الْإِهْلَاءُ النَّبِيِّ (کل صفحات: 62) 25...إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60) 26...كَيْفُ الْقَبْرِ الْقَدِيمِ (کل صفحات: 74)  
27...تَهْنِئَةُ الْإِيمَانِ (کل صفحات: 77) 28...الْفُضْلُ النَّبَوِيُّ (کل صفحات: 46) 29...الشَّيْخُ النَّبَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْخَارِ (کل صفحات: 458)

### ﴿شعبہ تراجم سب﴾

- 01...سایہ عرش کس کس کو ملے گا۔۔۔؟ (تہنید الفرش فی البصالی النوبیة لظن العرش) (کل صفحات: 88)  
02...دلی آقا کے روشن فیصلے (النباه فی حکم الیقین علی اللہ علیہ وسلم بالناطین و الظاہر) (کل صفحات: 112)  
03...نیکوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (فَرْقُ الْفَاسِقِیْنَ وَ الْمُقَرَّبِ الْقُلُوبِ النَّحْوِیْنَ) (کل صفحات: 142)  
04...نصیحتوں کے دلی پھول بوسیلہ احادیث رسول (الْمَوْاعِظُ الْأَخَوِیَّةُ الْقُدْسِیَّةُ) (کل صفحات: 54)  
05...جنت میں لے جانے والے اعمال (التَّشْوِیْخُ الرَّابِعُ فِی شَوَابِ الْعَمَلِ الشَّالِحِ) (کل صفحات: 743)  
06...جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 1) (الْوَدَّاعِیْنَ اخْتَرَابِ الْکِتَابِ) (کل صفحات: 853)  
07...جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 2) (الْوَدَّاعِیْنَ اخْتَرَابِ الْکِتَابِ) (کل صفحات: 1012)  
08...امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اذکار کی وصیتیں (وَصَاوِیَا مَامِ اعْلَمَ عَلَیْہِ الرَّسُولُ) (کل صفحات: 46)  
09...دین و دنیا کی انوکھی باتیں (الْمُسْتَشْرِفُ فِی کُلِّ فَنٍّ مُسْتَشْرِفٌ، جلد: 1) (کل صفحات: 552)  
10...اصلاح اعمال (جلد: 1) (الْحَدِیْقَةُ الدِّیْنِیَّةُ مَنَاطُ یَقَیْنَةِ الْمُحَدِّثِیَّةِ) (کل صفحات: 866)  
11...مختصر مہربان العابدین (تَشْیِیْخَةُ الْعَالَمِیْنَ مُنْقَضَرٌ مِنْهَا الْعَابِدِیْنَ) (کل صفحات: 281)  
12...نیکوں کی دعوت کے فضائل (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْكَرِ) (کل صفحات: 98)  
13...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 1) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 896)  
14...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 2) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 625) 15...شرح الطہور (ترجمہ) (کل صفحات: 572)  
16...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 3) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 580) 17...76 کبیرہ گناہ (الکبائر) (کل صفحات: 264)  
18...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 4) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 510) 19...قوت القلوب (ترجمہ جلد: 1) (کل صفحات: 826)  
20...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 5) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 571) 21...قوت القلوب (ترجمہ جلد: 2) (کل صفحات: 784)  
22...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 6) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 586) 23...عین کو نصیحت (عَیْنُ النَّصِیْحَةِ) (کل صفحات: 64)  
24...اللہ والوں کی باتیں (جلد: 7) (حِلَّةُ الْأَدَبِ وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِیَاءِ) (کل صفحات: 531) 25...آسموں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوءِ) (کل صفحات: 300)  
26...فیضانِ مزارات اولیاء (مَشْفُوعُ الْخُورِ عَنْ أَحْبَابِ التَّوْبِیْرِ) (کل صفحات: 144) 27...تَحْسِینُ اخْلَاقٍ (مَنْکَرُ الْإِفْلَاقِ) (کل صفحات: 102)  
28...دنیا سے بے رشتہ اور امیدوں کی کمی (الْمُحَدِّثُ وَ قَدْرُ الْأَمَلِ) (کل صفحات: 85) 29...152 رحمت بھری حکایات (کل صفحات: 326)  
30...عاشقانِ حدیث کی حکایات (الْمُحَدِّثُ فِی طَلَبِ الْحَدِیْثِ) (کل صفحات: 105) 31...آدابِ دین (الْأَدَبُ فِی الدِّیْنِ) (کل صفحات: 63)  
32...احیاء العلوم (جلد: 1) (احْیَاءُ عُلُومِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1124) 33...شاہرہ اولیاء و مشہورہ العارفین (کل صفحات: 36)  
34...احیاء العلوم (جلد: 2) (احْیَاءُ عُلُومِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1393) 35...حُیُوتُ الْحِکَايَاتِ (ترجمہ حصہ اول) (کل صفحات: 412)  
36...احیاء العلوم (جلد: 3) (احْیَاءُ عُلُومِ الدِّیْنِ) (کل صفحات: 1290) 37...حُیُوتُ الْحِکَايَاتِ (ترجمہ حصہ دوم) (کل صفحات: 413)

- 38... احیاء العلوم (جلد: 4) (اختیار غنیم الدین) (کل صفحات: 911)  
 40... احیاء العلوم (جلد: 5) (اختیار غنیم الدین) (کل صفحات: 814)  
 42... ایک فہم سے (حسن الشنت فی الشنت) (کل صفحات: 37)  
 44... علم (تعلیم المتعلم فربیع العلم) (کل صفحات: 102)  
 46... حاشیہ اور تفسیر (الرد فی الفائق) (کل صفحات: 649)  
 39... احیاء العلوم کا خلاصہ (نہج الإختیار) (کل صفحات: 641)  
 41... شکر کے نفاک (الشنر للہ عز وجل) (کل صفحات: 122)  
 43... اچھے برے عمل (رسالة النور الحکمة) (کل صفحات: 122)  
 45... فیضان علم (افضل العیون والفتاویٰ) (کل صفحات: 38)  
 47... بہار نیت (نہج النیت) (کل صفحات: 159)

### شعبہ دینی کتب

- 01... دیوان المتنبی مع الحاشیة المفیدة اقتان الملتقى (کل صفحات: 104)  
 03... الجلالین مع حاشیة انوار الحرمین المجلد الاول (کل صفحات: 400)  
 05... الجلالین مع حاشیة انوار الحرمین المجلد الثانی (کل صفحات: 374)  
 07... ریاض النصاریین مع حاشیة منهاج العارفين (کل صفحات: 124)  
 09... شرح منة عامل مع حاشیة الفرح الکامل (کل صفحات: 147)  
 11... تلخیص الفتاویٰ مع شرح جدید تیسرے المجلد (کل صفحات: 229)  
 13... منتخب الایوب من احیاء علوم الدین (عربی) (کل صفحات: 178)  
 15... دیوان الحساسة مع شرح اقتان الفراسة (کل صفحات: 325)  
 17... قصيدة البردة مع شرح عسيدة الشهادة (کل صفحات: 317)  
 19... التعليق الرضوی عن صحیح البخاری (کل صفحات: 458)  
 21... مرآة الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح (کل صفحات: 182)  
 23... شرح العقائد مع حاشیة جدید الفرائد (کل صفحات: 385)  
 25... نور الانفس مع حاشیة النور والفساد (کل صفحات: 392)  
 27... الاربعین النووية فی الاحادیث النبوية (کل صفحات: 155)  
 29... شرح الجانی مع حاشیة الفرح النای (کل صفحات: 429)  
 31... هداية النجوم مع حاشیة عنایة النور (کل صفحات: 288)  
 33... اصول الشافعی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 306)  
 35... منہج عامل منظوم (فارسی مع ترجمہ و تفسیر) (کل صفحات: 28)  
 37... مقدمة الشيخ مع التحفة السرفیة (کل صفحات: 117)  
 39... فیض الادب (کامل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)  
 41... دروس البلاغة مع شمس البداعة (کل صفحات: 242)  
 43... نخبة الفکر مع شرح منة النظرة (کل صفحات: 175)  
 02... کتاب العقائد (کل صفحات: 64)  
 04... الحق البیین (کل صفحات: 131)  
 06... فیضان سورہ نور (کل صفحات: 128)  
 08... نصاب النحر (کل صفحات: 285)  
 10... فیضان تجوید (کل صفحات: 161)  
 12... نصاب المنطق (کل صفحات: 161)  
 14... نصاب الادب (کل صفحات: 200)  
 16... انوار الحديث (کل صفحات: 466)  
 18... نصاب التجوید (کل صفحات: 85)  
 20... تعریفات حدیثیہ (کل صفحات: 53)  
 22... شرح مائة عامل (کل صفحات: 38)  
 24... نصاب الصرف (کل صفحات: 352)  
 26... غنائے راشدین (کل صفحات: 352)  
 28... الحادثة العریبة (کل صفحات: 104)  
 30... نصاب اصول حدیث (کل صفحات: 95)  
 32... تلخیص اصول الشافعی (کل صفحات: 144)  
 34... الکافیہ مع شرح ناجیہ (کل صفحات: 259)  
 36... خاصیات ابواب الصرف (کل صفحات: 141)  
 38... تیسرے مصطلح الحديث (کل صفحات: 194)  
 40... خلاصہ النور (حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 214)  
 42... قصیدہ وردہ رستم روحانی علاج (کل صفحات: 22)  
 44... شرح الفقه الاکبر (نقداری) (کل صفحات: 231)

46۔ الرقاعۃ مع حاشیۃ الشکاوہ (کل صفحات: 106)

45۔ صرف بہائی مع حاشیہ حرف بنائی (کل صفحات: 64)

47۔ نحو میر مع حاشیہ نحو میر (کل صفحات: 205)

### ﴿شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ﴾

01۔ قسط 2: مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)

02۔ قسط 8: سرکار منی: لفظ خدا علیہ وجہ و سلم کا انداز تلفظ دین (کل صفحات: 32)

03۔ قسط 16: نیکیاں چھپاؤ (کل صفحات: 108)

04۔ قسط 5: گوگے بہروں کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 25)

05۔ قسط 6: جنتیں کی زبان (کل صفحات: 31)

06۔ قسط 18: تجویز ایمان و تجویز نکاح کا آسان طریقہ (کل صفحات: 27)

07۔ قسط 10: تبارک اللہ کی پہچان (کل صفحات: 36)

08۔ قسط 1: وضو کے بارے میں دسویں اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)

09۔ قسط 12: مساجد کے آداب (کل صفحات: 36)

10۔ قسط 7: اسلام امت میں دعوت اسلامی کا کردار (کل صفحات: 28)

11۔ قسط 17: تہنم کے کتبے ہیں؟ (کل صفحات: 28)

12۔ قسط 4: بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

13۔ قسط 9: یقین کامل کی برکتیں (کل صفحات: 32)

14۔ قسط 3: پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)

15۔ قسط 21: سفر مدینہ (کل صفحات: 37)

16۔ قسط 19: چھری مریدی کی شرعی حیثیت (کل صفحات: 32)

17۔ قسط 14: تمام دنوں کا سردار (کل صفحات: 32)

18۔ قسط 20: عقب عالم کی عجیب کرامت (کل صفحات: 40)

19۔ قسط 11: تہنم کیسے رکھے جائیں؟ (کل صفحات: 44)

20۔ قسط 15: اپنے لئے کفن تیار رکھنا کیسا؟ (کل صفحات: 32)

21۔ قسط 13: سادات کرام کی تعظیم (کل صفحات: 30)

### ﴿شعبہ تخریق﴾

01۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق رسول (کل صفحات: 274)

02۔ فیضان لبس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (کل صفحات: 20)

03۔ تحقیقات (کل صفحات: 142)

04۔ بہار شریعت جلد سوم (حصہ 14: 20) (کل صفحات: 1332)

05۔ فیضان نواز (کل صفحات: 49)

06۔ جنت کے طلبہ کا دل کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)

07۔ جنتی زیور (کل صفحات: 679)

08۔ بہار شریعت جلد دوم (حصہ 13: 7) (کل صفحات: 1304)

09۔ آئینہ قیامت (کل صفحات: 108)

10۔ بہار شریعت جلد اول (حصہ 6: 1) (کل صفحات: 1360)

11۔ علم القرآن (کل صفحات: 244)

12۔ اہلبات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (کل صفحات: 59)

13۔ آئینہ عبرت (کل صفحات: 133)

14۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)

15۔ اربعین حنیفہ (کل صفحات: 112)

16۔ بہار شریعت (مولوہاں حصہ) (کل صفحات: 312)

17۔ سوانح کریمہ (کل صفحات: 192)

18۔ گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)

19۔ منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)

20۔ سیرت رسول عربی (کل صفحات: 758)

21۔ کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)

22۔ اچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)

23۔ اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)

24۔ جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)

25۔ 19 دوزخ و سلام (کل صفحات: 16)

- 26... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50) 27... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170) 28... بے گناہ کی گناہیں (کل صفحات: 249)  
29... سرمایہ آخرت (کل صفحات: 200) 30... مکتبہ القلوب (کل صفحات: 692) 31... سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)

### ﴿شعبہ فیضان صحابہ﴾

- 01... فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد اول) (کل صفحات: 864) 02... فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)  
03... فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد دوم) (کل صفحات: 856) 04... فیضان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 32)  
05... حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132) 06... حضرت ابوجہد و بن جراح رضی اللہ عنہ (کل صفحات: 60)  
07... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89) 08... فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)  
09... حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56) 10... حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)

### ﴿شعبہ فیضان صحابیات﴾

- 01... بارگاہ رسالت میں صحابیات کے ذرائع (کل صفحات: 48)  
02... فیضان حضرت آسیہ (رضیہ اللہ تعالیٰ عنہا) (کل صفحات: 36)  
04... صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول (کل صفحات: 144)  
06... فیضان لیلیٰ مریم (رضیہ اللہ تعالیٰ عنہما) (کل صفحات: 91)  
08... صحابیات اور عشق رسول (کل صفحات: 64)  
10... فیضان امہات المؤمنین (کل صفحات: 367)  
03... فیضان بی بی ام سلیم (کل صفحات: 60)  
05... صحابیات اور پردہ (کل صفحات: 56)  
07... شانِ خاتونِ جنت (کل صفحات: 501)  
09... فیضان خدیجہ الکبریٰ (کل صفحات: 84)  
11... فیضان عائشہ صدیقہ (کل صفحات: 608)

### ﴿شعبہ اسلامی کتب﴾

- 01... اعرابی کے سوالات عربی آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات (کل صفحات: 118) 02... تحفہ (کل صفحات: 97)  
03... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات (کل صفحات: 590) 04... حسد (کل صفحات: 97)  
05... غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106) 06... بدنامی (کل صفحات: 57)  
07... 40 فرامین مصطفیٰ رضی اللہ عنہ و علیہ وسلم (کل صفحات: 87) 08... حرص (کل صفحات: 232)  
09... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ سوم) (کل صفحات: 352) 10... برائی (کل صفحات: 170)  
11... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ دوم) (کل صفحات: 104) 12... قلم مدینہ (کل صفحات: 164)  
13... اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ اول) (کل صفحات: 60) 14... نفیس و کبیر (کل صفحات: 83)  
15... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49) 16... بدگلوئی (کل صفحات: 128)  
17... نیک بنے اور پتانے کے طریقے (کل صفحات: 696) 18... بہتر کون؟ (کل صفحات: 139)  
19... فیضان اسلام کورس (حصہ دوم) (کل صفحات: 102) 20... فیضان زکوٰۃ (کل صفحات: 150)  
21... فیضان اسلام کورس (حصہ اول) (کل صفحات: 79) 22... تربیت اولاد (کل صفحات: 187)  
23... محبوب عطار کی 122 حکایات (کل صفحات: 208) 24... عشرہ اکرام (کل صفحات: 48)

- 25... نیکیاں برباد ہونے سے بچانے (کل صفحات: 103)
- 27... شر میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
- 29... چندہ کرنے کی شرعی احتیاطیں (کل صفحات: 47)
- 31... اسلام کے بنیادی عقیدے (کل صفحات: 122)
- 33... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
- 35... قومِ چٹاٹ اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
- 37... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
- 39... حراراتِ اولیاء کی حکایات (کل صفحات: 48)
- 41... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
- 43... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
- 45... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
- 47... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
- 49... حافظہ کیسے مضبوط ہو؟ (کل صفحات: 200)
- 51... تمیز و عینیت کا طریقہ (کل صفحات: 358)
- 53... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
- 55... آیاتِ قربانی کے انوار (کل صفحات: 62)
- 57... جہنم کرنی ویسی بھرنی (کل صفحات: 110)
- 59... فیضانِ جہنم احادیث (کل صفحات: 120)
- 61... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
- 26... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
- 28... ٹی وی اور نمودی (کل صفحات: 32)
- 30... تکلیف نہ دیجئے (کل صفحات: 219)
- 32... فیضانِ معراج (کل صفحات: 134)
- 34... ستیسیں اور آداب (کل صفحات: 125)
- 36... انفرادی کو شش (کل صفحات: 200)
- 38... نام رکھنے کے احکام (کل صفحات: 180)
- 40... نیاے صدقات (کل صفحات: 408)
- 42... خوفِ خدا: جزا و سزا (کل صفحات: 160)
- 44... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
- 46... کامیاب استاد کون؟ (کل صفحات: 43)
- 48... جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152)
- 50... مفق دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
- 52... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
- 54... غلبہ دہی کے اسباب (کل صفحات: 33)
- 56... حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)
- 58... تذکرہ صدر الافاضل (کل صفحات: 25)
- 60... دہم میں سے نہیں (کل صفحات: 112)
- 62... آقا چاہا کون؟ (کل صفحات: 63)

### ﴿شعبہ امیرِ اہلسنت﴾

- 01... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط: 5) (کل صفحات: 102)
- 03... سرکارِ مدنی اللہ تعالیٰ غنیہ و البیہ و شہد کا بیٹام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
- 05... حقوقِ العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط: 6) (کل صفحات: 47)
- 07... اصلاح کارانہ (مدنی جیل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
- 09... تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط: 7) (بیکر شرم و حیا) (کل صفحات: 86)
- 11... 25 کریمین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
- 13... دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
- 15... تذکرہ امیرِ اہلسنت (قسط: 3) (سنت نکلن) (کل صفحات: 86)
- 02... گونا گونا (کل صفحات: 55)
- 04... چشمہ دہلوانہ (کل صفحات: 33)
- 06... خوشحال (کل صفحات: 33)
- 08... کام عاشق (کل صفحات: 32)
- 10... انوکھی کمانی (کل صفحات: 32)
- 12... سنگری توبہ (کل صفحات: 32)
- 14... بٹنے کی رہائی (کل صفحات: 32)
- 16... قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)

17. شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل (کل صفحات: 16)
19. پانچ روپے کی برکت سے سات شادیاں (کل صفحات: 32)
21. آداب سر مشہ کا حل (کمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
23. اوباش و دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ (کل صفحات: 32)
25. میں نے ویڈیو سینٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
27. غریب فائدہ میں ہے (یاں 1) (کل صفحات: 30)
29. دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
31. میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
33. جو انی کیسے گزاریں؟ (یاں 2) (کل صفحات: 32)
35. اداکاری کا شوق کیسے ختم ہوا؟ (کل صفحات: 32)
37. مخالفت محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
39. جتنی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
41. چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
43. تذکرہ امیر المہنت (قسط 2) (کل صفحات: 48)
45. تذکرہ امیر المہنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
47. نو مسلم کی در و بھری داستان (کل صفحات: 32)
49. والدہ کا نافرمان امام کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
51. نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
53. ہدایہ اور شخص عالم کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
55. والدین کے نافرمان کی توبہ (کل صفحات: 32)
57. تذکرہ امیر المہنت (قسط 1) (کل صفحات: 49)
59. بریک ڈانس کیسے سہرا؟ (کل صفحات: 32)
61. معذوری بھی مہلت کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
63. عطاری جن کا غفلت میت (کل صفحات: 24)
65. قتل لاسٹ کے مسئلے پر (کل صفحات: 32)
67. ڈانسر بن گیا سنسنو کا بیکر (کل صفحات: 32)
69. ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
71. انوشاہ و بیچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
18. نور ہدایت (کل صفحات: 32)
20. ہر اسرار اکتا (کل صفحات: 27)
22. انجینی کا تھو (کل صفحات: 32)
24. چھکد ار کفن (کل صفحات: 32)
26. کینسر کا علاج (کل صفحات: 32)
28. روحانی منظر (کل صفحات: 32)
30. نادان عاشق (کل صفحات: 32)
32. غافل روزی (کل صفحات: 36)
34. جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
36. خوشیوار قبر (کل صفحات: 32)
38. شرابی کی توبہ (کل صفحات: 33)
40. بحیالک حادثہ (کل صفحات: 30)
42. یہ نصیب دو لہا (کل صفحات: 32)
44. دلوں کا چین (کل صفحات: 32)
46. ہر برکت رونی (کل صفحات: 32)
48. مرد دو پول اٹھا (کل صفحات: 32)
50. آنکھوں کا تار (کل صفحات: 32)
52. مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
54. کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
56. سٹے کا سوداگر (کل صفحات: 32)
58. باکرہ وار عطاری (کل صفحات: 32)
60. میر و نینچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
62. بد کردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
64. سینا گھر کا شیدا (کل صفحات: 32)
66. ڈاکوؤں کی واپسی (کل صفحات: 32)
68. حیرت انگیز گلوکار (کل صفحات: 32)
70. بری سنگت کا وہاں (کل صفحات: 32)
72. بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)

- 73... ڈانس رقص خوان بین آیا (کل صفحات: 32)  
 75... ساس بہوش صلح کاراز (کل صفحات: 32)  
 77... خوفناک داستان والاچہ (کل صفحات: 32)  
 79... نشتہ باز کی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32)  
 81... شرابی، مودون کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)  
 83... کریمین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)  
 85... مغلوب کی شفیابی کاراز (کل صفحات: 32)  
 87... بد چلن کیسے تائب ہوا؟ (کل صفحات: 32)  
 89... جرائم کی دنیا سے واپسی (کل صفحات: 32)  
 91... جھگڑا ویسے سدھر؟ (کل صفحات: 32)  
 93... کریمین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32)  
 95... جھگڑے باز سدھر گیا (کل صفحات: 32)  
 97... خوش نفسی کی کریمیں (کل صفحات: 32)  
 99... جواری و شربابی کی توبہ (کل صفحات: 32)  
 101... صلوة و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)  
 103... سنت رسول کی محبت (کل صفحات: 32)  
 105... سینے بول کی برکتیں (کل صفحات: 32)  
 107... رسائل مدنی بہار (کل صفحات: 368)  
 74... رہبریت کا سفر (کل صفحات: 32)  
 76... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)  
 78... میں نیک کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)  
 80... عجیب اقلیت بچی (کل صفحات: 32)  
 82... قبرستان کی چیل (کل صفحات: 24)  
 84... فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)  
 86... سینکڑوں والی دہلی (کل صفحات: 32)  
 88... کالے بچھو کا خوف (کل صفحات: 32)  
 90... غمار کے فضائل (کل صفحات: 517)  
 92... چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات: 32)  
 94... میوزک شو کا متوالا (کل صفحات: 32)  
 96... گلوکار کیسے سدھر؟ (کل صفحات: 32)  
 98... میں حیار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)  
 100... نبی کا قبول اسلام (کل صفحات: 62)  
 102... مدنی کا محل کیسے ملا؟ (کل صفحات: 56)  
 104... فیضان امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)  
 106... ڈرامہ ڈائریکٹر کی توبہ (کل صفحات: 32)  
 108... ملازم جو جو ان کی توبہ (کل صفحات: 32)

### ﴿شعبہ اولیاء و علماء﴾

- 01... فیضان مولانا محمد عبدالسلام قادری (کل صفحات: 70)  
 02... فیضان بہادور الدین و کریماتی (کل صفحات: 74)  
 04... فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی (کل صفحات: 71)  
 06... فیضان صحبہ اعظم پاکستان (کل صفحات: 62)  
 08... فیضان محترمت صابر پاک (کل صفحات: 53)  
 10... فیضان سید احمد کبیر فاضل (کل صفحات: 33)  
 12... فیضان شمس العادقین (کل صفحات: 79)  
 14... فیضان عثمان مروندی (کل صفحات: 43)  
 16... فیضان بابا فرید بخار (کل صفحات: 115)  
 03... عطار کا پیرا (کل صفحات: 166)  
 05... فیضان بابا بھٹے شاہ (کل صفحات: 75)  
 07... فیضان حافظ ملت (کل صفحات: 32)  
 09... فیضان علامہ کاظمی (کل صفحات: 70)  
 11... فیضان سید مہر علی شاہ (کل صفحات: 33)  
 13... فیضان سلطان بابہ (کل صفحات: 32)  
 15... فیضان داتا گلی تجوری (کل صفحات: 84)  
 17... فیضان خواجہ غریب نواز (کل صفحات: 32)

### ﴿شعبہ بیانات و دعوت اسلامی﴾

02... گلدستہ درود و سلام (کل صفحات: 660)

01... باطنی بیماریوں کی معلومات (کل صفحات: 352)

## مجلس المدینۃ العلمیہ کی معاونت سے دیگر مجالس کی کتب

### ﴿مجلس افتاء﴾

02... فتاویٰ البلسنت (آخر حصے)

01... یمنان نئی دے (قرآن و حدیث کی روشنی میں) (کل صفحات: 34)

11... عقیدہ آخرت (کل صفحات: 41)

10... فتاویٰ البلسنت احکام روز و احکامات (کل صفحات: 34)

13... فتاویٰ البلسنت احکام زکوٰۃ (کل صفحات: 612)

12... مال وراثت میں خیانت مت کیجئے (کل صفحات: 42)

15... کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام (کل صفحات: 34)

14... بنیادی عقائد و معمولات البلسنت (کل صفحات: 135)

### ﴿مرکزی مجلس شوریٰ﴾

03... وقت بہ پند (کل صفحات: 86)

02... کامل مرید (کل صفحات: 48)

01... اجتماعی سنت احکام کا جدول (کل صفحات: 195)

06... عشق رسول (کل صفحات: 54)

05... مدنی کام (کل صفحات: 72)

04... مدنی کاموں کی تقسیم کے تقاضے (کل صفحات: 73)

09... جنت کا راستہ (کل صفحات: 56)

08... مقصد حیات (کل صفحات: 60)

07... گستاخ رسول کا عملی ہائیکٹ (کل صفحات: 52)

12... موت کا تصور (کل صفحات: 44)

11... فیضانِ مرشد (کل صفحات: 46)

10... اللہ والوں کا اندازِ تجارت (کل صفحات: 68)

15... موت کا تصور (کل صفحات: 44)

14... بیٹی کا پرورش (کل صفحات: 72)

13... فیصلہ کرنے کے مدنی پھول (کل صفحات: 56)

18... صدائے مدینہ (کل صفحات: 32)

17... پیارے مرشد (کل صفحات: 48)

16... صحابی کی انفرادی کوشش (کل صفحات: 124)

21... برائیوں کی مایاں (کل صفحات: 112)

20... چوک و رس (کل صفحات: 36)

19... یہ وقت بھی گزر جائے گا (کل صفحات: 39)

24... غیرت مند شوہر (کل صفحات: 47)

23... علم و علما کی شان (کل صفحات: 51)

22... رسائل و دعوت اسلامی (کل صفحات: 422)

27... صدقے کا انضمام (کل صفحات: 60)

26... جامع شرائط (کل صفحات: 87)

25... شوہر کو کیسا ہو نا چاہئے؟ (کل صفحات: 47)

29... علماء پر اعتراض منع ہے (کل صفحات: 34)

28... جو پر اعتراض منع ہے (کل صفحات: 59)

31... تنہائی کاموں کی تقسیم (کل صفحات: 50)

30... احساسِ ذمہ داری (کل صفحات: 50)

33... ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ (کل صفحات: 116)

32... ایک زمانہ ایسا آئے گا (کل صفحات: 51)

35... سودا و اس کا علاج (کل صفحات: 92)

34... گناہوں کی نحوست (کل صفحات: 112)

37... سیرت ابو درداء (کل صفحات: 75)

36... ایک آنکھ والا آدمی (کل صفحات: 48)





ماہنامہ سیدہ سائرہ کا نیا دوران سے مسلسل شغل بہترین تالیف



تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ مُخْتَصَرٌ مِنْهَا الْعَابِدِيْنَ

ترجمہ بنام

# مختصر مِنْهَاجُ الْعَابِدِيْنَ



مؤلف

استاذ اعلیٰ حضرت علامہ سید احمد مدین رحیمی و حلالان علی شافعی علیہ رحمۃ اللہ  
(مکتبہ دارالعلوم)



نیک تمیزی بننے کیلئے

ہر شہرعات بعد نماز مغرب آپ کے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے انجمنی انجمنی جنتوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرمائیے ﴿﴾ سنتوں کی تربیت کے لئے مَدَنی قافلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سطر اور ﴿﴾ روزانہ ”گلہ ریہ“ کے ذریعے مَدَنی واقعات کا رسالہ پُر کر کے ہر مَدَنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ڈپے دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیے۔

**میرا مَدَنی مقصد:** ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“

اِنْ شَآءَ اللہ مہل۔ اپنی اصلاح کے لیے ”مَدَنی اِقامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مَدَنی قافلوں“ میں سڑکرتا ہے۔ اِنْ شَآءَ اللہ مہل



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، برائی سبزی منڈی، باب الممدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650 / 1144

Web: [www.maktabatulmadinah.com](http://www.maktabatulmadinah.com) / [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

Email: [feedback@maktabatulmadinah.com](mailto:feedback@maktabatulmadinah.com) / [ilmu@dwatcislami.net](mailto:ilmu@dwatcislami.net)